


www.KitaboSunnat.com

# فیروز اللغات اردو جامع

نیا ڈیشن

جدید ترتیب اور اضافوں کے ساتھ

ایک لاکھ پچیس ہزار قدیم و جدید الفاظ، مرکبات، محاورات، ضرب الامثال اور علمی ادبی، فنی اصطلاحات



www.Momeen.blogspot.com

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

## معزز قارئین توجہ فرمائیں!

کتاب وسنت ڈاٹ کام پر دستیاب تمام الیکٹرانک کتب .....

← عام قاری کے مطالعے کے لیے ہیں۔

← مجلس التحقیق الاسلامی کے علمائے کرام کی باقاعدہ تصدیق و اجازت کے بعد آپ لوڈ (Upload)

کی جاتی ہیں۔

← دعوتی مقاصد کی خاطر ڈاؤن لوڈ، پرنٹ، فوٹوکاپی اور الیکٹرانک ذرائع سے محض مندرجات نشر و اشاعت کی مکمل اجازت ہے۔

### ☆ تنبیہ ☆

← کسی بھی کتاب کو تجارتی یا مادی نفع کے حصول کی خاطر استعمال کرنے کی ممانعت ہے۔

← ان کتب کو تجارتی یا دیگر مادی مقاصد کے لیے استعمال کرنا اخلاقی، قانونی و شرعی جرم ہے۔

﴿اسلامی تعلیمات پر مشتمل کتب متعلقہ ناشرین سے خرید کر تبلیغ دین کی کاوشوں میں بھرپور شرکت اختیار کریں﴾

← نشر و اشاعت، کتب کی خرید و فروخت اور کتب کے استعمال سے متعلقہ کسی بھی قسم کی معلومات کے لیے رابطہ فرمائیں۔

[kitabosunnat@gmail.com](mailto:kitabosunnat@gmail.com)

[www.KitaboSunnat.com](http://www.KitaboSunnat.com)

نیروز اللغات اُردو، جامع کالیا  
ادیشن لغت نگاری کی جدید سائنسی بنیادوں پر  
مرتب کیا گیا ہے۔

اس لحاظ سے یہ دوسرے مُردجہ  
لغوتوں سے زیادہ مستند ہے اور عمد حاضر کے  
تمام لسانی تقاضوں کو پورا کرتا ہے۔

اس ادیشن میں گزشتہ نصف  
صدی کے عرصے میں اُردو میں رائج ہونے  
والے نئے الفاظ اور

✱ علمی

✱ ادبی

✱ سائنسی

✱ فنی

اور

✱ دفتری اصطلاحات

کے علاوہ

وہ قدیم اور متروک الفاظ بھی شامل  
کیے گئے ہیں جن کے معنی جانے بغیر اُردو کی  
کلاسیکی خصوصاً دکنی تصنیفات سے مکمل استفادہ  
نہیں کیا جاسکتا۔

تمام الفاظ کے معنی شرح و بسط  
سے دیے گئے ہیں اور ہر محاورے  
ضرب الامثال اور اصطلاح کی تشریح کی  
گئی ہے۔

(باقی دوسرے فلیپ پر)

Rs 450 00

969 0 00514 6



# فیروز اللغات

اُردو جامع

## نیا ڈیشن

نئی ترتیب اور جدید اضافوں کے ساتھ

سوالا کھ کے قریب قدیم و مروجہ الفاظ، مرکبات، مشتقات،  
مُحاورات، ضرب الامثال نیز جدید علمی، ادبی اور فنی اصطلاحات

مرتبہ

الحاج مولوی فیروز الدین رحمۃ اللہ علیہ



فیروز سنٹر

لاہور۔ راولپنڈی۔ کراچی



مطبوعہ \_\_\_\_\_ دین و سنہ لاکھ

طابع \_\_\_\_\_ عبدالسلام

کوڈ نمبر \_\_\_\_\_ 969 0 00514 6





وضاحت بھی کر دی گئی ہے۔ لیکن کسی ایسی شخصیت کا ذکر نہیں کیا گیا ہے جو بقید حیات ہے۔

○ انگریزی الفاظ اردو کے علاوہ انگریزی حروف میں بھی لکھ دیے گئے ہیں اور اردو میں ان کا وہی تلفظ دیا گیا ہے جس طرح وہ رائج ہیں۔

○ قدیم دکنی اردو کے الفاظ و محاورات مدت سے متروک ہو کر غیر مانوس ہو چکے ہیں جن کے باعث اردو لغت میں انہیں جگہ نہیں مل سکی لیکن چونکہ اب بہت سے دکنی مخلوطات شائع ہو گئے ہیں، لہذا ایک تجربہ کار ماہر سے الفاظ مدین کرا کے لغت میں شامل کیے گئے ہیں۔

○ عربی اسماء کی جمع کو اور فارسی میں ان کی جمع جو اردو میں مستعمل ہیں انہیں مفرد الفاظ کے ساتھ لکھ دیا گیا ہے۔

○ اشیاء کے معنی اور مفہوم جدید تحقیقات کے مطابق درج کیے گئے ہیں۔

○ الفاظ و محاورات کے معانی لکھنے میں زبان کی صحت و پاکیزگی کا خاص رکھا گیا ہے۔

○ کسی ایسے محاورے یا ضرب الامثال کو درج نہیں کیا گیا جو سماج کے کسی فرقے یا طبقے کے احترام کے منافی ہو یا جس سے لوگوں کے جذبات کو ٹھیس پہنچنے کا اندیشہ ہو۔

○ بھ، پھ، تھ، ٹھ وغیرہ ہندی حروف ہیں۔ سب سے پہلے فیروز اللغات میں ہی ان ہندی الفاظ کو ہائے ہوز سے الگ کیا گیا تھا اب یہ الفاظ آپ کو الگ ہندی حروف کے تحت مل سکیں گے۔

○ فون کی تینوں قسموں میں علامات کے ذریعے ان کے نون کو واضح کیا گیا ہے۔ نون ساکن کے علاوہ نون کی دو قسمیں ہیں جس نون کا اعلان نہیں کیا جاتا اور وزن میں شمار نہیں ہوتا اسے (ن) کی علامت سے ظاہر کیا گیا ہے۔ الا یہ کہ وہ لفظ کے آخر میں ہو (جس میں نقطہ نہیں ہوتا) مثلاً ہنسی، اندھیرا وغیرہ۔ جس نون کا اعلان نہ ہو لیکن وزن میں شمار ہوتا ہو اسے (ن) سے ظاہر کیا گیا ہے جیسے رنگ، جنگ وغیرہ۔

○ اگرچہ تصحیح و درستی پر خاص توجہ دی گئی ہے۔ لیکن پھر بھی انسان مرکب غن الحظاء و البشیاں کے مطابق اغلاط کا رہ جانا ممکنات سے ہے۔ ہم نے آخر میں ایک صحت نامہ درج کر دیا ہے لیکن اس کے باوجود اگر کوئی غلطی یا خامی نظر آئے تو ازراہ کرم اس سے مطلع فرمائیں تاکہ آئندہ ایڈیشن میں اس کی تصحیح ہو سکے۔



# صحت نامہ

## فیروز اللغات اردو جامع

صفحہ	کالم	سطر	غلط	صحیح	صفحہ	کالم	سطر	غلط	صحیح
۱۵۶	۱	۳۲	پیشتر کا انداز نہیں	عجب طرح کا انداز ہے	۶	۱	۲	ایٹل - ع	(۱- مثل)
۱۶۳	۱	۹۸	دریائے کے	دریائے جیحوں کے	۲۳	۲	۲	کرنا پڑتا ہے	کرنا ہی پڑتا ہے
۱۶۵	۱	۹	ملی	قلی	۲	۲	۲	ہاتھ گئی	ہاتھ سے گئی
۱۶۶	۲	۱	ہوتا ہے	پڑتا ہے	۱۸	۲	۱۲	دوسرے نمبر کیا جائے	دوسرے نمبر پر کیا جائے
۱۷۰	۱	۳	من	فن	۲	۲	۱۵	نرکھی	نرکھی
۱۷۸	۱	۱۱	معتوق	عاشق	۱۵	۲	۱۶	—	حکم
۱۸۳	۲	۳۹	انگیوں پر	انگیوں میں	۱۱	۲	۲۳	بنگلیہ	بنگلیہ
۱۹۲	۱	۲۲	شکایت کرنا	شکایت نہ کرنا	۱۲	۲	۲۶	آگ پتلا	آگ پتلا
۱۹۳	۲	۲۵	جھان	جھانسا	۱	۲	۳۷	آنکھیں	آنکھوں
۱۹۵	۱	۲۹	قیامت رومیں	قیامت تک رومیں	۱۹	۰	۰	ہو جاتی ہے	ہو جاتی ہیں
۱۹۹	۲	۳۷	لطف	لطف ہو	۲۱	۱	۳۸	اغماض	اغماض برتنا
۲۰۹	۲	۱۳	موٹا	موٹا آدمی	۱۵	۱	۲۲	شوخی دیدہ	شوخی دیدہ
۲۱۳	۱	۱۹	احسن بے وقوفی	احسن عورت	۳۱	۲	۲۷	جانے کو کتے	جانے پر کتے
۲۲۰	۲	۳۲	خاص کاغذات	خاص کاغذات کی کتاب	۹	۱	۲۸	دھوڑ دھوپ	دھوڑ دھوپ
۲۱۹	۱	۱۰	دروازوں لٹکاتے	دروازوں پر لٹکاتے	۲۶	۱	۵۵	زرخیز	زرخیز زمین
۲۸	۱	۲۸	بندگی	بندھی کلی	۱۷	۲	۰	ٹرے	کنڈے
۲۲۱	۱	۱۲	سُن گن جانا	سُن گن لینا	۲	۲	۶۷	موت	سوت
۲۲۰	۲	۱۲	بوانے	بونے	۹	۲	۷۷	کسی بزرگی	کسی کی بزرگی
۲۳۰	۱	۱	کہ مصیبت	ایک مصیبت	۱۹	۰	۰	لفظی جدت پیدا	لفظی جدت پیدا
۲۳۸	۱	۳۲	کھا	کھانا	۳۶	۲	۸۱	چار حدیثیں	چار حدیثیں
۲۳۷	۱	۲۴	جھنسا	جھنسا	۱۸	۲	۱۰۱	—	HONORARIUM
۲۵۱	۲	۳۵	—	—	۱۷	۱	۱۰۶	تصحیح	تصحیح
۲۵۲	۲	۳۲	اس میں فائدہ کم ہے	خواہ اس میں فائدہ کم ہو	۳۲	۲	۱۲۶	پس بھر	پس بھر
۲۵۸	۱	۲۳	بیکن	بینگن	۱۲	۲	۱۳۱	لائی ہے	لائی ہیں
۲۶۵	۲	۳۹	گودا دن	گودن	۱۵	۲	۱۳۷	افسوس دوسرے	افسوس ہوتا ہے دوسرے
۲۷۲	۲	—	آخری سطر	—	۲	۱	۱۳۸	ایک چپ لاکھ	ایک چپ سے لاکھ
۲۸۵	۲	۳۷	مسائل تمثیلی	مسائل کو تمثیلی	۱۷	۱	۰	میتھضائے	میتھضائے
۳۰۱	۱	۱	رسم ار	اسم مکبر	۱۶	۱	۰	—	—
۳۰۲	۲	۸	مانڈی	میدہ	۲۱	۱	۰	آخر نے	آخر مرتے
۳۱۳	۱	—	آخری سطر کھال	—	۲۵	۲	۰	ایک چنا	دیکھیے ایک چنا
۳۱۴	۲	—	پہلی سطر گود	—	۲۰	۲	۱۵۱	اہم کے	اہم کام کے
۳۲۳	۱	۱۷	وزن	وزن	۱۳	۲	۱۵۲	ہندستان میں رہنے والا	ہندستان میں پیدا ہونے والا
					۱	۲	۱۵۳	نام پر	اعدالتی اصطلاح انام پر



صفحہ	کالم	سطر	غلط	صحیح
۶۹۹	۲	۳۲	(۱-۱-ند)	اف-۱-ند)
۷۰۱	۲	۳۳	خط وخال	ند وخال
۷۰۲	۱	۷	زنگنے-بنانے	زنگ بنانے والا
۷۰۳	۱	۳۹	بائیں	گیس
۷۰۱	۱	آخری سطر	سہیل	سہیل-گوٹیاں
۷۰۳	۲	۲۵	دوشالے والا	دوشاخوں والا
۷۰۶	۱	۲۶	موسیقانہ	موسیقارانہ
۷۰۶	۱	۳۰	دیر تک رہنے	دیر تک زندہ رہنے
۷۰۶	۲	۳۱	بیسی کھیتی	بیسی کھیتی
۷۰۹	۲	۲	دورزش میں	دورزش سے
۷۰۹	۲	۱۵	گھڑی بھر ہو	گھڑی بھر کی ہو
۷۰۲	۲	۳۸	—	SUB
۷۰۸	۲	۳۸	—	سترکان بہتر جھول
۸۱۹	۱	۷	معاہدہ دینا	معاہدہ بننا
۸۳۲	۲	۱۳	شائیں لگانا	شائیں نکالنا
۸۳۳	۱	۲۰	علم راستہ	عام راستہ
۸۳۹	۲	۱۸	استعار	استعارہ
۷	۲	۲۹	سرخ	نرخ نامہ
۷	۲	۳۳	خرج	خراج
۷	۲	۳۴	آرز	آرزو
۷	۷	آخری سطر	آرمانے پر	آرمانے والا
۸۴۰	۲	۱۴	کسی اور شریک	کسی اور کو شریک
۸۴۱	۲	۸	دونوں	دونوں کی طرف سے
۸۴۲	۲	۱۱	اسی	اسی چالوں
۸۴۳	۲	۱۱	کھری کھری ہونا	کھری کھری کننا
۸۴۴	۱	۱۱	بیان کی جائے	بیان کی جائیں
۷	۲	۳۹	شخص جھگڑے	شخص جو جھگڑے
۸۶۵	۲	۱۷	بیچنے والا	بیچنے والا
۸۶۶	۲	۱۲	نااہل	نااہلی
۷	۲	۲۳	سوال	سوالی
۸۶۸	۱	۱۴	جرائم انساد	جرائم کے انساد
۸۷۷	۲	۲۶	زلف کابل	زلف-کاکل
۹۱۲	۲	۲۶	(عنوان)	غرک
۹۱۶	۲	۲۷	غلہ کرنا	ذخیرہ کرنا
۹۲۴	۱	۱۴	گندے ہوئے بالوں	گندھے ہوئے بالوں
۷	۱	۱۷	جو کسی کی یادگار	جو کسی فتح کی یادگار
۱۰۴۴	۲	۳۰	چابونیا	چابی دینا

صفحہ	کالم	سطر	غلط	صحیح
۳۲۵	۱	۲۰	دل پلانے والی	دل لپچانے والی
۳۳۰	۱	۲۹	—	آگے بڑھنا
۳۳۱	۱	۱۱	گرد	گرد
۳۴۵	۲	۳۰	اس کی تمیز میں	اس کے متعلق
۳۶۲	۲	۲۳	سرپوش	بخارات کو سرپوش
۷	۲	۳۹	ادا	بیان
۳۷۸	۱	۱۵	تولا دار	تولا -
۳۸۶	۲	۳۶،۳۵	ایسی سے	ایسی باتوں سے
۳۹۱	۱	۱۰	عبارت بن جانا	عبارت یا نام بن جانا
۴۳۱	۲	پہلی سطر	راستے آنا	راستے پر آنا
۴۵۶	۲	۲۷	—	JOURNAL
۷	۷	۳۱	—	JOURNALIST
۴۵۸	۲	۶	—	(ATOM)
۴۶۲	۱	۲۶	چرمیں پڑ جانا	تسکینیں پڑ جانا
۴۶۶	۲	۸	محفوظ رکھ	محفوظ رکھے
۴۶۳	۲	۲۴	ٹوٹل	ٹوٹل
۵۰۳	۲	۷	آبادہ ہو	آبادہ ہونا
۵۰۶	۲	۳۲	ثقل اٹھانے	ثقل اٹھانے
۵۱۵	۱	۲۵	چاندی کا کٹا ہوا	چاندی کا کٹا ہوا
۵۳۲	۱	۵	تھکان	تھکان - تھکا ہوا
۷	۲	۹	بئیر کاروائی	بئیر کو لڑائی
۵۳۷	۱	۳۷	تلوار سے	مقابلے سے
۵۷۷	۲	۷	دبنا	دبا
۵۹۸	۱	۳	خارج	خارج
۶۰۰	۲	۲۲	خوش نصیب	خوش طینت
۶۰۶	۱	۲۴	پھنسیوں کا وہ چہتے	پھنسیوں کے چہتے
۶۰۹	۱	۳۶	دال رونی کھاتے ٹوٹا تو	دال رونی کھاتے ٹوٹا
۶۳۸	۱	۳۷	بھار میں پڑے	پڑے تو بھار میں جائے
۶۵۷	۱	۱۸	بیکری	بیکری
۷	۱	۲۴	دھارا	دھاڑنا
۶۸۳	۱	۴	دھاگے پڑنا	دھاگے پڑنا
۷	۱	۳۵	برٹمن	برتن
۶۸۸	۲	۲	—	DEMY
۷	۷	۵	—	DEAN
۶۸۹	۱	۲۳	کشم	ذات
۶۹۶	۲	۳۷	عورت جو مر جائے	عورت جو خاوند کے مر جانے

صحیح	غلط	کالم	صفحہ
ذخیرہ کرنے کی	ذخیرہ رہنے کی	۲	۱۳۱۳
گانے کے فن کا ماہر	(اضافہ)	۲	۱۳۱۵
بنایا جاتا تھا	بنایا جاتا	۲	۱۳۱۷
لوہاروں	اہاروں	۱	۱۳۲۳
میرا کھانا مانے	میرا نہ مانے	۱	۱۳۲۹
کسی کی ہو جاتی	کسی ہو جاتی	۲	۱۳۳۷
نگاہ میں کھینا	نگاہ کھینا	۱	۱۳۷۶
طنز اور توہین	_____	آخری سطر	۱۳۰۳
VITAMIN	_____	۲	۱۳۰۵
چلنے کا وقت	چلنے وقت	۲	۱۳۰۷
عطا کرنا	عطانا	۱	۱۳۲۲
HALL	_____	۱	۱۳۲۹
شدت کی دھوپ	شدت کا دھوپ	۲	۱۳۳۸
جب تک ہری فصل پک	جب تک ہری پک	۱	۱۳۳۹
شگوفہ چھوڑنا	شگوفہ چھوڑنا	۱	۱۳۴۶
عورتوں	عورتیں	۲	۱۳۴۸
رہتی ہے	رہتے ہیں	۲	۱۳۵۹
HEALTH	_____	۲	۱۳۶۱

صحیح	غلط	کالم	صفحہ
پھراؤ	_____	۲	۷۸۹
کسی کے ذقے	کسی ذقے	۱	۱۰۹۰
گڑوں کا راج (غلا ٹریب)	_____	۱	۱۱۰۹
گیلا (گے۔ لا)	گیلا (گی۔ لا)	۲	۱۱۳۷
جو ہاتھ میں ہو	جو ہاتھ	۱	۱۱۴۱
بڑھانے	بڑانے	۱	۱۱۴۳
پان	پاؤن	۲	۱۱۶۵
مادام الحیات	مادام الحیات	۲	۱۱۷۸
سوکھے	سوکے	۱	۱۱۸۷
CONFIRMATION	_____	۱	۱۲۴۴
فعل کی	فعل کا	۱	۱۲۶۸
چاہا گیا	_____	۲	۱۲۷۳
مصلحت	_____	۰	۰
بند ہو جاتا ہے	بند ہوتا ہے	۲	۱۲۷۸
ہیٹا	ہیٹا	۲	۱۲۹۲
پیلے پھول	نیلے پھول	۳	۱۲۹۷
شرمندہ ہونا	(اضافہ)	۲	۱۲۹۹
ہٹا کٹا	کٹا	۲	۱۳۱۱



شراب (۶) شوربا (۷) پھولوں کا قدرتی رس (۸) رونق (۹) چمک (۱۰) عزت قدر (۱۱) جوہر۔  
 آب آب گرم گئے سر ہلنے دھرا رہا پانی (۱)۔ مثل (مادری زبان پر دوسری زبان کو تزییح دینے کی خرابی۔  
 آب آب کرتا (۱) محاورہ (۲) شرمندہ کرتا۔ شرم دلانا (۳) نرم کرنا۔  
 آب آب ہوتا (۱) محاورہ (۲) پانی پانی ہونا۔ پسینہ پسینہ ہونا (۳) بہہ نکلنا (۴) شرمندہ ہونا۔ نام ہونا۔ ہلکا ہونا (۵) لاچار ہونا۔ بے بس ہونا (۶) اُمنڈ آنا۔  
 آب آتش رنگ۔ آتش مزاج۔ آتشناک۔ آتشیں (ف) شراب سرخ (۲) خون کے آنسو۔  
 آب آجانا (۱) محاورہ (۲) اوزار یا ہتھیار کی تیز دھار ہونا۔ بارگھ چڑھنا (۳) چمک اور جلا کا آنا۔ صفائی پیدا ہونا۔ رونق آجانا۔  
 آب آخرت۔ غسل میت جو مرنے کے بعد دیا جاتا ہے۔  
 آب آمد، یتیم برخواست اف۔ مثل (۱) اصل چیز آنے کے بعد فرع کی ضرورت نہیں رہتی۔ جیسے پانی طے کے بعد تیمبے کا رہ جاتا ہے۔  
 آب آنا (۱) محاورہ (۲) چمک آنا۔ ہتھیار کی دھار تیز ہونا۔  
 آب آہن اف۔ اہمیت اوسے کی چمک۔  
 آب آہن تاب اف۔ مذاوہ پانی جس میں لوہا گرم کر کے بچھایا جاتا ہو۔  
 آب آہنہ اف۔ (۱) مذا (۲) آہنہ کی صفائی (۳) قلعی چمک۔ تیزی۔  
 آب آترنا (۱) آتر جانا (۲) محاورہ (۳) چمک جاتی رہنا (۴) بے عزت ہونا۔ عزت پر حریف آنا۔ عزت دو کوڑھی کی رہ جانا۔  
 آب (احمر) (۱) اعوانی (ف)۔ اید (۲) سرخ پانی یعنی شراب۔  
 آب اڑنا (۱) محاورہ (۲) چمک جاتی رہنا (۳) دھار گند ہو جانا۔  
 آب از سرگزشت اف۔ مثل (۱) پانی سر سے گزر گیا۔ مصیبت حد سے بڑھ گئی۔  
 آب استادہ اف۔ (۱) مذا (۲) کھڑا ہوا پانی۔ رکا ہوا پانی۔  
 آب آسیا۔ وہ پانی جس کے زور سے پن چکی چلتی ہے۔  
 آب اربار۔ بڑا حوض جو قلعوں میں پانی کا ذخیرہ رکھنے کے لیے ہوتا ہے۔  
 آب انکور (ف)۔ (۱) مذا (۲) انکور کا پانی۔ انکور کا عرق (۳) مراد شراب۔  
 آب باراں اف۔ (۱) مذا (۲) بادش کا پانی۔  
 آب باز۔ پانی میں تیرنے والا۔  
 آب بازی اف۔ (۱) مٹا پانی سے کھیلنا۔ پانی سے ایک دوسرے پر چھینٹے اڑانا۔  
 آب بر آہنہ رختن (ف)۔ مثل (۱) ایران کی رسم ہے کہ جب کوئی سفر کو جاتا ہے تو آہنہ پر بزیٹے رکھ کر پانی ڈالتے ہیں اور خیریت سے واپس آنے کا شگون لیتے ہیں۔  
 آب بردن اف۔ محاورہ (۲) بے رونق کرنا۔ خراب کرنا۔  
 آب بستہ (ف)۔ (۱) مذا (۲) جما ہوا پانی۔ برف (۳) او سے (۴) تخی (۵) بلور کا پیالہ۔

آب (۱) آگے بڑھنے کا حکم۔ جاکی ضد (۲) کم مرتبے والے کو بلانے کی آواز۔  
 آب (۳) کبوتروں کو بلانے کی آواز (۴) سربا تان لینے کی آواز (۵) مصدر آنا کا صیغہ واحد حاضر (۶) بازی گردوں یا مدار یوں کے کسی غائب چیز کو بلانے کی آواز۔  
 آب۔ پالتوں پرندوں کو بلانے کی آواز۔  
 آبلا گلے پڑ، نہیں پڑنی تو بھی پڑ (۱)۔ مثل (۲) خواہ مخواہ لڑائی مول لینے کی نسبت کہتے ہیں۔  
 آبنا (۱) محاورہ (۲) مثل (۳) بلانا زل ہونا۔ مصیبت پڑنا۔  
 آبوا لڑیں، لڑے ہماری بلا (۱)۔ مثل (۲) جو خواہ مخواہ مول لڑائی مول لے۔ عورتیں اس کی نسبت کہتی ہیں۔  
 آبے سونٹے تیری باری۔ کان چھوڑ کپٹی ماری (مثل) کسی کام میں لگانا۔ ناکام رہ کر آخری تدبیر کرنا۔  
 آبیل مجھے مار (مثل) خواہ مخواہ جھگڑے میں پڑنا۔ لڑائی مول لینا۔  
 آبے لونڈے جا بے لونڈے کرتا (۱)۔ مثل (۲) پھرنا پھرنا، دوڑانا، ہیر پھری کرنا۔ وقت گزارنا۔  
 آب پڑنا۔ آ موجود ہونا، ٹیک پڑنا (۲) ٹوٹ پڑنا۔ حملہ آور ہونا (۳) کسی کے گھر آ رہنا، غیر متوقع مصیبت یا آفت نازل ہونا۔  
 آب پڑوسن لڑ، لڑیں (۱)۔ مثل (۲) خواہ مخواہ لڑائی مول لینے کے وقت کہتے ہیں۔  
 آب پڑوسن لڑیں۔ بے سبب زبردستی کی چھیڑ چھاڑ کرنا۔  
 آب پڑوسن جھستی ہو۔ اپنے ساتھ دوسروں کو بھی برباد کرنا۔  
 آب پنچنا (۱) محاورہ (۲) منزل طے کرنا۔ پہنچ جانا۔  
 آب پھنسا (۱) محاورہ (۲) پھنس جانا (۳) فریب میں آنا۔  
 آب پھنسنے کی بات ہے یا پھنسنے کا معاملہ ہے (۱)۔ مثل (۲) مجبور اسب کچھ کرنا بڑتا ہے۔  
 آب جانا (۱) محاورہ (۲) سیکھ لینا۔ پہنچ جانا۔  
 آب جانا (۱) محاورہ (۲) پکڑ لینا۔ دبوچ لینا۔  
 آب ڈھکنا (۱) محاورہ (۲) بے دھڑک چلے آنا۔ اچانک آجانا۔  
 آب ڈھکنا۔ ڈیرہ جما لینا۔ آ موجود ہونا۔  
 آب رہنا (۱) محاورہ (۲) سکونت اختیار کرنا۔ رگر پڑنا۔ کھڑ جانا۔  
 آب لگنا (۱) محاورہ (۲) قریب آجانا۔ پہنچنا۔  
 آب لینا (۱) محاورہ (۲) پکڑ لینا۔ قریب پہنچ جانا۔  
 آب مرننا (۱) محاورہ (۲) آ موجود ہونا (تحقیراً) آجانا۔  
 آب نکلنا (۱) محاورہ (۲) بے ارادہ پہنچ جانا۔ اتفاقاً چلے آنا۔

## آب

آب (ف)۔ (۱) مذا (۲) پانی (۳) پسینہ (۴) آنسو (۵) عرق (۶) اخص



آب بقا (ن۔ ع۔ ۱۰۔ مذ) آب حیات ۱۲۱ امرت جل۔  
آب بکرگنا (۱۔ محاورہ) چمک جانی ترہنا، ماند ہو جانا (۲) دھار کند ہو جانا۔  
۱۳۱ عزت میں کمی آجاتا۔

آب بینی۔ ناک کی رطوبت۔ رینٹھ۔

آب پاش (۱۱) درختوں اور پودوں کو پانی دینے کا برتن (۲) سقا۔ بہشتی۔  
آب پاشال۔ ایران کا ایک نوار جس میں ایک دوسرے پر گلاب چھڑکتے ہیں  
آب پاشی (۱۱) سینچنا۔ کھیتی کو پانی دینا (۲) پانی کا چھڑکاؤ کرنا۔  
آب پشت (ن۔ ۱۔ مذ)۔ نطفہ۔ منی۔

آب پریاں (ن۔ ۱۔ ص) تیر کی نوک کی تیزی۔

آب پیما (ن۔ ۱۔ مذ) (۱۱) مقیاس الماء۔ مائعات کی کثافت اضافی  
معلوم کرنے کا آلہ۔ جس سے مائعات کے خالص، نخالص ہونے کا پتہ  
چلتا ہے۔ (Hydrometer)

آب تاب (ن۔ ۱۔ مٹ) (۱۱) بھرک۔ چمک دمک (۲) آرائش۔ رونق۔  
روپ۔ زیبائش۔

آب تری (ن۔ ۱۔ مٹ) جنون سگ گزیدگی۔ ہرک۔ پاگل کتے کے کاٹنے  
کے باعث پانی سے ڈرنا۔

آب تیغ (ن۔ ۱۔ ص) (۱۱) شراب (۲) تیزاب (۳) کھاری پانی (۴) آنسو۔  
آب تیغ۔ تلوار کی کاٹ۔ تیزی۔ چمک۔ صفائی۔

آب جاری۔ بہتا ہوا پانی۔ رواں پانی۔  
آب جانا (۱) چمک زور ہونا (۲) دھار کند ہونا۔

آب جوارف (۱۔ مٹ) چشمہ۔ ناری۔ نالہ۔ نہر۔

آب جوش (۱۱) بخنی۔ گوشت کا عرق (۲) سوڈا وارٹ۔

آب چڑھانا (۱) صیقل کرنا۔ صاف کرنا۔ چلا دینا (۲) بارٹھ رکھنا۔ پھیر چھانا  
آب چڑھنا۔ صیقل ہونا۔ صاف ہونا۔ چلا ہونا۔ بارٹھ ہونا۔

آب چشم۔ آنکھ کا پانی۔ آنسو۔ اشک۔

آب چمک۔ پانی چلنے کی جگہ۔

آب چھوڑ کر گزشت، چھریک نیزہ چھریک دست مثل جب  
پانی سر سے اڑنچا ہو گیا تو پھر کچھ بقی ہو۔ مصیبت یا بدنامی حد سے بڑھ جائے  
تو پھر احساس ختم ہو جاتا ہے۔

آب حرام (۱۱) ناپاک پانی جس کا پینا درست نہیں (۲) شراب وغیرہ۔

آب حیات (۱۱) امرت۔ جس کے پینے سے موت نہیں آتی کہتے ہیں

حضرت خضر نے آب حیات پیا ہوا ہے۔ آب حیوان۔ مولانا محمد حسین آزاد  
کی کتاب کا نام ہے جس میں شعرائے اردو کا ذکر کیا گیا ہے۔

آب خاصہ۔ امیروں یا بادشاہوں کے مینے کا پانی۔

آب جمالت (۱۱) جمالت۔ شرم سے پانی پانی ہو جانا۔

آب خضر۔ آب حیات۔ وہ پانی جسے پی کر حضرت خضر نے ہمیشہ کی عمر پائی

آب خضر۔ خجرجی تیزی۔ کاٹ۔

آب خور۔ پانی مینے کا چھوٹا سا مٹی کا برتن۔ کوزہ۔

آب خور سے بھرنا۔ آنجوروں میں شربت یا دودھ بھر کر نیاز دلوانا۔

آب خیر (۱۱) نہر۔ موج۔ پانی کا بہاؤ (۲) وہ زمین جہاں پر محفوظ اساکھونے  
پر پانی نکل آئے۔

آبدار (۱۱) تازہ و سیراب (۲) وہ شخص جو امیروں کے ہاں پانی پلانے پر  
مقرر ہو (۳) چکیلا، صاف (۴) تیز دھار کا ہتھیار (۵) مجلا۔ خوبصورت  
(۶) لطیف و نفیس۔

آب دارخانہ (ن۔ ۱۔ مذ) پانی رکھنے کا کمرہ۔

آب داری (ن۔ ص) (۱) بارٹھ تیزی (۲) چمک دمک۔ چلا (۳) طاقت  
لطافت، خوبی (۴) آبدارخانہ کی خدمت۔

آب داری دینا (۱) چمکانا۔ پاش کرنا (۲) اوزار پر پانی چڑھانا۔ اوزار  
تیز کرنا۔

آب دان (ن۔ ۱۔ مذ) تالاب۔ حوض (۲) پانی کا برتن۔

آب دانہ (ن۔ ۱۔ مذ) دانہ پانی۔ آن بجل۔ روزی۔ رزق۔

آب در (۱۱) موتی کی چمک (۲) چلا (۳) آب و تاب۔

آب دست (ن۔ ۱۔ مذ) (۱) استنجا۔ طہارت (۲) پاکیزگی جو پانی سے کھائے۔  
آب دست (کرنا) لینا۔ استنجا کرنا۔ طہارت کرنا۔

آب دندان (ن۔ ص) دانوں کی چمک۔

آب روزان (ن۔ ۱۔ مٹ) (Submarine) اڈبکنی کشتی۔ تخت البحر  
کشتی۔ وہ جنگی کشتی جو سطح آب کے نیچے بھی چل سکتی ہے اور ادر بھی۔

آب زمین (۱۱) منہ کا لعاب (۲) کلی نکا پانی۔

آب دیدہ۔ آنکھوں کا پانی۔ آنسو۔

آب دیدہ۔ وہ شخص جس کی آنکھوں میں آنسو بھرے ہوئے ہوں۔  
رونے پر آمادہ۔ روانا۔

آب دیدہ (رہنا) ہوتا (۱۱) محاورہ (۱) آنکھوں میں آنسو بھرے رہنا۔ نگین ہونا  
آب دینا (۱) محاورہ (۱) کسی دھار والی چیز کو سان پر لگانا یا پتھر پر تیز  
کرنا (۲) سینچنا (۳) چمکانا۔ چلا دینا۔

آب رگمت (ن۔ ۱۔ ع۔ ۱۰۔ مذ) (۱) بارش۔ مینہ (۲) بخشش۔ معافی۔

آب (رکھنا) رکھوانا (۱) محاورہ (۱) سان پر چڑھانا۔ دھار تیز کرنا۔ بارٹھ رکھنا  
آب رواں (ن۔ ۱۔ مذ) ایک قسم کا باریک کپڑا۔ ڈوریا جو نہایت باریک  
ہوتا ہے (۲) بہتا ہوا پانی۔

آب زبرد (۱) پانی گرنے کی جگہ (۲) دوات میں پانی ڈالنے کی تھی۔

آب زرد (ن۔ ۱۔ مذ) سونے کا پانی جو نقاشی یا کتابت میں کام آتا ہے۔

آب زرد سے لکھنے کے قابل ہے۔ (۱) صاف نہایت احترام اور عزت  
کے قابل بات۔

آب زکال (ن۔ ۱۔ ع۔ ۱۰۔ مذ) (۱) صاف شفاف پانی (۲) تھرا ہوا پانی (۳)  
بھیلگی ہونی دوا کا پانی۔

آب زمزم (ن۔ ۱۔ ع۔ ۱۰۔ مذ) زمزم کا پانی۔ مکہ معظمہ کا ایک خاص چشمہ جو  
حضرت اسماعیل کے لیے جاری ہوا تھا۔

آب زن۔ وہ ظرف جس میں دواؤں کا جوش کیا ہوا پانی بھر کر مریض کو  
اس میں بٹھاتے ہیں۔

آب زن کرنا۔ دوا کے پانی میں بٹھانا (۲) انہانا۔



بتدا ہونے سے پہلے شور مچانا۔

آب منقرہ اف ۱۔ مذ ۱۱۱ پارہ ۱۲ چاندی کا پانی، چاندی کا ملمع، چاندی کا گلت۔

آب سر رہنا ۱۱۔ محاورہ ۱۱۱ بے رونق ہو جانا ۱۲ ہتھیار کی دھار گندہ ہو جانا یا چمک کم ہو جانا ۱۳ بے عزت ہو جانا ۱۴ قلعی آتر جانا۔

آب نے (ف ۱۰۔ مٹ) حقہ میں نیچے کا وہ حصہ جو پانی میں رہتا ہے۔  
آب نیساں ۱۱ نیساں رومی ساتویں مہینے کا نام موسم بہار یعنی مارچ اپریل کی یارش۔ مشہور ہے کہ اس کے قطروں سے سیپ لیں موتی۔ بانس میں بنسلو جن اور گائے کے کان میں گنو کو چن بنتا ہے۔

آب و تاب ۱۱ چمک دیک، روشنی ۱۲ روشنی ۱۳ تیزی ۱۴ لطافت، حسن و خوبی، آرائش۔ زیبائش۔

آب و خور۔ دانہ پانی۔ رزق۔ کھانا پینا۔ ان جل۔ خوراک۔

آب و دانہ۔ دانہ پانی۔ ان جل۔ رزق۔ خوراک۔

آب و دانہ ختم ہونا ۱۱۔ محاورہ ۱۱۱ رزق ختم ہونا، سفر درمیش آنا۔ موت آنا۔

آب و رنگ ۱۱ آب۔ رونق۔ رنگ۔ خوبی ۱۲ صفائی۔ بہار۔ چمک۔

آب و خوبصورتی۔ صفائی ۱۳ دنیا کا مزہ۔ کیفیت۔ سیر تماشا۔

آب و گل ۱۱ پانی اور مٹی ۱۲ عادت۔ سرشت۔ خمیر ۱۳ کالبد۔ جسم۔ قالب۔

آب و زبان۔ کھانا پانی۔ رزق۔

آب و نمک ۱۱ ذائقہ۔ مزہ۔ سواد ۱۲ ماحضر۔ دال دیا۔ کھانا۔ طعام۔

آب و ہوا ۱۱ پانی اور ہوا ۱۲ پانی اور ہوا کی کیفیت ۱۳ موسم۔ رت۔

آب و ہوا بدلنا ۱۱ محاورہ ۱۱۱ صحت و تندرستی کی بحالی کے لیے کسی بہتر جگہ جانا

آب و ہوا کا راس آنا ۱۱ محاورہ ۱۱۱ کسی جگہ کا موسم طبیعت کے موافق ہونا۔

آب و ہوا کا بجار ۱۱ محاورہ ۱۱۱ موسم کی خرابی۔

آب ہند۔ دریائے سندھ۔

آب ہونا ۱۱ رقیق ہونا۔ پتلا ہونا پانی ہو جانا۔ گھل جانا ۱۲ شرمندہ ہونا۔

آب ہونا بھینپنا ۱۳ برباد ہونا۔ ضائع ہونا۔ چمک ہونا۔ حلا ہونا۔

آب ہونا تیزی ہونا ۱۴ آسان ہو جانا ۱۵ دھار نیر ہونا۔

آب ہاری اف ۱۱ مٹ، باغوں اور کھیتوں کو سینچنا۔ پانی دینا۔

آب ہار۔ پانی کا حصول۔

آب آ (آ۔ با) ۱۰۔ مذ ۱۱ آب کی جمع۔ باپ دادا۔ اگلی پڑھیاں۔

آب او اجداد۔ باپ دادا۔ مورث۔

آبائے علوی۔ لو آسمان۔ سات سیارے۔

آباد (آ۔ باد) ۱۱۔ ص ۱۱۱ بھرا ہوا پانی۔ معمور۔ آدمیوں سے بسا ہوا۔

آباد بسنے والا۔ رہنے والا۔ ۱۲۔ ۱۳۔ ۱۴۔ ۱۵۔ ۱۶۔ ۱۷۔ ۱۸۔ ۱۹۔ ۲۰۔ پھلا پھولا۔

آباد شاداب۔

آباد رکھنا ۱۱ بسا رکھنا۔ معمور رکھنا ۱۲ سلامت رکھنا۔ برقرار رکھنا خوش و

آباد رکھنا ۱۳ رونق پور رکھنا۔

آباد کاری۔ وہ شخص جو کسی غیر آباد علاقے میں سکونت اختیار کرے بغیر آباد۔

آباد کاری۔ غیر آباد علاقوں کا آباد کرنا۔ کسی علاقے کے باشندوں کا معاش

آب زندگانی (زندگی) آب بقا۔ آب حیات

آب زنی ۱۰۔ مٹ، چھڑکاؤ۔ پانی ڈالنا۔

آب زیر کاہ ۱۱ پانی جو گھاس کے نیچے چھپا ہوا ہو ۱۲ مکار آدمی۔

آب بسیل۔ وہ پانی جو پیاسوں کے لیے سیرا رکھتے ہیں اور مفت پلاتے ہیں

آب سرخ اف ۱۰۔ مذ ۱۱ شراب ۱۲ اشک خونیں ۱۳ وہ پانی جس کا

رنگ سرخ ہو۔

آب سیاہ اف ۱۰۔ مذ ۱۱ شراب ۱۲ گہرا پانی۔ بھنور کا پانی ۱۳ ادوات

کی سیاہی ۱۴ موتیابند۔ آنکھ کی بیماری۔

آبشار اف ۱۰۔ مذ ۱۱ بھرنا۔ اونچی جگہ سے گرنے والا قدرتی پانی۔

آب شرم اف ۱۰۔ مذ ۱۱ شرمندگی کا پانی۔ وہ پسینہ جو ندامت کی وجہ سے آئے۔

آب شمشیر اف ۱۰۔ مذ ۱۱ تلوار کی چمک یا دھار۔

آب شناس اف ۱۰۔ مذ ۱۱ حقیقت دان۔ ماہر۔ ملاح۔

آب شور اف ۱۰۔ مذ ۱۱ کھاری پانی۔ سمندر کا پانی۔ ٹیکین پانی۔

آب شورہ اف ۱۰۔ مذ ۱۱ شورے میں کھٹکا گیا ہوا پانی ۱۲ نیمو کا شربت

آب شیر اف ۱۰۔ ص ۱۱ صفت ایلٹھا پانی۔

آب عنب اف ۱۰۔ مذ ۱۱ انگوری شراب

آبکار اف ۱۰۔ مذ ۱۱ شراب فروش۔ کلال۔

آب کاری ۱۱ شراب کھینچنے اور نیچنے کا کارخانہ یا جگہ ۱۲ وہ محکمہ جس میں

مسکرات کا حصول یا جاتا ہے۔

آب کش۔ کنویں سے پانی نکلنے والا۔ سقا۔

آب کوثر۔ حوض کوثر کا پانی۔

آب کوثر سے دھلی ہوئی زبان۔ بڑی صاف ستھری شستہ اور پاکیزہ

آب گل اف ۱۰۔ مذ ۱۱ گلاب کا عرق۔ پھولوں کا پانی۔

آب گل رنگ، گلگول۔ گلاب کے پھول کے رنگ کا پانی۔ مراد شرح شراب

آب گوشت۔ گوشت کا پانی۔ نجی۔ شوربا۔

آب گول ۱۱ پانی کے رنگ کا ۱۲ آسمانی رنگ کا، ہلکا نیلا ۱۳ شیشہ ۱۴

برف ۱۵ اچھیلی تلوار ۱۶ گندم کا لٹا ستہ ۱۷ آسمان۔

آب گوہر اف ۱۰۔ ص ۱۱ موتی کی چمک۔

آب کبیر ۱۱ حوض۔ تالاب ۱۲ وہ جگہ جہاں پانی جمع ہوا ۱۳ جولا ہوں کا ایک

اوزار جس سے تپنے ہوئے سوت پر پانی چھڑکتے ہیں۔

آب کبیر اف ۱۰۔ مذ ۱۱ شیشہ۔ کانچ۔ بلور۔ آئینہ ۱۲ الماس ۱۳ انگلی

آب کبیر اف ۱۰۔ مذ ۱۱ لٹین کا شیشہ

آب مٹ جانا۔ آب و تاب جانی رہنا۔ رونق جانی رہنا۔

آب مروارید ۱۱ موتی کی چمک ۱۲ موتیابند۔ آنکھ کی بیماری۔

آب مرقق۔ صاف پانی۔ نھرا ہوا پانی۔

آب مجھد ۱۱ ڈال۔ او سے ۱۲ بلور کا پیارہ ۱۳ برف۔

آب کے اف ۱۰۔ مذ ۱۱ کا وہ تنگ راستہ جو خشکی کے دو بڑے حصوں

کو ایک کرے اور پانی کے دو حصوں کو ملائے۔

آب ندرت اف ۱۰۔ ص ۱۰۔ مذ ۱۱ شرمندگی کے آنسو۔

آب ندرت موزہ کشیدہ (فٹیل) پانی دیکھے پھر موزے آنا خطرے میں



مقاصد کے تحت کسی دوسرے علاقے میں جانا۔

آباد کرنا (۱) رونق دینا۔ بسانا۔ معمور کرنا (۲) کاشت کرنا۔  
آبادان (آ۔ با۔ دان) آف۔ صفا۔ ساہوا۔ خلیج فارس پر ایران کا ایک شہر  
آبادانی (آ۔ با۔ دان) (نی) (ن) (مٹ) (۱) بستی۔ آبادی۔ آراستگی۔ رونق۔ چہل  
پہل (۲) بھی خواہی۔ خیر طلبی۔

آبادی (آ۔ با۔ دی) (ن) (مٹ) (۱) بستی۔ باشندوں کی کثرت (۲) آرام۔ چین  
سکھ (۳) رونق۔ زیبائش۔ روشنی۔ اجالا۔ گھاگھی۔ چہل پہل۔ جمع۔ آبادیات  
آبان (آ۔ بان) (ن) (مٹ) (۱) فارسی کا آٹھواں مہینہ (۲) اس فرشتے کا نام  
جو جہے پر موکل ہے۔ (۳) ہر سنسی مہینے کا دسواں دن۔

آبانگاہ (ن) (مٹ) (۱) ماہ فروردین کا دسواں دن (۲) پانی کا موکل فرشتہ  
آبانی (آ۔ با۔ ای) (ن) (مٹ) (۱) صفا۔ سورتی۔ باپ واداکی۔ خاندانی۔ پشتینی۔  
آبئین (ن) (مٹ) (۱) مذا فریدیوں کے باپ کا نام۔

آبرو (آ۔ ب۔ رو) (ن) (مٹ) (۱) عصمت (۲) قدر و منزلت۔ شرف۔ ناموسی۔  
(۳) امارت و جاہت (۴) ساکھ۔ اعتبار۔ بات (۵) شرم۔ لاج (۶) حیثیت (۷) ناموس  
عزت (۸) اردو زبان کے پہلے دور کے شاعر شاہ مبارک کا تخلص۔ جمع۔ آروا۔ کرنا

آبرو اتارنا۔ ذلیل کرنا۔ بے حرمت کرنا۔ عصمت میں دھبہ لگانا بے عزتی  
آبرو اتر جانا۔ ذلیل ہونا۔ بے حرمت ہونا۔ ناموس میں دھبہ لگانا۔  
آبرو بچانا (محاورہ) عزت بچانا۔ عصمت و ناموس محفوظ رکھنا۔  
آبرو بگھٹانا (محاورہ) مرتبہ بڑھانا۔ بزرگی دینا۔ توقیر بڑھانا۔

آبرو برباد ہونا (محاورہ) بدنام ہونا۔  
آبرو بڑھانا (محاورہ) عزت میں اضافہ کرنا۔ توقیر زیادہ کرنا۔ مرتبہ بڑھانا۔

آبرو بڑی دولت ہے (محاورہ) عزت بڑی چیز ہے۔  
آبرو بگھٹنا (محاورہ) ذلیل ہونا بے حیثیت ہونا بے عزت ہونا۔  
آبرو دینا (محاورہ) (۱) ٹھاکھ درست کرنا۔ حیثیت ٹھیک کرنا (۲) عزت  
پیدا کرنا۔ ساکھ پیدا کرنا (۳) مرتبہ بڑھانا۔ جاہل پیدا کرنا۔

آبرو دینی ہونا (محاورہ) (۱) حیثیت درست ہونا۔ عزت سلامت ہونا۔  
(۲) ساکھ قائم رہنا۔ اعتبار قائم رہنا۔

آبرو دینچنا (محاورہ) عزت گنونا۔ ذلیل ہونا۔  
آبرو دینا (محاورہ) شرف حاصل کرنا۔ عزت حاصل کرنا۔ مرتبہ بڑھانا۔  
آبرو دینی ہونا (محاورہ) عزت برباد ہونا۔ خوار ہونا۔

آبرو دینا پانی پھر جانا (محاورہ) (۱) عزت جاتی رہنا۔ قدر جاتی رہنا (۲)  
بے عصمت ہو جانا۔

آبرو دینا پانی پھیر دینا۔ عزت کھو دینا۔ بے عزت کر دینا۔ بدنام کر دینا۔  
رسوا کر دینا۔ بے عصمت کر دینا۔

آبرو پر حرف آنا (محاورہ) (۱) عزت میں فرق آنا۔ مرتبے میں فرق آنا۔  
ذلیل ہونا (۲) عصمت نخل آنا۔

آبرو پیدا کرنا (محاورہ) ناموری پیدا کرنا۔ عزت حاصل کرنا (۲) ساکھ جانا۔  
آبرو بھاننا (محاورہ) عزت محفوظ رکھنا۔ قدر و منزلت قائم رکھنا  
آبرو محفوظی سی (ذرا سی) ہے (محاورہ) بہت معمولی عزت ہے۔  
آبرو تیرے ہاتھ ہے۔ (محاورہ) عزت بچانا تیرے اختیار میں ہے۔

آبرو دھکے کی ہو جانا (محاورہ) عزت مٹ جانا۔ ساکھ جاتی رہنا۔  
آبرو دھکے نہیں آتی (مث) عزت ضائع ہو کر پھر حاصل نہیں ہوتی۔  
آبرو دھان سے زیادہ عزیز ہے (محاورہ) عزت کا خیال جان سے زیادہ  
پیارا ہوتا ہے۔

آبرو دھک میں رہے تو بادشاہ ہی جانیے (مث) عزت بڑی نعمت  
ہے جو بادشاہت کے برابر ہے۔

آبرو دھکنا۔ عزت کا خواہش مند ہونا۔ عزت برقرار رکھنے کی کوشش کرنا  
آبرو دھک میں مل جانا (محاورہ) عزت ختم ہو جانا۔ بالکل عزت نہ رہنا۔  
آبرو دھک کے ہاتھ ہے۔ عزت کا رکھنا خدا کے اختیار میں ہے۔

آبرو خراب کرنا (محاورہ) عزت بگاڑنا۔ بے عزت کرنا۔ شان کے خلاف  
کوئی کام کرنا۔

آبرو دار (ن) صفت اذی عزت۔ مرتبے والا۔ جیادار۔ غیرت دار۔  
آبرو دو کوٹری کی ہو جانا (محاورہ) آبرو دھکے کی ہو جانا۔ عزت ختم ہو جانا۔  
آبرو دینا (محاورہ) (۱) عزت بگھٹانا (۲) بے عصمت ہونا۔ عزت گنونا (۳)  
وقار کھونا۔

آبرو ڈبو دینا (ڈبو نا) (محاورہ) عزت کھونا۔  
آبرو ڈوب جانا (محاورہ) عزت جاتی رہنا۔ قدر و منزلت ختم ہو جانا۔  
آبرو رکھنا (محاورہ) (۱) بات رکھ لینا۔ عزت بچانا (۲) ذی مرتبہ اور ذی عزت ہونا  
آبرو رہ جانا (ن) (مٹ) (۱) بات رہ جانا۔ شرم رہ جانا۔ عزت محفوظ رہنا (۲)  
عصمت محفوظ رہنا۔

آبرو ریزی (محاورہ) بے عزتی۔ ذلت۔  
آبرو ساری (دولت) روپے کی ہے (مث) عزت روپے پیسے سے  
ہوتی ہے۔

آبرو سلامت رہنا (محاورہ) عزت قائم رہنا۔ عصمت باقی رہنا۔  
آبرو سنبھالنا (محاورہ) عزت بچائے رکھنا۔  
آبرو سے پیش آنا (محاورہ) عزت کے ساتھ برتاؤ کرنا۔  
آبرو سے ڈر کرنا (محاورہ) عزت و حرمت کی پروا نہ کرنا۔ عزت کو  
بالائے طاقت رکھ دینا۔

آبرو سے رہنا (محاورہ) عزت سے بے کرنا۔ آن بان بنائے رکھنا۔  
آبرو سے ہاتھ (اکھانا) دھونا (محاورہ) عزت سے دگر کرنا۔  
آبرو سے ہیں (محاورہ) عزت سے ہیں۔ اچھے حال میں ہیں۔  
آبرو کا بھوکا (ن) (مٹ) عزت کا خواہش مند۔  
آبرو کا پاس (ن) (مٹ) عزت کا لحاظ و خیال رکھنا۔  
آبرو کا پیاسا (محاورہ) (۱) عزت کا خواہشمند۔ (۲) کسی کی عزت کا دشمن۔  
آبرو کا صدفہ جان (مث) عزت پر جان قربان ہے۔  
آبرو کالا کو ہونا (محاورہ) عزت کے پیچھے پڑنا بے عزتی کا خواہاں ہونا۔  
آبرو کرنا (محاورہ) عزت کرنا۔ خاطر داری کرنا۔  
آبرو کم کرنا (محاورہ) آبرو گھٹا دینا۔  
آبرو کوٹری کی ہونا (محاورہ) آبرو نہ رہنا۔ بے عزت ہونا۔  
آبرو (کھونا) کھو دینا (محاورہ) (۱) بے قدری کرنا (۲) عصمت میں دھبہ لگانا۔



سخت، وزنی اور سیاہ ہوتی ہے۔  
 رابنوس کا کندہ (۱۱) مذ (آبنوس کا ٹکڑا۔ موٹا اور کالا آدمی۔  
 رابنوسی (آب۔ نو۔ سی) (۱۱) ص (سیاہ رنگ کا کالا۔ آبنوس سے بنا ہوا۔  
 آبنوسی شاخ۔ آبنوس کی شاخ۔ آبنوس کی لکڑی کی بانسری۔  
 آبنی سر اپنے چھوٹے برائی آس (۱۱) مثل (مصیبت پڑ جانے پر دوسروں  
 سے امید نہ رکھنی چاہیے۔

آبی (آ۔ بی) (ف۔ ص) (۱۱) پانی سے منسوب (۱۲) پانی میں رہنے والا (۱۳)  
 خمیری روٹی کی ایک قسم (۱۴) ہلکا ہلکا نیلا رنگ (۱۵) وہ زمین جس میں آبپاشی  
 ہوتی ہے (۱۶) سرکش۔ سرکشی، انکار کرنے والا (۱۷) نمی۔ گیلاپن۔

آبی برج۔ آسمان کے وہ برج جن کی صفت آبی ہے۔ یعنی سرطان۔ عقرب۔  
 اور حوت۔

آبی حروف۔ ابجد کے حساب سے سات حروف جن کی صفت آبی بیان کی گئی  
 ہے۔ یعنی۔ ج۔ ز۔ ک۔ س۔ ق۔ ث۔ اور ظ۔

## آب

آب [ع۔ ص] (۱۱) خود۔ اپنی ذات سے (۱۲) ذاتِ خدا (۱۳) روح۔ آتما (۱۴)  
 غائب اور حاضر کے لیے تعظیماً مستعمل ہوتا ہے۔

آب آپ (کرنا) کہتا (۱) محاورہ (خوشامد کرنا۔

آب آپ کو (۱) متعلق فعل (اپنے اپنے نفس کو، اپنی اپنی ذات کو، اپنی  
 اپنی راہ۔ اپنی اپنی طرف۔

آب آپ میں (۱) متعلق فعل (آپس میں۔

آب آپ ہی میں اور وہ وہی (مثل) آپ میں اور اس میں بڑا فرق ہے۔

آب آئے بھاگ آئے (۱) مثل (آپ کا آنا باعث برکت ہے۔

آب اپنی قبر کھودنا (۱) محاورہ (اپنی بربادی کا آپ سامان کرنا۔

آب اپنی ہی گائے ہیں (۱) مثل (آپ اپنی ہی کئے جاتے ہیں۔

آب اپنے حال میں اگر فناء ہونا خود اپنی مصیبت یا فکر میں مبتلا ہونا۔

آب اپنے حق میں کانٹے بونا (۱) آپ اپنے پاؤں پر کلہاڑی مارنا)

آپ اپنے ہاتھوں آپ مصیبت پیدا کرنا۔

آپ اپنے سے۔ خود اپنی ذات سے۔

آپ اپنے کو۔ خود اپنی ذات کو۔

آپ ایسے آپ ویسے۔ خوشامد کی باتیں۔

آب بھلے توجہ بھلا (۱) مثل (انسان خود اچھا ہو تو دنیا اس کے ساتھ  
 اچھا برتاؤ کرتی ہے۔

آب بھی ارسطو سے کم نہیں (۱) مثل (۱) آپ بھی بڑے عقل مند ہیں (۲)

(ظن) آپ بڑے بے وقوف ہیں۔

آب بیٹی۔ اپنی کہانی۔ اپنا حال۔ خود نوشت حالات زندگی۔

آب بیٹی کہوں یا جگ بیٹی (۱) مثل (اپنی کہانی سناؤں یا دنیا کی۔

آب تو عید کا چاند ہو گئے۔ (۱) محاورہ (بہت کم نظر آتے ہیں۔ دوست سے  
 بطور شکایت کہا جاتا ہے۔

آبرو کی چیز (۱) مرث (وہ چیز جس میں عزت ہو۔

آبرو کے پیچھے بڑھنا (۱) محاورہ (عزت کالا کو ہونا۔

آبرو کے درپے ہونا (۱) محاورہ (آبرو کالا کو ہونا۔ عزت کے پیچھے بڑھنا۔

آبرو گرہ میں باندھنا (۱) محاورہ (عزت کو بہت عزیز رکھنا۔

آبرو گنوانا (۱) محاورہ (۱) عزت کھونا (۲) عصمت میں داغ لگانا۔

آبرو گھٹانا (۱) محاورہ (۱) عزت کم کرنا۔ بے قدری کرنا (۲) پہلی سی عزت نہ کرنا۔

آبرو گھٹنا (۱) عزت اور مرتبہ کا برباد ہونا (۲) بے آبرو ہونا۔

آبرو لوٹ لینا۔ بے عصمت کر دینا۔

آبرو مٹا دینا۔ عزت کھو دینا۔

آبرو مٹ جانا (۱) محاورہ (عزت پر پانی پھر جانا

آبرو مٹنا (۱) محاورہ (عزت حاصل ہونا۔

آبرو موتی کی آب ہے (۱) مثل (عزت بہت نازک چیز ہے۔

آبرو میں بٹالک جانا (۱) محاورہ (عزت میں خلل پڑ جانا۔

آبرو میں داغ دھبہ لگ جانا (۱) محاورہ (عزت میں خلل پڑ جانا۔

آبرو ہونا۔ قدر ہونا۔ عزت ہونا۔ رتبہ بڑھنا۔

آب تہتی (آ۔ بس۔ ت۔ نی) (ف۔ ص) (حاملہ عورت۔

آبلونج (ف۔ ص) (مرث) (مصری۔ قند۔ مٹھائی۔

آبلہ (آب۔ لہ) (ف۔ لہ) (مذ) (پھپھولہ۔ چھالہ۔

آبلہ ہنا۔ چھالے سے پانی کا جاری ہونا۔

آبلہ پا۔ وہ شخص جس کے پاؤں میں چھالے پڑ گئے ہوں۔

آبلہ پانی۔ پاؤں میں چھلے پڑنا۔

آبلہ بڑھنا۔ چھالے کا پیدا ہونا۔ چھالانودار ہونا۔

آبلہ نیکیا۔ چھالے میں پیپ پڑنا

آبلہ بھوٹ ہنا۔ چھالے کا پھوٹ کر رطوبت جاری ہونا۔

آبلہ بھوٹنا (۱) چھالانودار (۲) حسرت نکالنا۔ دل کا غبار نکالنا۔

آبلہ بھوٹنا (۱) چھالانودار (۲) حسرت نکالنا۔ دل کا غبار نکالنا۔

آبلہ پیدا ہونا۔ چھالانودار ہونا۔

آبلہ نیکیا۔ چھالے میں جلن پیدا ہونا۔

آبلہ توڑنا۔ آبلہ بھوٹنا۔

آبلہ ٹوٹنا۔ چھالانودار ہونا۔

آبلہ چھلنا۔ چھالے میں خراش ہونا۔

آبلہ دار۔ چیچک رو۔ چیچک کے داغوں والا۔

آبلہ دل۔ وہ سوزش جو رشک و حسد سے دل میں پیدا ہو۔ اسے دل کا  
 چھالانودار دیتے ہیں۔

آبلہ ڈالنا۔ چھالانودار پیدا کرنا۔ تکلیف دینا۔

آبلہ رو۔ منہ پر چیچک داغ رکھنے والا۔

آبلہ فرنگ۔ آتش۔

آبلہ مرجھانا۔ چھالے کا خشک ہونا۔

آبلے بھرننا۔ چھالے میں رطوبت کا بھر جانا۔

آبنوس (آب۔ نوس) (ع۔ لہ) (مذ) ایک مشہور درخت کا نام جس کی لکڑی



آپ سے گیا جگ سے گیا (۱۱- مثل) آپ سے گیا جہان سے گیا جو چیز اپنے ہاتھ گئی وہ گویا دنیا ہی میں نہیں رہی۔  
آپ فیضیت اور کو نصیحت (۱۱- مثل) دوسرے کو نصیحت کرنا اور خود اس پر عمل نہ کرنا۔

آپ کا بایاں قدم لیجیے (۱۱- محاورہ) آپ بہت چالاک ہیں۔ کسی کی عیاری اور چالاک کی کے موقع پر کہا جاتا ہے۔

آپ کا پاس ہے (۱۱- محاورہ) آپ کے لحاظ سے مجبور ہوں۔  
آپ کا جہاں کاج (۱۱- مثل) اپنا کام اپنے ہاتھ سے ہی اچھا ہوتا ہے۔  
آپ کا سسر۔ بدغیرزی اور کسی کے کم سمجھنے کے موقع بولتے ہیں ہم غلط کہتے ہو۔ سیکھا لے ہو وہ بات ہے۔

آپ کا قطع کلام (سخن) ہوتا ہے (۱۱- محاورہ) کسی کے بات کرنے وقت درمیان میں بولنے کے موقع پر کہا جاتا ہے۔ آپ کی بات کاٹا ہوں۔

آپ کا کیا بگڑتا ہے (۱۱- محاورہ) آپ کا کیا جاتا ہے۔ آپ کا کیا نقصان۔  
آپ کا کیا لیتا ہے (۱۱- محاورہ) آپ کا کیا نقصان کرتا ہے۔

آپ کا گھر ہے۔ تواضع اور خاطر کے موقع پر بولتے ہیں یعنی آپ اپنا ہی گھر سمجھیے۔ خانہ بے تکلف ہے۔

آپ کا منہ ملاحظہ سے (روزمرہ) (۱۱) آپ کا لحاظ ہے (۱۱) آپ کی مجال ہے۔  
آپ کا نام ہونگا ہمارا کام ہوگا (۱۱- مثل) آپ کی شہرت ہوگی ہمارا مطلب حاصل ہو جائے گا۔

آپ کا لو کر ہوں بینکوں کا نوکر نہیں ہوں (۱۱- مثل) آپ کی ہاں میں ہاں ملاتا ہوں۔ آپ جو کچھ کہتے ہیں اس کی تائید کرتا ہوں مجھے جھوٹے بیج سے کوئی مطلب نہیں۔

آپ کو آسمان پر کھینچتا (۱۱- محاورہ) غرور و تکبر کرنا۔ اپنے آپ کو بڑا سمجھنا۔  
آپ کو بھولنا۔ اپنی حیثیت کو بھولنا۔ بے خود ہونا۔ اترانا۔

آپ کو پانا (پہنچنا) اپنی حقیقت کو سمجھنا۔  
آپ کو خاک میں ملانا (۱۱- محاورہ) اپنا آپ تجنا۔ اپنے آپ کو تباہ کرنا۔  
اگے دور جانا سمجھنا۔ غرور و تکبر کرنا۔ تمام لوگوں سے الگ ٹھنک رہنا۔

آپ کو ڈر لونا۔ اپنے آپ کو تباہ کرنا۔  
آپ کو رز کرنا۔ اپنے آپ کو قابو میں رکھنا۔ کسی کام کے کرنے سے باز رہنا۔

آپ کو شاخ زعفران (جاننا) سمجھنا یا گننا۔ اپنی ذات کو سب سے نرالا سمجھنا۔ زیاد مغرور ہونا۔

آپ کو عرش پر پہنچاتا (۱۱) اپنے آپ کو بہت زیادہ بلند سمجھنا (۱۲) اپنی بے حد تعریف کرنا۔

آپ کو مٹا دینا (۱۱) اپنے آپ کو برباد کر دینا۔ فنا کر دینا (۲) سخت محنت کرنا۔  
آپ کھائے بنی کو تائے (۱۱- مثل) اپنی غلطی دوسروں کے سر لگائے۔

آپ کی بللے۔ آپ کو کبیر۔ آپ سے کیا مطلب۔ آپ سے واسطہ نہیں۔  
آپ کی رال یہاں نہ گلے کی (۱۱- مثل) آپ کا داڑھی ہاں نہ چلے گا۔  
آپ کی شکایت میرے سر آنکھوں پر (۱۱- مثل) آپ کا شکوہ یا اعتراض ناتوا ہوں۔

آپ کی کیا بات ہے۔ آپ کے کیا کہنے ہیں۔ آپ نہایت قابل تعریف

آپ تو گرم کر کے شہرت پلاتے ہیں (۱۱- مثل) آپ کو اچھا کر دیکھا کرنا خوب آتا ہے۔

آپ تو ہوا کے گھوڑے پر سوار ہیں (۱۱- مثل) آپ بہت جلدی میں ہیں۔  
آپ بہت غصے میں ہیں۔

آپ جانیں اور آپ کا ایمان (۱۱- مثل) صحیح فیصلہ کرنا آپ کی دیانت پر موقوف ہے۔

آپ جانے اور آپ کا کام (۱۱- محاورہ) آپ اپنے نیک و ہمد کے خود ذمے داری  
آپ خورادے آپ مرادے (۱۱- مثل) اکھل کھرا۔ اپنی عقل کو بہتر سمجھنے والا (۲) غریبی میں امیرانہ ٹھاکھ سے رہنے والا۔

آپ خودی۔ خود سری۔ ضد۔ سرکشی۔ (ق)  
آپ دھاب۔ اپنی اپنی فکر۔ اپنے اپنے کام کا دھیان۔

آپ ڈال ڈال ہیں تو میں پات پات (۱۱- مثل) میں تم سے زیادہ ہوشیار اور چالاک ہوں۔

آپ ڈوبے تو جگ ڈرہا (۱۱- مثل) آپ مرگے تو گویا ساری دنیا ختم ہو گئی  
آپ ڈوبے تو ڈوبے اور کو بھی لے ڈوبے (۱۱- مثل) اپنے ساتھ دوسرے کو بھی مصیبت میں پھنسا دیا۔ اپنے ساتھ دوسرے کو بھی برباد کر دیا۔

آپ راہ راہ، دم کھیت کھیت (۱۱- مثل) اظہار میں نیک اور باطن میں مکر  
آپ روپ۔ اپنی شکل۔ اپنا ظہور۔ خدا اور اس کی بھلی۔

آپ روپ ہمارو (۱۱- مثل) خدا کا جلوہ سب سے اعلیٰ ہے۔ (۱۲)  
کسی کا مل فقیر کو کہتے ہیں یعنی آپ کا جلوہ خدا کا جلوہ ہے۔

آپ زندہ جہان زندہ، آپ مردہ جہان مردہ (۱۱- مثل) جی ہے تو جہان ہے۔  
اپنے دم کا سب کا رخا ہے۔ اپنی آنکھ بند ہو گئی تو ہوا نہ ہوا برابر ہے۔

آپ سنیں اپنا گم بند سننے (۱۱- مثل) بہت آہستہ سے بات کرنے والا۔  
آپ سے (۱۱) بغیر مانگے، از خود۔ خود ہی۔ بلا سبب (۱۲) بے طلب بے بلائے (۱۳) آپ کی مانند۔

آپ سے آپ۔ خود بخود۔ بلا سبب۔  
آپ سے آئے تو آنے دے۔ کسی کا مال بغیر کوشش کے ہاتھ لگے تو لے لو۔

آپ سے اچھا خدا (۱۱- مثل) (۱۱) اپنی ذات سے زیادہ عزیز سولے خدا کے کوئی نہیں (۱۲) آپ سے برتر خدا کی ذات ہے۔

آپ سے بے آپ ہونا (۱۱- محاورہ) بے خود ہونا۔ بہت بے چین ہونا۔  
آپ سے جانا (۱۱) بے ہوش ہونا بے خود ہونا (۱۲) بن بلائے جانا۔

آپ سے چار برسائیں میں نے زیادہ دیکھی ہیں (۱۱- مثل) (۱۱) میں عمر میں آپ سے بڑا ہوں (۱۲) میں آپ سے زیادہ تجز بہ کار ہوں۔

آپ سے چلنا (۱۱- مثل) بے خود ہو جانا۔  
آپ سے دور۔ اس جگہ کو کہتے ہیں جہاں مخاطب کی نسبت بڑی بات کہنا بے جا سمجھا جاتا ہے۔

آپ سے دور آپ کی جان سے دور (۱۱- مثل) آپ کو نقصان نہ پہنچے  
آپ کو خدا بچائے۔

آپ سے گزرتا (۱۱- محاورہ) (۱) بے خود ہو جانا (۲) انسانیت سے گزرتا  
آدمیت سے گزرتا (۱۲) اپنی حیثیت کو بھول جانا (۳) مغرور ہو جانا۔



ہیں آپ تو بہت قابل تعریف کام کرتے ہیں۔ طنزاً بھی کہا جاتا ہے۔  
 آپ کی بہاں کچھ نہ چلے گی۔ آپ کا یہاں زور نہیں چلے گا۔  
 آپ کے دشمن اس وقت کہتے ہیں جب مخاطب کو کسی بُری بات سے  
 منسوب کرنا نہیں چاہتے۔ جیسے کو توالی جا میں تیرے دشمن۔  
 آپ کے منہ کا اگال ہمارے پیٹ کا ادھار (مثلاً) آپ کے اگے  
 کا بچا ہوا ہمارے لیے کافی ہے۔ مالدار کی ادنیٰ توجہ سے غریب کا بھلا  
 ہو جاتا ہے۔

آپ کیا گاتے ہیں (۱۱- محاورہ) آپ کی بات سمجھ میں نہیں آتی۔  
 آپ مرے جگ (جہان) پر لو (۱۱- مثل) خود مر گئے تو دنیا ہی ختم ہو گئی۔  
 آپ میاں صوبے دار گھر میں ہومی جھونکے بھاڑ (۱۱- مثل) مفلس  
 میں بنے بھٹے رہنا۔ ظاہر میں دولت مند اصل میں مفلس۔  
 آپ میں۔ اپنے ہوش میں۔  
 آپ میں آنا۔ ہوش میں آنا۔

آپ میں پانا۔ اپنے نفس میں پانا۔ اپنی ذات میں حاصل ہو جانا۔  
 آپ میں کیا شاخ زعفران لگی ہے (۱۱- مثل) آپ میں ایسی کیا خصوصیت  
 آپ میں نہ رہنا (۱۱- محاورہ) ہوش و حواس کھودینا۔  
 آپ میں نہ سمانا بے خود ہو جانا۔ بہت خوش ہونا۔  
 آپ میں نہ ہونا بے خود ہونا۔ ہوش میں نہ ہونا۔

آپ نے مجھے مولے لیا ہے (۱۱- مثل) آپ نے مجھ پر اتنی زیادہ مہربانی  
 کی ہے گویا خرید لیا ہے۔ آپ نے مجھ پر بے حد احسان کیا ہے۔  
 آپ ہارے ہو کو مارے (۱۱- محاورہ) اپنی خفت دوسرے پر اتارنا۔  
 آپ سرفن مولیٰ ہیں (۱۱- محاورہ) آپ بہت ہوشیار ہیں۔  
 آپ ہی آپ۔ اپنی آپ خود بخود۔ بلا وجہ۔ بلا سبب  
 آپ ہی آپ بائیں کرنا (۱۱- محاورہ) خود سے باتیں کرنا۔ پاگلوں کی طرح  
 خود بخود بولے جانا۔

آپ ہی آپ جلنا۔ خود بخود رنج سے گھلا جانا۔ رشک کرنا۔  
 آپ ہی اپنی قبر کھودنا۔ اپنے ہاتھوں اپنی بربادی کے سامان کرنا۔  
 آپ ہی بی بی آپ ہی باندھی (۱۱- مثل) وہ خاتون جو سارے گھر کے کام  
 خود ہی کرتی ہو۔ مراد اکیلی گھر میں تنہا۔  
 آپ ہی کا کھاتا ہوں (۱۱- مثل) آپ ہی کے دیے ہوئے سے بسر کرتا ہوں۔  
 آپ ہی کی جوتیوں کا صدقہ ہے (۱۱- مثل) آپ ہی کی بددلت ہے۔  
 آپ ہی مارے آپ ہی چلائے (۱۱- مثل) خود ہی ظلم کرے اور خود  
 ہی مظلومانہ فریاد کرے۔

آپ ہی ناک چولی میں گرفتار ہیں (۱۱- مثل) گھر کے دھندوں میں  
 مصروف ہیں۔ دنیا کے بھبھروں میں مبتلا ہیں (۲۱- بڑے نازک مزاج ہیں  
 آپ ہیں۔ کلمہ تعجب۔ کسی شناسا کو یکا یک یا شک کے بعد پہچاننے پر  
 بولتے ہیں۔

آپا (آ- پا) (۱۰- مٹ) (۱۱) اپنی اصلیت۔ ہستی خودی (۲۱) ہوش و حواس  
 سدھ بڑھ (۳) بڑی بہن۔ باجی  
 آپا اماں۔ بڑی بہن کو ادب سے کہتے ہیں۔

آپا (جان اجانی)۔ بڑی بہن کو ادب سے پکارنے کا انداز۔  
 آپا تجھے سوہنہ کو بھجے (۱۱- مثل) اپنے آپ کو مٹا کر ہی خد ملتا ہے۔  
 آپا دھاپی۔ اپنی اپنی فکر۔ اپنی اپنی لگن۔ خود غرضی۔

آپٹوفون (Optophone) (آپ۔ ٹو۔ فون) (انگ۔ ۱۰- مذ) آواز سے  
 ایک آواز جو روشنی کو آواز میں بدل دیتا ہے۔ اس کی مدد سے اندھے کان  
 کے ذریعے سے پڑھ سکتے ہیں

آپریٹر (Operator) (آپ۔ رے۔ ٹر) (انگ۔ ۱۰- مذ) مشین چلانے والا  
 آپس (۱۱- پس) (۱۰- مٹ) (۱۱) ایک دیگر۔ باہم (۲۱) رشتہ داری۔  
 قرابت۔ ناتا۔ میل جول۔ یک جہتی۔

آپس داری۔ رشتہ داری۔ قرابت۔ ناتا۔  
 آپس کا معاملہ۔ باہمی معاملہ۔  
 آپس کا واسطہ (۱۱- مذ) قرابت کا تعلق۔ راہ و رسم کا علاقہ۔ میل جول کی  
 خصوصیت۔

آپس کی بات چیت۔ باہمی گفتگو۔ گھر کا معاملہ۔  
 آپس کی بھڑکت۔ باہمی توافقی۔  
 آپس کی گفتگو۔ باہمی بات چیت۔

آپس میں (۱۱- متعلق) (مثلاً) ایک دوسرے کے ساتھ رشتہ داری میں  
 آپس میں رہنا (۱۱- محاورہ) مل جل کر رہنا۔ اتفاق کے ساتھ رہنا۔  
 آپس میں یک دل ہونا۔ باہم متفق ہونا۔

آپتتا (آپس۔ تا) (ق۔ صف) خود دار۔  
 آپنچنا (آ۔ پ۔ ہنچ۔ نا) (ہ۔ مص) [پنچ جانا۔ پکڑ لینا۔ منزل طے کرنا۔  
 آپھنسا (آ۔ پھنس۔ نا) (مص) [فرب میں آنا۔ دھوکا کھانا۔ گرفتار ہونا۔  
 اتفاق سے گرفتار ہونا۔ اچانک گھر جانا۔  
 آپنچ (ق۔ ص) آپ خود۔ خود ہی۔

آپے سے باہر ہو جانا (۱۱- محاورہ) بے خود ہو جانا۔ غصہ میں بے خود ہو جانا۔  
 آپے سے جانا (۱۱- محاورہ) قابو میں نہ رہنا۔ حواس کھودینا۔  
 آپے سے گزر جانا (۱۱- محاورہ) بے حد غصہ آنا۔

آپے سے نکلنا (۱۱- محاورہ) آپے سے باہر ہو جانا۔  
 آپے میں (آنا) آجانا (۱۱- محاورہ) ہوش میں آجانا۔  
 آپے میں نہ رہنا (۱۱- محاورہ) آپ میں نہ رہنا۔ زیادہ غور کرنا۔  
 آپے میں نہ ہونا (۱۱- محاورہ) (۱۱) آپ میں نہ ہونا (۲۱) سخت غصہ آنا۔

# آت

آت : بعض کلمات میں بطور لاحقہ کے استعمال ہو کر مصدری فائدہ  
 دیتا ہے جیسے ہنات۔ برسات۔

آتا (آ۔ تا) (۱۰- ہ۔ مذ) [ماضی تمنائی] آنے والا (۲۱) قرض  
 آتا جاتا (۱۱) ہمارت۔ مشتق (۲۱) آنے جانے والا۔ مسافر۔  
 آتا نہ چھوڑے جاتا نہ موڑے۔ جو چیز آ رہی ہو اسے چھوڑنا نہ چاہیے۔  
 ادگئی ہوئی چیز کا ظم نہ کرنا چاہیے۔







آتش شیشی (ف-ا-م) ایک خاص قسم کی شیشی جس کے ذریعہ ردغن کھینچتے اور جوہر اڑتے ہیں۔  
 آتشیں (آ-ت-شیں) [ف-ص] آگ جیسا آگ کی طرح گرم آگ کی طرح سرخ  
 آتشیں رُخ رخسار آگ کی طرح دکھتا چہرہ آگ کی طرح دکھنے والے گال  
 آتما (آ-ت-ما) [س-ا-م] ۱۔ مٹا [۱۱] دل روح وجود [۲] پیٹ معدہ۔  
 ۱۳۱ بھوک [۴] مانتا۔ محبت۔  
 آتما کھنڈی کرنا [۱] محاورہ [جی خوش کرنا۔ بھوکے کا پیٹ بھرنے۔ سکھ پہنچانا۔  
 آتما ستانا [۱] محاورہ [جی دکھانا۔ دل آزاری کرنا۔  
 آتما کا کوسنا۔ دل سے بددعا کا نکلنا۔  
 آتما کا کلپنا [۱] محاورہ [جی دکھانا۔  
 آتما کلپنا [۱] محاورہ [جی دکھانا۔  
 آتما کی آبیخ [۱] مٹا [ماں باپ کی محبت۔  
 آتما مسوسنا [۱] محاورہ [ماننا اور محبت کو ضبط کرنا۔  
 آتما میں آگ لگی ہے [۱] محاورہ [۱] بہت بھوک لگی ہے [۲] محبت کی آگ بہت تیز ہے۔  
 آتما میں رُٹے تو پرما تما کی سوجھے [۱] مٹا [پیٹ میں روٹی پڑتی ہے تو خدا کبھی یاد آتا ہے۔  
 آتو۔ آتوں [آ-تو، آ-توں] [ت-ا-ت] [مٹا] [استانی] لڑکیوں کو پرکھنا لکھنا سکھانے والی۔  
 آتی پانی [آ-تی، پانی] [۱-۱۰] مٹا [ایک کھیل جس میں بہت سے لڑکے جمع ہو کر ایک لڑکے کو چور بناتے ہیں۔ اسے کسی پیر کی پتی لینے بھجتے ہیں اس کے چلے جانے پر سب لڑکے چھپ جاتے ہیں۔ پتی لے کر لوٹ آتے پر وہ لڑکا جس کو ڈھونڈ کر چھپ لیتا ہے وہ چور کہلاتا ہے۔ اس لڑکے کو کبھی اسی طرح پتی لینے جانا پڑتا ہے۔ یہ کھیل عام طور پر چاندنی راتوں میں کھیلا جاتا ہے۔  
 آتی ہے ہاتھی کے پاؤں اور جاتی ہے چیونٹی کے پاؤں [۱] مٹا [بڑی تیزی سے آتی ہے اور دھیرے دھیرے جاتی ہے۔ عموماً بیلہری کے متعلق کہتے ہیں۔

## آ-ٹ

آٹ [آ-ٹ] [۵] بھرے۔ پرگروے۔  
 آٹا [آ-ٹا] [۱۰-۱۵] [۱] پسا ہوا غلہ [۲] خشک سی ہوئی چیز [۳] بوسیدہ فرسودہ۔ گلا ہوا گھن لگا ہوا۔ گھسا ہوا [۴] کسی چیز کا چورن۔ برادہ۔  
 آٹا آٹا کر دینا [۱] محاورہ [بہت باریک کر دینا۔ چوراکر دینا۔ سفوف کرنا۔  
 آٹا آٹا ہو جانا [۱] محاورہ [بہت باریک ہو جانا۔ پس جانا [۲] اگل جانا گھن لگ جانا۔ بوسیدہ ہو جانا۔  
 آٹا دال۔ کھانا۔ رزق۔ روزی۔

آٹا دال اٹو بھی ہے [۱] مٹا [۱] اچھائیوں کے ساتھ برائیاں بھی ہیں [۲] بے جوڑ بات کہتے وقت یہی بولتے ہیں [۳] بڑی چیز سے لے کر معمولی چیز تک موجود ہے۔  
 آٹا کر دینا۔ بہت باریک پس ڈالنا۔  
 آٹا گیلنا ہونا [۱] آٹے میں پانی زیادہ پڑ جانا [۲] وقت پڑنا۔ کام بگڑنا۔ مشکل میں پڑنا۔ حیران ہونا۔  
 آٹا مانی ہونا۔ خراب ہونا۔ ستیاناس ہونا [ق-ا-ت]۔  
 آٹا نیرا، بوجھار سٹکا [۱] مٹا [مالدار غریب ہو گیا تو مفت خوردے غائب ہو گئے۔  
 آٹا نہیں تو زلیا جب بھی ہو جائے گا۔ [۱] مٹا [مفوض بہت فائدہ ضرور ہوگا۔  
 آٹا ہو جانا [۱] باریک ہو جانا [۲] ٹوٹ چھوٹ جانا [۳] گھن لگ جانا۔ سر جانا۔  
 آٹے دال کا بھاؤ تانا [۱] محاورہ [تنبیہ کرنا۔ خوب خیر لینا۔ دھمکانا۔  
 آٹے دال کا بھاؤ کھلنا [۱] آٹے دال کا نرخ معلوم ہونا [۲] ذلیکے نیشبہ فراز معلوم ہونا۔ حقیقت معلوم ہو جانا۔  
 آٹے دال کا بھاؤ معلوم ہونا [۱] محاورہ [قدر عافیت معلوم ہونا۔ اونچ نیچ کا پتہ چلنا۔  
 آٹے دل کی فکر۔ روزی کی فکر۔  
 آٹے کا چراغ، گھر رکھوں تو چوہا کھائے، باہر رکھوں تو کوا لے جائے [۱] مٹا [ایسی بات جس میں ہر صورت میں نقصان ہو۔  
 آٹے کی آیا [۱] مٹا [بھولی بھالی عورت، بے وقوف عورت سمجھتے ہیں۔  
 آٹے کی بلی ہے [۱] مٹا [بہ ظاہر خوف ناک ہے۔ لیکن حقیقت کچھ نہیں۔  
 آٹے کے ساتھ گھن لپسنا [۱] محاورہ [گناہ گار کے ساتھ بے گناہ کو منرا ملنا۔  
 آٹے میں نمک [۱] مٹا [بہت کھوڑا۔ ذرا سا۔ واجبی سا۔ معمولی سا۔  
 آٹم پاتم [آ-ٹم، پاتم] [۵] ہر جگہ۔ اوپر نیچے۔  
 آٹا [آ-ٹا] [۱] مٹا [مص] [دبانا۔ بند کرنا۔ بھرنے۔ پر کرنا۔  
 آٹو گراف (Autograph) [آ-ٹو، گراف] [انگ۔ ا-نڈ] اپنے ہاتھ کی تحریر۔ خصوصی دستخط۔  
 آٹو میٹک (Automatic) [آ-ٹو، میٹک] [انگ۔ صف] دیکھے خود کار۔  
 آٹھ [۵] صف [سات اور ایک۔ چار کا ڈگنا۔  
 آٹھ آٹھ آنسو رونا [۱] محاورہ [پھوٹ پھوٹ کر رونا۔ بہت رونا۔  
 آٹھ اٹھارہ کرنا [۱] محاورہ [پریشان کرنا۔ تیر تیر کرنا۔ متفرق کرنا۔ پرانڈہ کرنا۔  
 آٹھ بار نو تویار [۱] مٹا [عیش پروردی کے اظہار کے لیے کہتے ہیں کہ آٹھ دن میں نو میلے مناتے ہیں۔  
 آٹھ بھر [۱] روزمرہ [۱] چوبیس گھنٹے، ایک دن رات [۲] ہر وقت ہر لحظہ آٹھ بھر چوٹسٹھ گھنٹے [۱] مٹا [رات دن چوبیس گھنٹے۔ ہر وقت۔  
 آٹھ بھر سولی ہے [۱] مٹا [ہر وقت بلا کا سامنا ہے۔  
 آٹھ پیر میان سے باہر رہنا [۱] مٹا [ہر وقت رُٹنے پر مستعد رہنا۔  
 آٹھ جولا ہے لوجھے، نس پر بھی دھکم دھکے [۱] مٹا [ضرورت سے زیادہ سامان ہونے پر بھی جھگڑا۔



آرمج (ع - صف) عاصی - گناہ گار۔

## آج

آج ۵۱ - صف (۱۱) جو دن گزر رہا ہو۔ امروز (۲۱) ان دنوں۔ اس وقت (۳۱) میں حیات۔ موجودہ زمانہ (۴۱) وقت حاضر۔  
 آج آٹے کل چلے (۱۱)۔ مثل (جلدی جانا۔ مہان کا کم کھڑنا۔  
 آج برس کے پھر نہ برسوں گا (۱۱)۔ مثل (بہت زور کی بارش ہونا۔  
 آج تک (متعلق فعل) اب تک۔ اس وقت تک۔ آج کے دن تک۔  
 آج تک پڑے ہینک بگ رہے ہیں (۱۱)۔ مثل (اس وقت کہتے ہیں  
 جب کوئی اپنی بد اعمالیوں کی سزا بھگت رہا ہو۔ یعنی اب تک مصیبت  
 میں مبتلا ہے۔

آج جو کرنا ہے کرے، کل کی کل کے ہاتھ ہے (۱۱)۔ مثل (آج عمل خیر  
 کرے کیونکہ زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے۔  
 آج زبان کھلی سے کل بند (۱۱)۔ مثل (زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں  
 آج سے (متعلق فعل) اب سے۔ اس وقت سے۔

آج سے کل نزدیک ہے (۱۱)۔ مثل (جب کوئی آنے والے زمانے کو دور سمجھ کر  
 کام میں سستی کرے تو کہتے ہیں کہ آنے والا وقت بہت جلد آجانا ہے  
 آج صبح صبح کس کا منہ دیکھا ہے (۱۱)۔ مثل (سارا دن پریشانی آنے کے  
 موقع پر کہتے ہیں کہ صبح کس منحوس کو دیکھ لیا ہے۔  
 آج کا دن۔ موجودہ دن۔

آج کا کام آج ہی کرنا چاہیے (۱۱)۔ مقررہ کام دوسرے وقت پر ٹالنا غلط ہے۔  
 آج کا کام کل پر (۱۱)۔ مقررہ کام دوسرے وقت پر ٹالنا غلط ہے۔  
 آج کا کام کل پر (۱۱)۔ مقررہ کام دوسرے وقت پر ٹالنا غلط ہے۔

آج کدھر بھول پڑے (۱۱)۔ محاورہ (۱)۔ اچانک کس طرح آگے  
 آج کدھر جانے لگا (۱۱)۔ محاورہ (۱)۔ آج کس طرح آنے کا موقع مل گیا۔  
 آج کیرے گا کل پائے گا۔ (۱۱)۔ مثل (کیے کا پھل ضرور ملتا ہے

آج کل (۱۱)۔ محاورہ (۱)۔ ان دنوں۔ اس وقت۔ عن قریب۔ بہت جلدی (۳)  
 حیلہ حوالہ۔ مثال سٹول۔

آج کل ان کے دور دورے ہیں (۱۱)۔ مثل (آج کل ان کا بڑا عروج ہے یا  
 عزت خوب بنی ہوئی ہے۔

آج کل بارہ برس کی بیٹیا برہمنگے سے (۱۱)۔ مثل (آج کل زمانے سے شرم و حیا  
 اٹھ گئی ہے۔ بارہ برس کی بچی بھی خاوند چاہتی ہے۔

آج کل بتانا (۱۱)۔ محاورہ (۱)۔ بتانا۔ سیت و لعل کرنا۔ وعدہ و وعید کرنا۔  
 آج کل تمہارے نام کی کمان چڑھتی ہے (۱۱)۔ مثل (ترقی کا زمانہ ہے۔  
 اقبال مندی کا دوسرے ہے۔

آج کل کرنا۔ جھوٹے وعدے کرنا۔ ٹالنا۔  
 آج کل میں اتنا فعل بہت جلد۔ عنقریب۔  
 آج کل نہ جانا (۱۱)۔ محاورہ (۱)۔ مقررہ وقت سے باز نہ آنا۔

آج کے بیسے کل کے بیسٹھ (۱۱)۔ مثل (زمانہ کا انقلاب جو غریب تھا وہ

آٹھ گاؤں کا چودھری، بارہ گاؤں کا راؤ (۱)۔ مثل (کوئی آدمی خواہ  
 اپنے کام نہ آؤ، تو ایسی ایسی میں جاؤ (۱)۔ کتنا ہی بڑا اور صاحب  
 دسائل ہو اگر کسی کے کام نہیں آتا تو اس کا ہونا نہ ہونا برابر ہے۔

آٹھواں (آٹھ۔ واں) (۱)۔ صف (۱۱) ساتویں کے بعد (۲) کسی چیز کا  
 آٹھواں حصہ (۳) صل کا آٹھواں مہینہ۔

آٹھوں (آ۔ کھٹوں) (۱)۔ صف (۱۱) ہولی کا آٹھواں دن۔ آٹھ کے آٹھ۔  
 آٹھوں پہر۔ چوبیس گھنٹے۔ رات دن۔ ہر وقت۔

آٹھوں کا میلہ۔ ہولی کے آٹھویں دن ہندوؤں کا میلہ۔  
 آٹھوں کا ٹھہر کھیت (۱)۔ مثل (۱۱) وہ کھیت کھوڑا جس کے آٹھوں جوڑ

بہت مضبوط ہوں۔ (۲)۔ شریہ۔ چالاک۔ عیبی جرم مزادہ۔ عیار ہوشیار مضبوط  
 آٹھویں (آٹھ۔ ویں) (۱)۔ صف (۱۱) مہینے کی آٹھویں تاریخ۔ گنتی میں سات  
 کے بعد کا ہندسہ۔

آٹھویں ساتویں (۱)۔ محاورہ (۱)۔ کبھی کبھی۔ گاہے گاہے۔

## آٹ

آٹا (۱)۔ شمار (۱)۔ ع۔ ۱۰۔ ند (۱)۔ اثر کی جمع (۲)۔ سنت رسول (۳) صحابہ کرام  
 کے اقوال و افعال (۴)۔ نیو۔ بنیاد (۵)۔ دیوار کی چوڑائی (۶)۔ سیر کے معنی میں  
 وزن کے لیے (۷)۔ طوار، طور طریقے (۸)۔ علامات (۹)۔ انداز۔ (۱۰)۔  
 پھن (۱۱)۔ نقوش۔ نشان۔

آٹا اچھے یا برے ہوتا (۱)۔ محاورہ (۱)۔ ڈھنگ اور علامتیں اچھی یا بری ہونا۔  
 آٹا بانی ہوتا (۱)۔ محاورہ (۱)۔ نشان رہ جانا۔

آٹا بد (ع۔ ف۔ ند)۔ برے شکون بڑی فال۔  
 آٹا بندھ جانا (۱)۔ محاورہ (۱)۔ علامتیں ظاہر ہونا۔ نشانیاں ظاہر ہونا۔

آٹا بٹے جانا (۱)۔ محاورہ (۱)۔ علامتیں دکھائی دینا۔  
 آٹا بڑھتا (۱)۔ محاورہ (۱)۔ نیو ڈالنا۔ بنیاد قائم کرنا۔

آٹا پیدا ہونا (۱)۔ محاورہ (۱)۔ علامت ظاہر ہونا۔  
 آٹا چھا جانا (۱)۔ محاورہ (۱)۔ علامات کا کثرت سے ظاہر ہونا۔

آٹا خوشتر۔ آٹا قیامت۔ آٹا محشر (ع۔ ۱)۔ ند (۱)۔ قیامت کی نشانیاں۔  
 آٹا خیر (ع۔ ۱)۔ ند (۱)۔ اچھی علامتیں۔ نیکی کی نشانیاں۔

آٹا دکھائی دینا۔ آٹا نظر آنا۔ ڈھنگ گھٹنا۔ پھن ظاہر ہونا۔ علامتیں  
 ظاہر ہونا۔

آٹا ڈالنا (رکھنا) نیو رکھنا۔ کام کا آغاز کرنا۔  
 آٹا شریف (ع۔ ف۔ ۱)۔ ند (۱)۔ اولیاء اور نبیاء کے مزار، نشانیاں اور تشرکات۔

آٹا صنودید (ع۔ ۱)۔ ند (۱)۔ بزرگوں اور بادشاہوں کی نشانیاں۔ قدیم عمارتیں۔  
 آٹا ظاہر (عیبیاں) ہونا (۱)۔ محاورہ (۱)۔ آٹا دکھائی دینا۔ نشان پانا جانا۔  
 علامت پانی جانا۔

آٹا اعلیٰ قضا قدیمہ۔ پرانے نشانیاں۔ کھنڈرات۔ پرانی تابہ کچی عمارتیں  
 آٹا متبرکہ (ع۔ ۱)۔ ند (۱)۔ مقدس نشانیاں۔ بزرگوں کی یاد گاہیں۔

آٹا نیک۔ اچھے شکون۔ نیک فال۔ اچھی علامتیں۔



والا لفظ۔

آخ کھنوا (مٹ) اکھنار کر ٹھونکنے کی آواز۔ کلہر حفات۔ لعنت ملامت پھٹکار۔ کراہت۔

آختہ (آخ۔ یتہ) [ف۔ صف] درہ جانور جس کے نوٹے نکال دیئے گئے ہوں۔ خصی۔

آختہ کرنا (مص مرکب) خصبے نکالنا۔ نامرد کرنا۔ ہیچ بڑا بنانا۔

آخذ (آ۔ خذ) [ع۔ صف] لینے والا۔ پکڑنے والا۔

آخر (ع۔ صف) اور۔ ایک اور۔ دوسرا۔

آخر (آ۔ خیر) [ع۔ صف] پیچھے۔ پچھلا۔ حد۔ انجام۔ انتہا۔ ختم۔ تمام۔

قرب ختم۔ وقت انتقال۔ موت۔ انجام کار۔ جمع آداخر۔

آخر آخر۔ آخر کار۔ انجام کار۔ سب سے پچھلا۔

آخر آدمی نے کچا دروہہ پایا ہے (مثلاً) سہوار خطا انسان کی فطرت میں ہے۔

آخر انبی اصالت پر گیا (مثلاً) بیخ قوم کا آدمی مرتبہ پانے پر بھی ذیل حرکتوں سے باز نہیں آتا۔

آخر الامر (تابع فعل) آخر کار۔ انجام کار۔

آخر الذکر (آخر و ذکر) [ع۔ صف] جس کا ذکر ایک کے بعد یا دوسرے نمبر کیا جائے۔ ثانی الذکر۔

آخر ہیں۔ انجام پر نظر رکھنے والا۔ عاقبت اندیش۔

آخر زمانہ (ع۔ صف) ۱۱۱ قیامت کے قریب کا زمانہ (۲) بڑھایا۔

آخر فنا (ع۔ مقولہ) ۱۱۱ دنیا کا خاتمہ ضرور ہونا ہے (۲) موت ضرور آتی ہے۔

آخر کار (تابع فعل) انجام کار۔ نتیجہ میں۔

آخر کردینا (۱۔ محاورہ) ۱۱۱ ختم کر دینا۔ (۲) مار ڈالنا (۳) ادھڑوا کر دینا۔

آخر کو۔ نتیجہ میں۔ آخر میں۔

آخر وقت (ع۔ ۱۔ مذا) نزاع کا وقت۔ سب سے آخر میں۔

آخر ہونا (۱۔ محاورہ) خاتمہ کے قریب پہنچنا (۲) ختم ہونا۔ پورا ہونا (۳) مرجانا۔

آخرت (آخ۔ یت) [ع۔ ۱۔ مٹ] وہ عالم جہاں مرنے کے بعد انسان کی روح جائے گی۔ عاقبت۔ پیر بوک۔

آخرت بگاڑنا (۱۔ محاورہ) عاقبت خراب کرنا۔ برے کام کرنا۔

آخرت بگڑنا (۱۔ محاورہ) عاقبت خراب ہونا۔

آخرت بنانا (سوارنا) (۱۔ محاورہ) زندگی میں نیک کام کرنا کہ عاقبت میں جزا ملے۔

آخرت بن جانا۔ مرنے کے بعد کی زندگی سنور جانا۔

آخرت کا بھلا۔ عاقبت کی خیر۔

آخرت کا سودا (۱۔ محاورہ) عاقبت سنوارنے کے کام۔

آخرت کی خیر۔ مرنے کے بعد کی زندگی کا بھلا۔

آخرت کی کمائی (۱۔ محاورہ) نیک کام جو مرنے کے بعد فائدہ پہنچائیں۔

آخر مش۔ آخر کار۔ انجام کار۔

آخری (آخ۔ یت) [ع۔ ف۔ صف] (۱) آخر سے منسوب (۲) پچھلا۔

(۳) اخیر کا۔ بعد کا۔

امیر ہو گیا۔

آج کے تجھے آج ہی نہیں جلتے (مثلاً) کام ایک دم نہیں ہوتا۔ آہستہ آہستہ ہوتا ہے۔

آج کیا جانی دنیا دیکھی (مثلاً) [بعد مدت کسی کے آنے پر کہتے ہیں یعنی آپ کو کیا خیال آگیا۔

آج کے دن۔ موجودہ دن۔ موجودہ زمانہ۔

آج مرے کل دوسرا دن (مثلاً) زندگی بالکل ناپائیدار ہے۔

آج میں، کل تو (مثلاً) سب کو مرنا ہے۔ موت سب کو آتی ہے۔

آج میں ہوں اور وہ ہے (مثلاً) کسی سے لڑنے کے لیے غصے اور

لڑائی کا ارادہ کرنا۔

آج نصیبوں سے ہاتھ لگے ہو۔ اتفاق سے ملاقات ہوئی ہے۔

آج ہمارے لیے کل تمہارے لیے (مثلاً) کسی کی خصوصیت نہیں۔

سب کے ساتھ ایک جیسا سلوک ہونا چاہیے۔

آج ہے سر کل نہیں (مثلاً) روز بروز حالت خراب ہے (۲) جو آج

زندہ ہے کل مردوں میں ہوگا۔

آجہ (آ۔ ج) [ع۔ ۱۔ مذ] کام پر لگانے والا۔ اجرت پر کام لینے والا۔

آجئون (آ۔ جنون) [ع۔ ۱۔ مذ] اب تک۔

## آج

آچا (آ۔ چا) [ت۔ ۱۔ مذ] (۱) باپ۔ دادا۔ نانا۔ بزرگ (۲) پڑانا ملازم پورھی خادمہ۔ دانی۔ آچا۔ قدیمی ماما۔

آچار (آ۔ چار) [ت۔ ۱۔ مذ] پھل یا ترکاری کا مرکب جو سرکہ تیل یا پانی میں مزج مصالحہ ڈال کر تیار کیا جاتا ہے۔ اچار۔

آچار بنانا۔ اچار تیار کرنا۔ اچار ڈالنا۔ کسی پھل کو ترش کرنا۔

آچار ڈالنا (۱) اچار بنانا (۲) گلانا (۳) سڑانا (۴) پڑا رکھنا۔ بہت دن تک ڈال رکھنا۔

آچار کرنا (نکالنا) (۱۔ محاورہ) بہت پینٹا بگت بنانا۔

آچار یہ اس۔ مذ، استاد، معلم، گورو (۲) برہمن (۳) کسی فرقے کا بانی (۴) ایک خطاب جو لائق آدمیوں کو دیا جاتا ہے (۵) پانڈوؤں کے استاد درون کا لقب۔

آچھیس (۱) صوت اچھیننے کی آواز۔

## آح

آحاد (آ۔ حاد) [ع۔ صف] احد کی جمع۔ ایک سے نو تک گنتی۔ اکائیاں۔

## آخ

آخ (ار۔ مٹ) کھانسنے کی آواز کھنکارنا (۲) نفرت کرنے کے لیے بولنے







کرنے کے لیے اچھا برا سب کچھ کر گزرتا ہے۔

آدمی اناج کا کبیرا ہے (۱۱۔ مثل) آدمی کی زندگی کا مدار کھانے پر ہے۔  
آدمی بنانا (۱۱۔ محاورہ) عدم سے وجود میں لانا (۲۱۔ مہذب بنانا، شائستہ بنانا،  
آدمی بنانا (۱۱۔ محاورہ) آدمیت سیکھنا۔ شائستہ ہونا۔ آدمی کی شکل و صورت  
اختیار کرنا۔ وحشت دور کرنا (۲۱۔ جنیت درست کرنا۔

آدمی پانی کا بلبلہ ہے (۱۱۔ مثل) زندگی عارضی ہے۔ کوئی دم کی زندگی ہے۔  
آدمی پر آدمی کرتا ہے (۱۱۔ محاورہ) بہت بھیر ہے۔ مخلوق کوئی پڑتی ہے۔  
آدمی پیٹ کا کتابے (۱۱۔ مثل) رزق کے لیے آدمی سب کچھ کرتا ہے۔  
آدمی ٹھوکر کھا کر سنبھلتا ہے (۱۱۔ مقولہ) انسان غلطی کر کے یا نقصان  
کے لیے کچھ تجربہ حاصل کرتا ہے۔

آدمی جانے بسے، سونا جانے کسے (۱۱۔ مثل) آدمی کے عیب و مہر ساتھ  
رہنے ہی سے معلوم ہوتے ہیں۔ سونے کا کسے سے ہی پتہ چلتا ہے۔  
آدمی سا کوئی پکھیر نہیں (۱۱۔ مثل) آدمی ایک جگہ نہیں رہتا۔ جگہ جگہ  
پھرتا رہتا ہے۔

آدمی کا شیطان آدمی ہے (۱۱۔ مثل) آدمی آدمی ہی کی صحبت سے خراب  
ہوتا ہے۔

آدمی کچھ کھو کر ہی سیکھتا ہے (۱۱۔ مثل) نقصان اٹھانے کے بعد ہی آدمی  
کو فہم آتی ہے۔

آدمی کیا جو آدمی کو نہ پہچانے (۱۱۔ مثل) جو اچھے برے میں تمیز نہ کر سکے اسے  
انسان نہیں کہنا چاہیے۔

آدمی کی دوا آدمی ہے (۱۱۔ مثل) انسان ہی انسان کے کام آتا ہے۔  
آدمی کی قدر مرے پر ہوتی ہے (۱۱۔ مثل) مرنے کے بعد ہی کسی آدمی  
کی کمی محسوس ہوتی ہے اور قدر ہوتی ہے۔

آدمی کی کسوٹی معاملہ ہے (۱۱۔ محاورہ) معاملہ پڑنے سے ہی آدمی کی  
حقیقت معلوم ہوتی ہے۔

آدمی کے جامے میں آنا (۱۱۔ محاورہ) شریف بننا۔ اچھا طریقہ اختیار کرنا۔  
آدمی نے پچا دو دھبیا ہے (۱۱۔ مثل) انسان سے ہی خطا ہوتی ہے۔  
آدمی ہو یا بے دال کے بودم (۱۱۔ مثل) بالکل ہی بے وقوف ہو بودم کی  
دال الٹ کر ہی تو بودم بن جاتا ہے یعنی نرے اوتو ہو۔

آدمی ہو یا جانور (۱۱۔ مثل) بالکل تمیز نہیں۔ نرے اچھن ہو۔  
آدمی ہو یا گھن جگر (۱۱۔ مثل) بہت زیادہ گھونے پھرنے والے آدمی کو  
کہتے ہیں (۲۱۔ اچھن اور بے وقوف آدمی)۔

آدمی ہونا (۱۱۔ محاورہ) انسان ہونا۔ شریف ہونا (۲۱۔ معمولی شکل و صورت بنانا)  
آدمیت (آ۔ د۔ می۔ بیت) (ف۔ ۱۰۔ مٹ) (۱۱۔ اخلاق۔ مروت۔ ملتاری  
سلیقہ (۲۱۔ عقل و شعور۔ سمجھ۔ انسانیت)۔

آدمیت آنا (۱۱۔ محاورہ) تمیز اور سلیقہ حاصل ہونا۔ انسانی خرابیاں پیدا ہونا  
آدمیت اٹھ جانا (۱۱۔ محاورہ) اچھی عادلوں کا ختم ہو جانا۔ انسانیت جاتی  
رہنا۔ بدتمیز ہو جانا۔ بے عقل ہو جانا۔

آدمیت اختیار کرنا (۱۱۔ محاورہ) اچھی عادتیں سیکھنا۔ شریف بن جانا۔  
آدمیت سکھانا (سکھانا) شائستہ بنانا۔ تہذیب سکھانا۔

آدمیت سیکھنا۔ شعور سیکھنا۔ عقل و تمیز حاصل کرنا۔

آدمیت سے گزر جانا (۱۱۔ محاورہ) انسانیت کی باتیں چھوڑ دینا۔ تفرقت  
چھوڑ دینا۔ بدتمیزی اختیار کرنا۔

آدمیت کے جامے میں آنا (۱۱۔ محاورہ) شریف بن جانا۔ غصہ کم ہو جانا۔  
آدمیت میں لانا (محاورہ) شرافت سکھانا۔ انسان بنانا۔

آدنا (ق۔ مص) شروع کرنا۔ ابتدا کرنا۔ آغاز کرنا۔  
آدھ (ہ۔ صف) آدھا کا مخفف۔ نصف۔ دو برابر حصوں میں ایک حصہ

آدھ سیر آنا (۱۱۔ محاورہ) بیٹ بھر کا آنا۔ رزق۔ روزی۔ گزراوقات کا ذریعہ  
آدھ سیر آئے سے لگ جاتا (۱۱۔ محاورہ) روزی کمانے لگتا۔

آدھا (ا۔ دھا) (ہ۔ صف) کسی چیز کے دو برابر حصوں میں سے ایک نصف۔  
آدھا آب گھر۔ آدھا سب گھر (۱۱۔ مثل) حریف آدمی جو زیادہ حصہ خود  
رکھ لیتا ہو۔

آدھا آدھا۔ نصف۔ نصف۔ ایک چیز کے دو برابر حصے۔  
آدھا آدھا ہونا۔ کٹھننا۔ شرمندہ ہونا

آدھا پاؤ (۱۱۔ نصف پاؤ) (۲۱۔ کھوڑا بہت۔ قدرے۔ کچھ۔ کسی قدر۔  
آدھا تھیر، آدھا بیٹر (۱۱۔ مثل) (۱۱۔ ان میل۔ بے جوڑ (۲۱۔ بد انتظامی اور  
بد سلیقگی)۔

آدھارہ جانا (۱۱۔ محاورہ) بہت دُبلنا ہو جانا۔  
آدھا سا جھا (۱۱۔ مذ) برابر کی شرکت۔

آدھل سی سی (۱۱۔ مذ) آدھے سہ کا درد  
آدھا کر دینا (۱۱۔ محاورہ) بہت کم کر دینا۔ بہت دُبلنا کر دینا (۲۱)  
شرمندہ کر دینا۔

آدھانا نام لینا (۱۱۔ محاورہ) حقارت یا محبت سے ادھورا نام لینا۔  
آدھا ہو جانا (۱۱۔ محاورہ) بہت دُبلنا ہو جانا۔

آدھے پیٹ۔ نصف خوراک۔ جتنی بھوک ہو اس کا آدھا۔  
آدھے دھڑکا دم نکلنا (۱۱۔ محاورہ) آدھے بدن کی جان نکلنا۔ بیماری کا  
کوئی حملہ جس میں آدھا بدن بے کار ہو جائے۔

آدھے قاضی قدوہ، آدھے باوا آدم (۱۱۔ مثل) کثیر اولاد زیادہ عیالدار  
آدھے کا سا جھی۔ برابر کا شریک۔

آدھے کا سا جھی برابر کی چوٹ (۱۱۔ مثل) آدھے حصے کا شریک برابر کی  
جیتیت رکھتا ہے۔

آدھے گاؤں دوالی، آدھے گاؤں ہولی (۱۱۔ مثل) اپنی اپنی الگ الگ  
ہونا۔ نا اتفاق۔

آدھے میاں محمدی، آدھے میں سارا گاؤں (۱۱۔ مثل) آدھا خود لینا  
آدھے میاں موج، آدھے میں ساری فوج اور باقی آدھا گھر کے سب  
لوگوں کو دینا۔

آدھار (ق۔ مذ) بھروسہ، سہارا۔  
آدھار ہونا (۱۱۔ محاورہ) بیٹ بھرنا۔ کافی ہونا۔

آدھوں آدھ (آ۔ دھوں۔ آدھا) (ہ۔ صف) نصف نصف برابر کے حصے۔  
آدھی (آ۔ دھی) (ہ۔ صف) نصف۔ آدھا کی تائینٹ۔

www.Momeen.blogspot.com



آذر نشان (ف. صف) آگ بکھیرنے والا شعلہ، گرم  
آذوقہ - دیکھیے آذوقہ -

## آ

آر (۱-۵) - مٹا لو سے کی نوکدار کیل جو کھانسی وغیرہ میں سوراخ کرنے  
اور چھوڑنے کے کام آتی (۲) بچھو بچھو یا نیکھی کا ڈنگ (۳) چمڑا چھیدنے  
کا سویا یا تھاری (۴) کلمات کے آخر میں مصدری اور کبھی فاعلیت کے  
معنی دیتا ہے۔ پھنکارا - سنار

آر لگانا (۱- محاورہ) آ رہی ہونا - سست آدمی کو ابھارنا۔  
آراء (ع. مٹا) رائے کی جمع - مشورے - خیالات۔

آراف (ف. لاحقہ) آراستن مصدر سے صیغہ امر - جو کسی اسم کے ساتھ آکر  
اسے اسم فاعل بنا دیتا ہے۔ معنی سجانے والا - جیسے چمن آرا، جہاں آرا  
وغیرہ۔

آرا (آ-را) [مذ-ا-م] لوہے کا ایک دندانہ دار اوزار جس سے لکڑی  
چیری جاتی ہے۔

آرا چلانا (۱) آرے سے چیرنا (۲) بہت ظلم کر کرنا۔ زیادتی کرنا۔  
آرا چلنا - ظلم ہونا۔ دکھ پہنچنا۔

آرا کشی - آرے سے لکڑی چیرنے کا پیشہ کرنے والا۔

آرا کشی کرنا - آرا چلانا - آرا کشی کا پیشہ کرنا۔

آرے چلانا (۱) آرے سے چیرنا (۲) ظلم کرنا۔

آرے چلنا - ظلم ہونا۔ دکھ پہنچنا۔

آرے سے چیرنا (۱) آرے سے ٹنکڑے کرنا۔ (۲) سخت مزاج دینا۔

آراشکی (آ-را-ش-کی) [مذ-ا-م] آراشکی - سجادت، تکلف،  
زیب وزینت۔

آراستہ (آ-را-س-تہ) [ف-ص] آراستہ ہونا - سنوارا ہونا۔ گناہنا ہونا  
ہونا۔ سنگار کیا ہونا۔ فرش فروش سے درست (۲) تیار - آمادہ کیل گانے  
سے لیں۔

آراستہ پیراستہ (ف-ص) آراستہ ہونا - سجا سجا یا - ترشا ترشایا۔ بنا سنورا (۲)  
مسلح - ہتھیار بند - لیں۔

آراستہ پیراستہ ہونا (۱- محاورہ) سجا کر درست ہونا۔ مزین ہونا۔ مسلح  
ہونا۔ کمر بند ہونا۔

آراستہ کرنا (۱- محاورہ) سجانا۔ بنانا۔ سنوارنا۔ سنگار کرنا۔ سنگار کرنا (۲) ترتیب  
دینا۔ موقع سے لگانا۔ ٹھیک کرنا۔ درست کرنا۔

آراضی - دیکھیے اراضی۔

آرام (آ-را-م) [ف-ا-م] آرام - قرار۔ تسکین۔ ٹھہراؤ۔ اطمینان (۲) چین۔  
سکھ۔ راحت۔ آسائش (۳) استراحت۔ نیند۔ سکھ نیند۔ خواب راحت  
(۴) صحت۔ شفا۔ تندرستی۔ تخفیف مرض۔ افاقہ (۵) فرصت۔ فراغت۔ چھٹی  
وقفہ (۶) فائدہ، نفع۔ حاصل۔ منفعت۔

آرام پانا (مرکب مصدر) چین پانا۔ سکھ پانا۔ خوش ہونا۔ راحت پانا۔ تکلیف

آدھی بات - ناتمام بات۔ ادھوری بات۔

آدھی بات نہ اٹھنا۔ ذرا سی ناگواریات برداشت نہ ہونا۔  
آدھی بات نہ پوچھنا۔ ذرا قدر نہ کرنا۔ دھیان نہ دینا۔ توجہ نہ کرنا۔  
بے عزت سمجھنا۔

آدھی بات نہ سننا۔ بے توجہی برتنا۔ شان کے خلاف ذرا سی بھی بات  
نہ سننا۔

آدھی چھوڑ ساری کو دھائے (۱) - مثل زیادہ کالا پاج کرنے سے  
آدھی رہے نہ ساری پائے (۲) کھوڑ کی سے بھی ہاتھ دھونے پڑتے  
ہیں (۳) قناعت نہ کرنے والا تباہ ہو جاتا ہے۔

آدھی دنیا آباد آدھی دیران (۱) - مثل ایک چشم آدمی پر پھبتی کے طور  
پر کہتے ہیں۔

آدھی ڈھولی (۱) - مٹا پانوں کی ایک ڈھولی جس میں دو سوپان ہوتے  
ہیں۔ ان میں سے آدھے یعنی سوپان۔

آدھی رات ادھر آدھی رات ادھر (۱) - مثل آدھی رات کا وقت۔  
آدھی رات ڈھلنا - آدھی رات بیت جانا۔

آدھی رات جما ہی آئے (۱) - مثل وقت سے پہلے منصوبے سوچنے  
شام ہی سے منہ پھیلائے گا۔ پش از مرگ وادیلہ۔

آدھین (۱-۵) - مذ - فرماں بردار۔ مطیع۔ عاجز۔ مسکین۔

آدھی باسی (۱-۵) - مذ - ہندوستان کے قدیم باشندے جنہیں ہندوؤں نے  
اچھوت بنا رکھا ہے۔

آدیش - آدیش (آ-دیش) [مذ-ا-م] حکم ہدایت۔ ارشاد۔  
آدینہ (آ-دینہ) [ف-ا-م] جمع۔

## ا

آڈٹ (Audit) (۱) - ڈٹ [انگ-۱-مذ] محاسبہ کرنا۔ جانچ۔ سرکاری  
حساب کی تفتیح کرنا۔

آڈٹا (آ-ڈٹ) [نا-ا-م] [مض-ا-م] موجود ہونا۔ آبیٹھنا۔ آدھکنا۔  
آڈیٹر (Auditor) (۱) - ڈی [انگ-۱-مذ] محاسب، محتسب  
حساب کی جانچ پڑتال کرنے والا۔

آڈیٹوریم (Auditorium) (انگ-مذ) [مذ-ا-م] وہ جہاں تقریر کی  
جاتی ہے۔ اور سامعین کی نشستوں کا انتظام ہوتا ہے اور سامعین  
تک آواز مناسب انداز میں پہنچانے کا انتظام ہوتا ہے۔

## ا

آفار (آ-فار) [ف-ا-م] چھٹا رومی مہینہ۔ چیت یا مارچ کا مہینہ۔  
آفر (آ-فر) [ف-ا-م] [مذ-۱-مذ] شمسی سال کا نوواں مہینہ پوس یا جنوری  
کے مطابق (۲) آگ۔

آذر پرست (ف-ص) آگ کی پوجا کرنے والا۔ پارسی۔ مجوسی۔



نہ اٹھانا (۲) صحت پانا۔ تندرست ہونا۔ شفا پانا (۳) فرصت پانا فراغت پانا  
 آرام پانی۔ ایک قسم کی جوتی۔  
 آرام پسند (ف۔ صفت) سست۔ کابل۔  
 آرام تلخ ہونا (۱)۔ محاورہ (عیش میں خلل پڑنا۔  
 آرام جاں (۱)۔ جان راحت (۲) معشوق۔ محبوب۔ دلی آرام۔  
 آرام چاہنا (۱)۔ محاورہ (سکھ و ٹھونڈنا۔ راحت تلاش کرنا چین کا طالب ہونا۔  
 آرام چوکی (ف۔ مٹ) آرام کرنے کے لیے لکڑی کا چھوٹا تخت۔  
 آرام چھوڑ دینا (۱)۔ محاورہ (راحت سے ہاتھ اٹھانا۔  
 آرام دینا (۱) آرام پہنچانا۔ سکھ دینا (۲) شفا دینا۔ چنگا کرنا تندرست  
 کرنا۔ صحت بخشنا۔  
 آرام رسال (ف۔ صفت) چین دینے والا۔ آسائش پہنچانے والا۔  
 آرام روح۔ روح کے لیے باعث آرام۔ معشوق۔ اولاد۔  
 آرام سے پاؤں پھیلانا (۱)۔ محاورہ (۱)۔ چین سے سونا۔ سکھ کی نیند سونا۔  
 ۲) بے فکر ہونا۔ بے غم ہونا۔ بے فکری سے بسر کرنا۔  
 آرام سے گذرنا (۱)۔ محاورہ (چین سے بسر ہونا۔ فراغت سے گزرنا۔  
 آرام طلب (ف۔ صفت) آرام چاہنے والا (۲)۔ کابل۔ سست  
 آرام کرسی (ف۔ مٹ) ایک قسم کی بڑی نکیر دار کرسی۔  
 آرام کرنا (۱) کھڑنا۔ قرار پانا (۲)۔ چپ رہنا۔ خاموش رہنا (۳)۔ ستانا۔  
 دم لینا (۳) سونا۔ لیٹنا۔ استراحت کرنا (۴)۔ چین کرنا۔  
 آرام گاہ (ف۔ مٹ) آرام کرنے کی جگہ۔ سونے کی جگہ۔ خواب گاہ۔  
 آرام لینا (۱)۔ محاورہ (کھڑنا۔ سکون حاصل کرنا۔  
 آرام میں ہیں (۱)۔ منقولہ (۱) سوتے ہیں (۲) سکھ کرتے ہیں  
 آرام ہو جانا (۱) سکھ ہو جانا۔ چین ہونا (۲) صحت پانا۔ شفا پانا۔ تکلیف کا  
 دور دور ہونا۔  
 آرائش (آ۔ را۔ اش) (ف۔ مٹ) (۱) زیبائش۔ آرائشی۔ زیب و زینت  
 سجاوٹ۔ بناؤ سنگار (۲)۔ دستی مکان و فرش (۳)۔ کاغذ کی پھولدار ٹیمیاں۔  
 پھول۔ ابرق کنول جھاڑ فانوس وغیرہ۔ جو مالدار بارات کے ساتھ لے جاتے ہیں  
 آرائش پسند (ف۔ صفت) (۱) بناؤ سنگار کا شوقین (۲) زیب و زینت کا دلدار۔  
 آرائش کرنا (۱)۔ محاورہ (سجانا۔ آراستہ کرنا۔  
 آرائش محفل (ف۔ مٹ) (۱)۔ مجلس کی سجاوٹ (۲)۔ اردو کی مشہور کتاب  
 جس میں حاتم طائی کا قصہ بیان کیا گیا ہے۔  
 آراستہ (آ۔ را۔ ان۔ دہ) (ف۔ صفت) سجانے والا۔  
 آریہ پار (آ۔ پار) (ف۔ صفت) یہ کنارا اور وہ کنارا۔ یہ ہیرا اور وہ ہیرا۔  
 دونوں رخ۔  
 آریہ (آ۔ را۔ ہ)۔ مذاہدہ۔ بھینٹ۔ نذر۔ قربانی۔ خیرات۔  
 آرٹھوگرافی (Arthrography) (آ۔ رتھوگ۔ را۔ تی) (انگ۔ ۱)۔ مذ (۱)  
 علم حروف میں گرامر کا وہ حصہ جو الفاظ کا تلفظ بتائے (۲)۔ عمارت کا ایٹادہ  
 نقشہ۔  
 آرٹی (آ۔ تی) (س۔ مٹ) پوجا کی ایک قسم جس میں دیوتاؤں کے سامنے  
 بیج منگیا دیا پھرایا جاتا ہے۔

آرٹ (Art) (انگ۔ ۱)۔ مذ (۱)۔ ہنر، فن (۲) صفائی (۳) سلیقہ۔ طہیب۔  
 (۴) عیاری۔ مکاری۔ حکمت عملی (۵) شاعری۔ مصوری۔  
 آرٹسٹ (Artist) (آ۔ رٹسٹ) (انگ۔ ۱)۔ مذ (۱)۔ صنایع۔ مصوّر۔ تصویریں۔  
 بنانے والا۔ کاریگر۔ فن کار۔ نقاش۔  
 آرٹیکل (Article) (آ۔ ٹی۔ کل) (انگ۔ ۱)۔ مذ (۱)۔ مضمون (۲)۔ قانون  
 کی دفعہ۔ (۳)۔ بشرط (۴)۔ دفعہ عائد کرنا (۵)۔ پابند بنانا۔  
 آرٹیکل آف وار (Articles of War) (۱)۔ مجموعہ قوانین جو افواج کے  
 انتظام اور سزاؤں وغیرہ سے متعلق ہو۔ ضابطہ جنگ۔ آئین لشکر۔  
 آرچ بشپ (Archbishop) (آ۔ رچ۔ ب۔ شپ) (انگ۔ ۱)۔ مذ  
 لائٹ پادری۔ پادریوں کا اعلیٰ افسر۔  
 آرڈر (آ۔ رڈ) (ف۔ ۱)۔ مذ (۱)۔ آٹا۔ چون۔ پسان۔  
 آرڈر (Order) (آ۔ رڈ) (انگ۔ ۱)۔ مذ (۱)۔ حکم۔ ارشاد۔ فرمان فرمائش۔  
 (۲)۔ تمغہ (۳)۔ طرز (۴)۔ درجہ (۵)۔ صنف (۶)۔ آداب۔ ضابطہ (۷)۔ امن وامان۔  
 (۸)۔ ہنڈی (۹)۔ پاس۔ داخلہ۔  
 آرڈر بک (Order Book) حکم لکھنے کی کتاب (۲)۔ وہ کتاب جس میں  
 خریدار وہ چیزیں تحریر کر دے جو وہ مول لینا چاہتا ہے۔  
 آرڈر (دینا) کرنا۔ کسی چیز کے خریدنے کی فرمائش کرنا۔  
 آرڈر لینا (۱)۔ کسی چیز کے خریدنے کی فرمائش لینا۔ حکم حاصل کرنا۔  
 آرڈرنری (Ordinary) (انگ۔ معمولی۔ سرسری۔ عام)۔  
 آرڈرنری نیس (Ordinance) (آ۔ رڈی نیس) (انگ۔ ۱)۔ مذ (۱)۔ ضابطہ  
 جو حکومت فوری ضرورت کے پیش نظر وقتی طور پر ملک میں نافذ کر دیتی ہے۔  
 آرڈو (آ۔ رڈ) (ف۔ مٹ) (۱)۔ خواہش۔ تمنا۔ چاہ (۲)۔ مراد۔ مقصد۔  
 مطلب۔ جمع۔ آرڈو ہا۔  
 آرڈو بر آنا (۱)۔ محاورہ (مراد پوری ہونا۔ امید حاصل ہونا۔  
 آرڈو ٹیکنا (۱)۔ محاورہ (دلی خواہش کا نہ ٹھیننا۔ تمنا کے آثار نظر آنا۔  
 آرڈو خاک میں مل جانا (۱)۔ محاورہ (امایوس ہو جانا۔ ناکام ہو جانا۔ خواہش  
 پوری نہ ہونا۔  
 آرڈو عیب نہیں (۱)۔ منقولہ کسی چیز کی خواہش کرنے میں برائی نہیں۔  
 آرڈو کا خون ہونا (۱)۔ محاورہ (خواہش کا پورا نہ ہونا۔  
 آرڈو کرنا (۱)۔ مص (خواہش کرنا۔ منت اور التجا کرنا۔  
 آرڈو گاہ (ف۔ مٹ) (۱)۔ امید پوری ہونے کی جگہ (۲)۔ دنیا۔  
 آرڈو گور میں لے جانا (۱)۔ محاورہ (زندگی میں تمنا پوری نہ ہونا۔  
 آرڈو مٹانا (۱)۔ محاورہ (امید کے خلاف کرنا۔ شوق کو خاک میں ملانا۔  
 آرڈو مرجانا (۱)۔ محاورہ (خواہش ختم ہو جانا۔ امید مٹ جانا۔  
 آرڈو مند۔ خواہش مند۔ شائق۔ مشتاق۔  
 آرڈو مند ہونا (۱)۔ محاورہ (خواہش مند ہونا۔ ملتی ہونا۔  
 آرڈو مندی (ف۔ مٹ) (۱)۔ امید واری۔ خواہش۔  
 آرڈو ٹکنا (۱)۔ محاورہ (مراد پوری ہونا۔ مطلب برآنا۔ خواہش پوری ہونا۔  
 آرڈو ٹھے خام۔ وہ آرڈو جس کا برآنا ممکن نہ ہو۔ خیال خام۔  
 آر سی (آ۔ سی) (س۔ مٹ) (۱)۔ آئینہ (۲)۔ ایک زیور جو غور میں ہاتھ کے



انگوٹھے میں پہنتی ہیں۔ اس میں شیشہ جڑا ہوتا ہے۔

آر سی تو دیکھو (۱- محاورہ) اپنی اصل تو ذرا دیکھو۔

آر سی ٹوٹ گئی (۱- محاورہ) بد صورت عورت جب حسن کا دعویٰ کرے تو ایسے موفج پر اسے اپنی اصلیت سمجھانے کے لیے بولتے ہیں۔ یعنی ذرا شکل تو دیکھو۔

آر سی مصحف دکھانا (۱- محاورہ) عقد کے بعد دو لہا اور دہن کو آئینہ اور قرآن دکھانے کی رسم دو لہا دہن کو ایک دوسرے کا منہ دکھانا۔

آرکیالوجی (Archaeology) آر۔ کب۔ یا۔ لو۔ جی [انگ۔ ۱۰۔ مٹا] علم آثار قدیمہ۔ قدیم عمارتوں کا علم۔

آرکیالوجیکل ڈیپارٹمنٹ (Archaeological Department) محکمہ آثار قدیمہ۔

آرکیسٹرا (Orchestra) آر۔ کیسٹ۔ را [انگ۔ ۱۔ مذ] سازندوں کا طائفہ۔

آرگن (Organ) آر۔ گن [انگ۔ ۱۰۔ مذ] (۱) آرگن باجا (۲) آکر۔ اوزار (۳) واسطہ۔ رابطہ۔ ترجمان۔

آرمیڈا (Armada) آر۔ سے۔ ڈا [انگ۔ ۱۰۔ مذ] جنگی جہازوں کا بیڑا جو ۱۵۸۸ء میں فلپ دوم شاہ ہسپانیہ نے انگلستان پر حملہ کرنے کے لیے روانہ کیا تھا۔

آرنڈہ (آ۔ رن۔ دہ) [ف۔ صف] لانے والا۔ جمع۔ ارنڈگان۔

آرٹھو۔ آر۔ مہاس۔ ۱۔ مذ [تہید۔ دیباچہ۔ مقدمہ۔ آغاز۔ شروع۔ آرٹھو کرنا۔ شروع کرنا۔ آغاز کرنا۔ ابتدا کرنا۔

آر و غ (آ۔ روغ) [ف۔ مٹا] ڈکار

آرہنا (آ۔ رہ۔ نا) [آر۔ مص] (۱) آپہننا۔ چلے آنا (۲) گھر پڑنا (۳) آہنا۔ آباد ہونا۔

آر کی (آ۔ ری) [ہ۔ ۱۔ مٹا] (۱) لکڑی چیرنے کا ایک اوزار

آر کے (آ۔ رے) [ف] کلہ۔ ایجاب۔ بے شک۔ بان۔

آر کے جلے کرنا (۱- محاورہ) ہاں ہاں کرنا۔ ٹاننا۔ ٹانے بائے کرنا۔

آر کے چلنا (۱- محاورہ) جان پر ہننا۔ مصیبت اٹھانا۔

آریہ (آ۔ یہ۔ اس) [۱۰۔ مٹا] (۱) بزرگ۔ معزز (۲) قدیم قوم جس کی نسل کے لوگ پاکستان، ہندوستان، ایران اور یورپ میں آباد ہیں (۳) کاشت کار۔ کھیتی کرنے والا۔ ڈھونڈ چرانے والا (۴) آریہ قوم کی زبان۔

آریہ سماج (۱۰۵۱۔ مٹا) (۱) آریہ مذہب یا آریہ لوگوں کے اعتقاد طریق پر چلنے والی ہندو جماعت (۲) پنڈت دیانند سوسنی کی پرو جماعت۔

آریہ ورت۔ آریوں کے رہنے کی جگہ۔ دریائے جمنہ اور گنگا کا وسطی علاقہ

## آ ر

آر [ہ۔ ۱۰۔ مٹا] (۱) اوٹ۔ بچاؤ۔ پناہ (۲) مددگار۔ ضامن (۳) ٹیکن۔

سہارا (۴) اٹکاؤ۔ باڑھ (۵) بندی۔ ممانعت۔ منافی۔ روک۔ آرٹھنڈ۔ آرٹھنڈن۔ ایک کپڑا جو دھوتی کی طرح پیٹ کر آگے بچھا دھکنے کو باندھتے ہیں۔ ایک قسم کا نگوٹ کا بچھا۔ لنگر۔

آرٹھنڈھنا (۱- محاورہ) اوٹ کرنا۔ پردہ ڈالنا۔

آرٹھنڈھنا (۱- محاورہ) اوٹ میں آنا۔ سہارا لینا۔ پناہ لینا۔ بہانا کرنا۔

آرٹھنڈھنا (۱- محاورہ) پردہ اٹھانا۔ حجاب توڑنا۔

آرٹھنڈھنا (۱- محاورہ) پناہ چاہنا۔ بچاؤ تلاش کرنا۔

آرٹھنڈھنا (۱- محاورہ) پردہ کرنا۔

آرٹھنڈھنا (۱- محاورہ) پناہ لینا۔

آرٹھنڈھنا (۱- محاورہ) اوٹ میں آجانا۔

آرٹھنڈھنا (۱- محاورہ) مداخلت کرنا۔ درمیان میں آنا۔ بیچ میں پڑنا۔ سہارا لینا۔ راستہ میں آنا۔

آرٹھنڈھنا (۱- محاورہ) حجاب ہونا۔ اوٹ ہونا۔ پردہ ہونا۔

آرٹھنڈھنا (۱- محاورہ) درمیان میں آنا۔ بیچ میں پڑنا۔ حاصل ہونا۔

(۲) پشت پناہ ہونا۔ کام آنا۔ حمایت لینا۔ مددگار ہونا۔

آرٹھنڈھنا (۱- محاورہ) تارنا۔ قمار کھیلنا۔ بڑا بھلا کہنا۔

آرٹھنڈھنا (۱- صفت) (۱) ترچھا۔ ٹیڑھا۔ کج۔ اُریوں (۲) ایک دھاری

آرٹھنڈھنا (۱- محاورہ) (۱) کپڑے کو ترچھا پھاڑنا (۲) زور دار پننگ کو ہوا کے رخ سے بچا کر اتارنا۔

آرٹھنڈھنا (۱- مذ) ایک قسم کا چوڑی دار پانچجامہ۔

آرٹھنڈھنا (۱- مذ) ٹیڑھا بانکا۔

آرٹھنڈھنا (۱- محاورہ) (۱) ٹیڑھا بانکا ہونا (۲) ترش رو ہونا۔ بگڑنا۔ ناراض ہونا۔ بھنا ہونا۔

آرٹھنڈھنا (۱- مذ) موسیقی میں ایک تال۔

آرٹھنڈھنا (۱- مذ) کشتی کا ایک بیج۔ حریف کی ٹانگ میں اپنی ٹانگ اڑا کر اس کا پاؤں زمین سے اکھاڑ دینا۔ ٹنگری مار کر گرا دینا۔

آرٹھنڈھنا (۱) ٹیڑھا ہونا۔ ترچھا ہونا (۲) پیٹھا پھیرنا۔ چوڑے موڑنا۔ اونڈھنا ہونا۔

آرٹھنڈھنا (۱- مذ) ایک مشہور پھل۔ شفتالو۔

آرٹھنڈھنا (۱- مذ) (۱- مٹا) [۱۱۔ مٹا] دکان یا کوٹھی جہاں سوداگروں کا مال کمیشن کے کر بیچا جاتا ہے (۲) دلالی۔ دستوری۔ ایجنسی۔ کمیشن۔

دلالی پر فروخت۔

آرٹھنڈھنا (۱- مذ) (۱- مٹا) (۱) آرٹھنڈھنا (۲) آرٹھنڈھنا (۳) آرٹھنڈھنا (۴) آرٹھنڈھنا (۵) آرٹھنڈھنا (۶) آرٹھنڈھنا (۷) آرٹھنڈھنا (۸) آرٹھنڈھنا (۹) آرٹھنڈھنا (۱۰) آرٹھنڈھنا (۱۱) آرٹھنڈھنا (۱۲) آرٹھنڈھنا (۱۳) آرٹھنڈھنا (۱۴) آرٹھنڈھنا (۱۵) آرٹھنڈھنا (۱۶) آرٹھنڈھنا (۱۷) آرٹھنڈھنا (۱۸) آرٹھنڈھنا (۱۹) آرٹھنڈھنا (۲۰) آرٹھنڈھنا (۲۱) آرٹھنڈھنا (۲۲) آرٹھنڈھنا (۲۳) آرٹھنڈھنا (۲۴) آرٹھنڈھنا (۲۵) آرٹھنڈھنا (۲۶) آرٹھنڈھنا (۲۷) آرٹھنڈھنا (۲۸) آرٹھنڈھنا (۲۹) آرٹھنڈھنا (۳۰) آرٹھنڈھنا (۳۱) آرٹھنڈھنا (۳۲) آرٹھنڈھنا (۳۳) آرٹھنڈھنا (۳۴) آرٹھنڈھنا (۳۵) آرٹھنڈھنا (۳۶) آرٹھنڈھنا (۳۷) آرٹھنڈھنا (۳۸) آرٹھنڈھنا (۳۹) آرٹھنڈھنا (۴۰) آرٹھنڈھنا (۴۱) آرٹھنڈھنا (۴۲) آرٹھنڈھنا (۴۳) آرٹھنڈھنا (۴۴) آرٹھنڈھنا (۴۵) آرٹھنڈھنا (۴۶) آرٹھنڈھنا (۴۷) آرٹھنڈھنا (۴۸) آرٹھنڈھنا (۴۹) آرٹھنڈھنا (۵۰) آرٹھنڈھنا (۵۱) آرٹھنڈھنا (۵۲) آرٹھنڈھنا (۵۳) آرٹھنڈھنا (۵۴) آرٹھنڈھنا (۵۵) آرٹھنڈھنا (۵۶) آرٹھنڈھنا (۵۷) آرٹھنڈھنا (۵۸) آرٹھنڈھنا (۵۹) آرٹھنڈھنا (۶۰) آرٹھنڈھنا (۶۱) آرٹھنڈھنا (۶۲) آرٹھنڈھنا (۶۳) آرٹھنڈھنا (۶۴) آرٹھنڈھنا (۶۵) آرٹھنڈھنا (۶۶) آرٹھنڈھنا (۶۷) آرٹھنڈھنا (۶۸) آرٹھنڈھنا (۶۹) آرٹھنڈھنا (۷۰) آرٹھنڈھنا (۷۱) آرٹھنڈھنا (۷۲) آرٹھنڈھنا (۷۳) آرٹھنڈھنا (۷۴) آرٹھنڈھنا (۷۵) آرٹھنڈھنا (۷۶) آرٹھنڈھنا (۷۷) آرٹھنڈھنا (۷۸) آرٹھنڈھنا (۷۹) آرٹھنڈھنا (۸۰) آرٹھنڈھنا (۸۱) آرٹھنڈھنا (۸۲) آرٹھنڈھنا (۸۳) آرٹھنڈھنا (۸۴) آرٹھنڈھنا (۸۵) آرٹھنڈھنا (۸۶) آرٹھنڈھنا (۸۷) آرٹھنڈھنا (۸۸) آرٹھنڈھنا (۸۹) آرٹھنڈھنا (۹۰) آرٹھنڈھنا (۹۱) آرٹھنڈھنا (۹۲) آرٹھنڈھنا (۹۳) آرٹھنڈھنا (۹۴) آرٹھنڈھنا (۹۵) آرٹھنڈھنا (۹۶) آرٹھنڈھنا (۹۷) آرٹھنڈھنا (۹۸) آرٹھنڈھنا (۹۹) آرٹھنڈھنا (۱۰۰) آرٹھنڈھنا (۱۰۱) آرٹھنڈھنا (۱۰۲) آرٹھنڈھنا (۱۰۳) آرٹھنڈھنا (۱۰۴) آرٹھنڈھنا (۱۰۵) آرٹھنڈھنا (۱۰۶) آرٹھنڈھنا (۱۰۷) آرٹھنڈھنا (۱۰۸) آرٹھنڈھنا (۱۰۹) آرٹھنڈھنا (۱۱۰) آرٹھنڈھنا (۱۱۱) آرٹھنڈھنا (۱۱۲) آرٹھنڈھنا (۱۱۳) آرٹھنڈھنا (۱۱۴) آرٹھنڈھنا (۱۱۵) آرٹھنڈھنا (۱۱۶) آرٹھنڈھنا (۱۱۷) آرٹھنڈھنا (۱۱۸) آرٹھنڈھنا (۱۱۹) آرٹھنڈھنا (۱۲۰) آرٹھنڈھنا (۱۲۱) آرٹھنڈھنا (۱۲۲) آرٹھنڈھنا (۱۲۳) آرٹھنڈھنا (۱۲۴) آرٹھنڈھنا (۱۲۵) آرٹھنڈھنا (۱۲۶) آرٹھنڈھنا (۱۲۷) آرٹھنڈھنا (۱۲۸) آرٹھنڈھنا (۱۲۹) آرٹھنڈھنا (۱۳۰) آرٹھنڈھنا (۱۳۱) آرٹھنڈھنا (۱۳۲) آرٹھنڈھنا (۱۳۳) آرٹھنڈھنا (۱۳۴) آرٹھنڈھنا (۱۳۵) آرٹھنڈھنا (۱۳۶) آرٹھنڈھنا (۱۳۷) آرٹھنڈھنا (۱۳۸) آرٹھنڈھنا (۱۳۹) آرٹھنڈھنا (۱۴۰) آرٹھنڈھنا (۱۴۱) آرٹھنڈھنا (۱۴۲) آرٹھنڈھنا (۱۴۳) آرٹھنڈھنا (۱۴۴) آرٹھنڈھنا (۱۴۵) آرٹھنڈھنا (۱۴۶) آرٹھنڈھنا (۱۴۷) آرٹھنڈھنا (۱۴۸) آرٹھنڈھنا (۱۴۹) آرٹھنڈھنا (۱۵۰) آرٹھنڈھنا (۱۵۱) آرٹھنڈھنا (۱۵۲) آرٹھنڈھنا (۱۵۳) آرٹھنڈھنا (۱۵۴) آرٹھنڈھنا (۱۵۵) آرٹھنڈھنا (۱۵۶) آرٹھنڈھنا (۱۵۷) آرٹھنڈھنا (۱۵۸) آرٹھنڈھنا (۱۵۹) آرٹھنڈھنا (۱۶۰) آرٹھنڈھنا (۱۶۱) آرٹھنڈھنا (۱۶۲) آرٹھنڈھنا (۱۶۳) آرٹھنڈھنا (۱۶۴) آرٹھنڈھنا (۱۶۵) آرٹھنڈھنا (۱۶۶) آرٹھنڈھنا (۱۶۷) آرٹھنڈھنا (۱۶۸) آرٹھنڈھنا (۱۶۹) آرٹھنڈھنا (۱۷۰) آرٹھنڈھنا (۱۷۱) آرٹھنڈھنا (۱۷۲) آرٹھنڈھنا (۱۷۳) آرٹھنڈھنا (۱۷۴) آرٹھنڈھنا (۱۷۵) آرٹھنڈھنا (۱۷۶) آرٹھنڈھنا (۱۷۷) آرٹھنڈھنا (۱۷۸) آرٹھنڈھنا (۱۷۹) آرٹھنڈھنا (۱۸۰) آرٹھنڈھنا (۱۸۱) آرٹھنڈھنا (۱۸۲) آرٹھنڈھنا (۱۸۳) آرٹھنڈھنا (۱۸۴) آرٹھنڈھنا (۱۸۵) آرٹھنڈھنا (۱۸۶) آرٹھنڈھنا (۱۸۷) آرٹھنڈھنا (۱۸۸) آرٹھنڈھنا (۱۸۹) آرٹھنڈھنا (۱۹۰) آرٹھنڈھنا (۱۹۱) آرٹھنڈھنا (۱۹۲) آرٹھنڈھنا (۱۹۳) آرٹھنڈھنا (۱۹۴) آرٹھنڈھنا (۱۹۵) آرٹھنڈھنا (۱۹۶) آرٹھنڈھنا (۱۹۷) آرٹھنڈھنا (۱۹۸) آرٹھنڈھنا (۱۹۹) آرٹھنڈھنا (۲۰۰) آرٹھنڈھنا (۲۰۱) آرٹھنڈھنا (۲۰۲) آرٹھنڈھنا (۲۰۳) آرٹھنڈھنا (۲۰۴) آرٹھنڈھنا (۲۰۵) آرٹھنڈھنا (۲۰۶) آرٹھنڈھنا (۲۰۷) آرٹھنڈھنا (۲۰۸) آرٹھنڈھنا (۲۰۹) آرٹھنڈھنا (۲۱۰) آرٹھنڈھنا (۲۱۱) آرٹھنڈھنا (۲۱۲) آرٹھنڈھنا (۲۱۳) آرٹھنڈھنا (۲۱۴) آرٹھنڈھنا (۲۱۵) آرٹھنڈھنا (۲۱۶) آرٹھنڈھنا (۲۱۷) آرٹھنڈھنا (۲۱۸) آرٹھنڈھنا (۲۱۹) آرٹھنڈھنا (۲۲۰) آرٹھنڈھنا (۲۲۱) آرٹھنڈھنا (۲۲۲) آرٹھنڈھنا (۲۲۳) آرٹھنڈھنا (۲۲۴) آرٹھنڈھنا (۲۲۵) آرٹھنڈھنا (۲۲۶) آرٹھنڈھنا (۲۲۷) آرٹھنڈھنا (۲۲۸) آرٹھنڈھنا (۲۲۹) آرٹھنڈھنا (۲۳۰) آرٹھنڈھنا (۲۳۱) آرٹھنڈھنا (۲۳۲) آرٹھنڈھنا (۲۳۳) آرٹھنڈھنا (۲۳۴) آرٹھنڈھنا (۲۳۵) آرٹھنڈھنا (۲۳۶) آرٹھنڈھنا (۲۳۷) آرٹھنڈھنا (۲۳۸) آرٹھنڈھنا (۲۳۹) آرٹھنڈھنا (۲۴۰) آرٹھنڈھنا (۲۴۱) آرٹھنڈھنا (۲۴۲) آرٹھنڈھنا (۲۴۳) آرٹھنڈھنا (۲۴۴) آرٹھنڈھنا (۲۴۵) آرٹھنڈھنا (۲۴۶) آرٹھنڈھنا (۲۴۷) آرٹھنڈھنا (۲۴۸) آرٹھنڈھنا (۲۴۹) آرٹھنڈھنا (۲۵۰) آرٹھنڈھنا (۲۵۱) آرٹھنڈھنا (۲۵۲) آرٹھنڈھنا (۲۵۳) آرٹھنڈھنا (۲۵۴) آرٹھنڈھنا (۲۵۵) آرٹھنڈھنا (۲۵۶) آرٹھنڈھنا (۲۵۷) آرٹھنڈھنا (۲۵۸) آرٹھنڈھنا (۲۵۹) آرٹھنڈھنا (۲۶۰) آرٹھنڈھنا (۲۶۱) آرٹھنڈھنا (۲۶۲) آرٹھنڈھنا (۲۶۳) آرٹھنڈھنا (۲۶۴) آرٹھنڈھنا (۲۶۵) آرٹھنڈھنا (۲۶۶) آرٹھنڈھنا (۲۶۷) آرٹھنڈھنا (۲۶۸) آرٹھنڈھنا (۲۶۹) آرٹھنڈھنا (۲۷۰) آرٹھنڈھنا (۲۷۱) آرٹھنڈھنا (۲۷۲) آرٹھنڈھنا (۲۷۳) آرٹھنڈھنا (۲۷۴) آرٹھنڈھنا (۲۷۵) آرٹھنڈھنا (۲۷۶) آرٹھنڈھنا (۲۷۷) آرٹھنڈھنا (۲۷۸) آرٹھنڈھنا (۲۷۹) آرٹھنڈھنا (۲۸۰) آرٹھنڈھنا (۲۸۱) آرٹھنڈھنا (۲۸۲) آرٹھنڈھنا (۲۸۳) آرٹھنڈھنا (۲۸۴) آرٹھنڈھنا (۲۸۵) آرٹھنڈھنا (۲۸۶) آرٹھنڈھنا (۲۸۷) آرٹھنڈھنا (۲۸۸) آرٹھنڈھنا (۲۸۹) آرٹھنڈھنا (۲۹۰) آرٹھنڈھنا (۲۹۱) آرٹھنڈھنا (۲۹۲) آرٹھنڈھنا (۲۹۳) آرٹھنڈھنا (۲۹۴) آرٹھنڈھنا (۲۹۵) آرٹھنڈھنا (۲۹۶) آرٹھنڈھنا (۲۹۷) آرٹھنڈھنا (۲۹۸) آرٹھنڈھنا (۲۹۹) آرٹھنڈھنا (۳۰۰) آرٹھنڈھنا (۳۰۱) آرٹھنڈھنا (۳۰۲) آرٹھنڈھنا (۳۰۳) آرٹھنڈھنا (۳۰۴) آرٹھنڈھنا (۳۰۵) آرٹھنڈھنا (۳۰۶) آرٹھنڈھنا (۳۰۷) آرٹھنڈھنا (۳۰۸) آرٹھنڈھنا (۳۰۹) آرٹھنڈھنا (۳۱۰) آرٹھنڈھنا (۳۱۱) آرٹھنڈھنا (۳۱۲) آرٹھنڈھنا (۳۱۳) آرٹھنڈھنا (۳۱۴) آرٹھنڈھنا (۳۱۵) آرٹھنڈھنا (۳۱۶) آرٹھنڈھنا (۳۱۷) آرٹھنڈھنا (۳۱۸) آرٹھنڈھنا (۳۱۹) آرٹھنڈھنا (۳۲۰) آرٹھنڈھنا (۳۲۱) آرٹھنڈھنا (۳۲۲) آرٹھنڈھنا (۳۲۳) آرٹھنڈھنا (۳۲۴) آرٹھنڈھنا (۳۲۵) آرٹھنڈھنا (۳۲۶) آرٹھنڈھنا (۳۲۷) آرٹھنڈھنا (۳۲۸) آرٹھنڈھنا (۳۲۹) آرٹھنڈھنا (۳۳۰) آرٹھنڈھنا (۳۳۱) آرٹھنڈھنا (۳۳۲) آرٹھنڈھنا (۳۳۳) آرٹھنڈھنا (۳۳۴) آرٹھنڈھنا (۳۳۵) آرٹھنڈھنا (۳۳۶) آرٹھنڈھنا (۳۳۷) آرٹھنڈھنا (۳۳۸) آرٹھنڈھنا (۳۳۹) آرٹھنڈھنا (۳۴۰) آرٹھنڈھنا (۳۴۱) آرٹھنڈھنا (۳۴۲) آرٹھنڈھنا (۳۴۳) آرٹھنڈھنا (۳۴۴) آرٹھنڈھنا (۳۴۵) آرٹھنڈھنا (۳۴۶) آرٹھنڈھنا (۳۴۷) آرٹھنڈھنا (۳۴۸) آرٹھنڈھنا (۳۴۹) آرٹھنڈھنا (۳۵۰) آرٹھنڈھنا (۳۵۱) آرٹھنڈھنا (۳۵۲) آرٹھنڈھنا (۳۵۳) آرٹھنڈھنا (۳۵۴) آرٹھنڈھنا (۳۵۵) آرٹھنڈھنا (۳۵۶) آرٹھنڈھنا (۳۵۷) آرٹھنڈھنا (۳۵۸) آرٹھنڈھنا (۳۵۹) آرٹھنڈھنا (۳۶۰) آرٹھنڈھنا (۳۶۱) آرٹھنڈھنا (۳۶۲) آرٹھنڈھنا (۳۶۳) آرٹھنڈھنا (۳۶۴) آرٹھنڈھنا (۳۶۵) آرٹھنڈھنا (۳۶۶) آرٹھنڈھنا (۳۶۷) آرٹھنڈھنا (۳۶۸) آرٹھنڈھنا (۳۶۹) آرٹھنڈھنا (۳۷۰) آرٹھنڈھنا (۳۷۱) آرٹھنڈھنا (۳۷۲) آرٹھنڈھنا (۳۷۳) آرٹھنڈھنا (۳۷۴) آرٹھنڈھنا (۳۷۵) آرٹھنڈھنا (۳۷۶) آرٹھنڈھنا (۳۷۷) آرٹھنڈھنا (۳۷۸) آرٹھنڈھنا (۳۷۹) آرٹھنڈھنا (۳۸۰) آرٹھنڈھنا (۳۸۱) آرٹھنڈھنا (۳۸۲) آرٹھنڈھنا (۳۸۳) آرٹھنڈھنا (۳۸۴) آرٹھنڈھنا (۳۸۵) آرٹھنڈھنا (۳۸۶) آرٹھنڈھنا (۳۸۷) آرٹھنڈھنا (۳۸۸) آرٹھنڈھنا (۳۸۹) آرٹھنڈھنا (۳۹۰) آرٹھنڈھنا (۳۹۱) آرٹھنڈھنا (۳۹۲) آرٹھنڈھنا (۳۹۳) آرٹھنڈھنا (۳۹۴) آرٹھنڈھنا (۳۹۵) آرٹھنڈھنا (۳۹۶) آرٹھنڈھنا (۳۹۷) آرٹھنڈھنا (۳۹۸) آرٹھنڈھنا (۳۹۹) آرٹھنڈھنا (۴۰۰) آرٹھنڈھنا (۴۰۱) آرٹھنڈھنا (۴۰۲) آرٹھنڈھنا (۴۰۳) آرٹھنڈھنا (۴۰۴) آرٹھنڈھنا (۴۰۵) آرٹھنڈھنا (۴۰۶) آرٹھنڈھنا (۴۰۷) آرٹھنڈھنا (۴۰۸) آرٹھنڈھنا (۴۰۹) آرٹھنڈھنا (۴۱۰) آرٹھنڈھنا (۴۱۱) آرٹھنڈھنا (۴۱۲) آرٹھنڈھنا (۴۱۳) آرٹھنڈھنا (۴۱۴) آرٹھنڈھنا (۴۱۵) آرٹھنڈھنا (۴۱۶) آرٹھنڈھنا (۴۱۷) آرٹھنڈھنا (۴۱۸) آرٹھنڈھنا (۴۱۹) آرٹھنڈھنا (۴۲۰) آرٹھنڈھنا (۴۲۱) آرٹھنڈھنا (۴۲۲) آرٹھنڈھنا (۴۲۳) آرٹھنڈھنا (۴۲۴) آرٹھنڈھنا (۴۲۵) آرٹھنڈھنا (۴۲۶) آرٹھنڈھنا (۴۲۷) آرٹھنڈھنا (۴۲۸) آرٹھنڈھنا (۴۲۹) آرٹھنڈھنا (۴۳۰) آرٹھنڈھنا (۴۳۱) آرٹھنڈھنا (۴۳۲) آرٹھنڈھنا (۴۳۳) آرٹھنڈھنا (۴۳۴) آرٹھنڈھنا (۴۳۵) آرٹھنڈھنا (۴۳۶) آرٹھنڈھنا (۴۳۷) آرٹھنڈھنا (۴۳۸) آرٹھنڈھنا (۴۳۹) آرٹھنڈھنا (۴۴۰) آرٹھنڈھنا (۴۴۱) آرٹھنڈھنا (۴۴۲) آرٹھنڈھنا (۴۴۳) آرٹھنڈھنا (۴۴۴) آرٹھنڈھنا (۴۴۵) آرٹھنڈھنا (۴۴۶) آرٹھنڈھنا (۴۴۷) آرٹھنڈھنا (۴۴۸) آرٹھنڈھنا (۴۴۹) آرٹھنڈھنا (۴۵۰) آرٹھنڈھنا (۴۵۱) آرٹھنڈھنا (۴۵۲) آرٹھنڈھنا (۴۵۳) آرٹھنڈھنا (۴۵۴) آرٹھنڈھنا (۴۵۵) آرٹھنڈھنا (۴۵۶) آرٹھنڈھنا (۴۵۷) آرٹھنڈھنا (۴۵۸) آرٹھنڈھنا (۴۵۹) آرٹھنڈھنا (۴۶۰) آرٹھنڈھنا (۴۶۱) آرٹھنڈھنا (۴۶۲) آرٹھنڈھنا (۴۶۳) آرٹھنڈھنا (۴۶۴) آرٹھنڈھنا (۴۶۵) آرٹھنڈھنا (۴۶۶) آرٹھنڈھنا (۴۶۷) آرٹھنڈھنا (۴۶۸) آرٹھنڈھنا (۴۶۹) آرٹھنڈھنا (۴۷۰) آرٹھنڈھنا (۴۷۱) آرٹھنڈھنا (۴۷۲) آرٹھنڈھنا (۴۷۳) آرٹھنڈھنا (۴۷۴) آرٹھنڈھنا (۴۷۵) آرٹھنڈھنا (۴۷۶) آرٹھنڈھنا (۴۷۷) آرٹھنڈھنا (۴۷۸) آرٹھنڈھنا (۴۷۹) آرٹھنڈھنا (۴۸۰) آرٹھنڈھنا (۴۸۱) آرٹھنڈھنا (۴۸۲) آرٹھنڈھنا (۴۸۳) آرٹھنڈھنا (۴۸۴) آرٹھنڈھنا (۴۸۵) آرٹھنڈھنا (۴۸۶) آرٹھنڈھنا (۴۸۷) آرٹھنڈھنا (۴۸۸) آرٹھنڈھنا (۴۸۹) آرٹھنڈھنا (۴۹۰) آرٹھنڈھنا (۴۹۱) آرٹھنڈھنا (۴۹۲) آرٹھنڈھنا (۴۹۳) آرٹھنڈھنا (۴۹۴) آرٹھنڈھنا (۴۹۵) آرٹھنڈھنا (۴۹۶) آرٹھنڈھنا (۴۹۷) آرٹھنڈھنا (۴۹۸) آرٹھنڈھنا (۴۹۹) آرٹھنڈھنا (۵۰۰) آرٹھنڈھنا (۵۰۱) آرٹھنڈھنا (۵۰۲) آرٹھنڈھنا (۵۰۳) آرٹھنڈھنا (۵۰۴) آرٹھنڈھنا (۵۰۵) آرٹھنڈھنا (۵۰۶) آرٹھنڈھنا (۵۰۷) آرٹھنڈھنا (۵۰۸) آرٹھنڈھنا (۵۰۹) آرٹھنڈھنا (۵۱۰) آرٹھنڈھنا (۵۱۱) آرٹھنڈھنا (۵۱۲) آرٹھنڈھنا (۵۱۳) آرٹھنڈھنا (۵۱۴) آرٹھنڈھنا (۵۱۵) آرٹھنڈھنا (۵۱۶) آرٹھنڈھنا (۵۱۷) آرٹھنڈھنا (۵۱۸) آرٹھنڈھنا (۵۱۹) آرٹھنڈھنا (۵۲۰) آرٹھنڈھنا (۵۲۱) آرٹھنڈھنا (۵۲۲) آرٹھنڈھنا (۵۲۳) آرٹھنڈھنا (۵۲۴) آرٹھنڈھنا (۵۲۵) آرٹھنڈھنا (۵۲۶) آرٹھنڈھنا (۵۲۷) آرٹھنڈھنا (۵۲۸) آرٹھنڈھنا (۵۲۹) آرٹھنڈھنا (۵۳۰) آرٹھنڈھنا (۵۳۱) آرٹھنڈھنا (۵۳۲) آرٹھنڈھنا (۵۳۳) آرٹھنڈھنا (۵۳۴) آرٹھنڈھنا (۵۳۵) آرٹھنڈھنا (۵۳۶) آرٹھنڈھنا (۵۳۷) آرٹھنڈھنا (۵۳۸) آرٹھنڈھنا (۵۳۹) آرٹھنڈھنا (۵۴۰) آرٹھنڈھنا (۵۴۱) آرٹھنڈھنا (۵۴۲) آرٹھنڈھنا (۵۴۳) آرٹھنڈھنا (۵۴۴) آرٹھنڈھنا (۵۴۵) آرٹھنڈھنا (۵۴۶) آرٹھنڈھنا (۵۴۷) آرٹھنڈھنا (۵۴۸) آرٹھنڈھنا (۵۴۹) آرٹھنڈھنا (۵۵۰) آرٹھنڈھنا (۵۵۱) آرٹھنڈھنا (۵۵۲) آرٹھنڈھنا (۵۵۳) آرٹھنڈھنا (۵۵۴) آرٹھنڈھنا (۵۵۵) آرٹھنڈھنا (۵۵۶) آرٹھنڈھنا (۵۵۷) آرٹھنڈھنا (۵۵۸) آرٹھنڈھنا (۵۵۹) آرٹھنڈھنا (۵۶۰) آرٹھنڈھنا (۵۶۱) آرٹھنڈھنا (۵۶۲) آرٹھنڈھنا (۵۶۳) آرٹھنڈھنا (۵۶۴) آرٹھنڈھنا (۵۶۵) آرٹھنڈھنا (۵۶۶) آرٹھنڈھنا (۵۶۷) آرٹھنڈھنا (۵۶۸) آرٹھنڈھنا (۵۶۹) آرٹھنڈھنا (۵۷۰) آرٹھنڈھنا (۵۷۱) آرٹھنڈھنا (۵۷۲) آرٹھنڈھنا (۵۷۳) آرٹھنڈھنا (۵۷۴) آرٹھنڈھنا (۵۷۵) آرٹھنڈھنا (۵۷۶) آرٹھنڈھنا (۵۷۷) آرٹھنڈھنا (۵۷۸) آرٹھنڈھنا (۵۷۹) آرٹھنڈھنا (۵۸۰) آرٹھنڈھنا (۵۸۱) آرٹھنڈھنا (۵۸۲) آرٹھنڈھنا (۵۸۳) آرٹھنڈھنا (۵۸۴) آرٹھنڈھنا (۵۸۵) آرٹھنڈھنا (۵۸۶) آرٹھنڈھنا (۵۸۷) آرٹھنڈھنا (۵۸۸) آرٹھنڈھنا (۵۸۹) آرٹھنڈھنا (۵۹۰) آرٹھنڈھنا (۵۹۱) آرٹھنڈھنا (۵۹۲) آرٹھنڈھنا (۵۹۳) آرٹھنڈھنا (۵۹۴) آرٹھنڈھنا (۵۹۵) آرٹھنڈھنا (۵۹۶) آرٹھنڈھنا (۵۹۷) آرٹھنڈھنا (۵۹۸) آرٹھنڈھنا (۵۹۹) آر



آز می کرنا (۱) - محاورہ (۱۱) زر کوئی کی اصطلاح میں طولا ورق کوٹ کر  
عرضاً کوٹنا (۲) کھیل میں دوست بتانا۔  
آز می کوٹ - ترچھی تراش کی کوٹ۔  
آز می بیگل (۱) - مٹ ایک زیور کا نام جو گلے میں بدھی کی طرح پہنا  
جاتا ہے۔

## آز

آز اف - (۱) مٹ احرص - طبع - لایح۔

آزاد (آ - زار) (ف - صف) (۱) بری - رستگار (۲) خود مختار - فارغ (۳) بے غم  
بے قید - جو کسی کا پابند نہ ہو - غلام کی ضد - جمع - آزادگان (۴) سڑ کی ایک  
قسم - سرد آزاد (۵) مولانا محمد حسین مصنف آبجیات اور مولانا ابوالکلام  
کا تخلص۔

آزاد رو - آزادہ رو (۱) آزاد طبیعت والا (۲) وہ شخص جو کسی بات کا  
پابند نہ ہو - خود مختار - بے تعصب (۳) فقیر (۴) نڈر - بے خوف -  
آزاد طبع (۱) وہ شخص جس کی طبیعت میں آزادی ہو - (۲) بے خوف طبیعت  
رکھنے والا - صاف گو۔

آزاد کا سونٹا (۱) - مذ آزاد فقیر کا لٹا (۲) مٹر پھٹ - اکھڑے بے باک -  
آزاد کا تشقہ (۱) - مذ مانتے پر آزاد فقیر ہونے کی نشانی - آزاد فقیر مانتے  
پر الف بنائیتے ہیں۔

آزاد کرنا (۱) - محاورہ (۱) رہا کرنا - چھٹکارا دینا - خلاصی دینا (۲) نوکری سے  
جواب دینا - موقوف کرنا - رخصت کرنا - نکال دینا۔  
آزاد لوگ (۱) - مذ آزاد فقیروں کا گروہ (۲) کسی قید کی پابندی نہ  
کرنے والے۔

آزاد بردار (۱) - مذ نڈر - بے خوف - کھرا اور صاف گو آدمی۔  
آزاد منس (ف - ا - مذ) وہ شخص جو کسی بات کا پابند نہ ہو - وہ شخص جو  
کسی سے لاگ پیٹ نہ رکھے - صاف گو۔

آزاد نامہ (ف - مذ) نوشتہ یا دستاویز جو غلام کی آزادی کے لیے  
لکھی جائے۔

آزاد ہونا (۱) - محاورہ (۱) چھوٹنا - رہا ہونا - بری ہونا (۲) خود مختار ہونا  
(۳) بے پردا ہونا بے شرم ہونا - بے ادب ہونا۔

آزادانہ (آ - زار - ذ - ذ - مذ) (ف - صف) (۱) آزاد کی طرح (۲) آزادی کے  
ساتھ کسی روک ٹوک کے بغیر - بے باکانہ۔

آزادانہ رائے - وہ رائے جس میں کسی کی طرف داری یا رباؤ نہ ہو۔  
بے تعصب رائے۔

آزادانہ وضع (۱) آزاد فقیروں کا طور طریق (۲) ادبائوں کی وضع۔  
آزادگی (آ - زار - ذ - ذ - مذ) (ف - صف) (۱) مٹ آزادی - رہائی۔

آزادہ (آ - زار - ذ - ذ - مذ) (ف - صف) آزاد - قید سے چھوٹا ہوا۔  
آزادہ مزاجی - طبیعت کی سادگی - بے تکلفی - بے پردائی۔

آزادی (آ - زار - ذ - ذ - مذ) (ف - صف) (۱) رہائی - چھٹکارا (۲) خود مختاری

باختیاری - بے پردائی۔

آزادی کا (خط) کاغذ (۱) - مذ رہائی کا پروانہ۔

آزار (آ - زار) (ف - ا - مذ) (۱) بیماری - دکھ - مرض (۲) تکلیف - سختی  
پینا - جنجال - بکھیرا۔

آزار اٹھانا (۱) - محاورہ (۱) صدمہ برداشت کرنا - درد دکھ بھیننا۔

آزار پہنچانا (۱) - محاورہ (۱) دکھ دینا - تکلیف پہنچانا - ستانا۔

آزار پہنچنا (۱) - محاورہ (۱) تکلیف پہنچنا - ستایا جانا۔

آزار پھیلنا (۱) - محاورہ (۱) کسی بیماری کا بڑھنا۔

آزار پیدا ہونا (۱) - محاورہ (۱) روگ لگنا۔

آزار دینا (۱) - محاورہ (۱) دکھ دینا - تکلیف دینا۔

آزار لگنا (۱) - محاورہ (۱) بیماری لگنا - عذاب لگنا - جنجال لگنا۔

آزار (آ - زار) (ع - ا - مذ) حضرت ابراہیم کے چچا کا نام جو بت پرست اور  
مبتدع تراش تھے۔

آزردگی (آ - زرد - ذ - ذ - مذ) (ف - صف) (۱) خفگی - ناخوشی - ناراضگی (۲)  
بگاڑ - رنجش - ملال (۳) اراسی - غمگینی۔

آزردہ (آ - زرد - ذ - ذ - مذ) (ف - صف) (۱) ناراض - ناخوش - خفا - رنجیدہ  
جمع: آزردگان۔

آزردہ خاطر (ف - ا - مذ) آزردہ دل - اداس - غمگین - خفا - رنجیدہ۔

آزردہ کرنا (۱) - محاورہ (۱) رنجیدہ کرنا - خفا کرنا - ناراض کرنا - دل دکھانا۔  
آزردہ ہونا (۱) - محاورہ (۱) ناخوش ہونا - رنجیدہ ہونا - خفا ہونا (۲)  
بابوس ہونا۔

آزرم (آ - زرم) (ف - ا - مٹ) شرم دحیا - نرمی۔

آزرقہ (آ - زرقہ) (آ - زرقہ) (ع - ا - مذ) (۱) تھوڑی سی غذا  
(۲) کم تنخواہ (۳) پرند کا چوگا۔

آزما (آ - زما) (ف - صف) امتحان لینے والا - تجربہ کرنے والا - جمع: آزماہاں۔  
آزما لینا (۱) - محاورہ (۱) جانچ لینا - امتحان کر لینا - خوب دیکھ بھال لینا۔

آزما نا (آ - زما - نا) (ا - مص) [جا پچنا - امتحان کرنا - پرکھنا۔

آزما لیش (آ - زما - لیش) (ف - ا - مٹ) [جانچ پڑتال - امتحان - تجربہ۔  
آزما لیش کرنا - آزما نا - پرکھنا - جانچنا۔

آزما لشی (آ - زما - لشی) (ف - صف) امتحانی۔

آزمودہ (آ - زمو - ذ - ذ - مذ) (ف - صف) (۱) مجرب - دیکھا بھالا - جانچا ہوا۔

آزمایا ہوا - تجربہ کیا ہوا - امتحان کیا ہوا - پرکھا ہوا (۲) عنبریدہ - منشا۔

آزمودہ را آزمودن جہل است (ف - مٹ) (۱) آزمائے ہوئے کو آزمانا۔  
غلطی سے۔

آزمودہ کار (ف - صف) [تجربہ کار - ہوشیار - ہنرمند - پختہ کار - خزانہ (۳)  
عقلندہ - چالاک - مستعد۔

آزمودہ لینا (۱) عنبریدہ یا منشا دریافت کرنا - ٹوہ لینا - بھید لینا (۲) امتحان  
لینا - جانچنا۔

آزوبازو (ذ - ق) آس پاس - ادھر - ادھر۔



## آس

آس [ہ-ا-مٹ] (۱) آشا۔ اُمید (۲) خواہش۔ آرزو۔ آسرا۔ بھروسہ۔ سہارا۔

آس اولاد (ہ-ا-مٹ) اباں بچے۔ بیٹا۔ بیٹی۔

آس اولاد والی۔ صاحب اولاد عورت۔

آس باندھنا (۱) محاورہ (۲) اُمید کرنا۔ آسیر لگانا۔

آس بندھنا (۱) محاورہ (۲) اُمید بندھنا۔ توقع ہونا۔

آس بیکانی جو تکے وہ حیوت ہی مر جائے۔ (۱) مثل اپرائے بھروسہ پر زندہ رہنے سے مرجانا بہتر ہے۔

آس بی بی کی ٹکیاں۔ وہ لمبھی ٹکیاں جن پر حضرت عائشہؓ کی نیاز دلوائی جاتی ہے۔

آس بچنا (۱) محاورہ (۲) اُمید برآنا۔ مراد حاصل ہونا۔

آس پوری ہونا (۱) محاورہ (۲) اُمید پوری ہو جانا۔ کام بن جانا۔

آس بچنا (۱) محاورہ (۲) اُمید چھوڑ دینا۔ آرزو سے ہاتھ دھولینا۔

آس تکنا (۱) محاورہ (۲) انتظار کرنا۔ امیدوار ہونا (۲) راہ دیکھنا۔

آس توڑنا (۱) محاورہ (۲) اُمید کرنا۔ مایوس کرنا۔

آس ٹوٹنا (۱) محاورہ (۲) اُمید ہونا۔ مایوس ہونا۔

آس چھوٹنا (۱) محاورہ (۲) اُمید ہونا۔ مایوس ہونا۔

آس چھوڑنا (۱) محاورہ (۲) اُمید سے ہاتھ اٹھانا۔ ہاتھ دھو بیٹھنا۔

آس دینا (۱) محاورہ (۲) اُمید بندھوانا۔ ڈھارس بندھوانا۔

آس رکھنا (۱) محاورہ (۲) بھروسہ رکھنا۔ اُمید رکھنا۔

آس لگانا (۱) محاورہ (۲) اُمید باندھنا۔

آس مراد (۱) مٹ (۲) آل اولاد (۲) دھن دولت۔

آس مراد والی (۱) مٹ (۲) آل اولاد والی (۲) دھن دولت والی (۳) صاحب نصیب عورت۔

آس ہونا (۱) محاورہ (۲) اُمید ہونا۔ بھروسہ ہونا۔ اطمینان ہونا (۲) گل ہونا۔

آسا (آ-سا) [ہ-ا-مٹ] (۱) اُمید۔ بھروسہ۔ (۲) امیدوار۔

آسا جیسے نرا سامرے (۱) مثل (۲) انسان اُمید کے سہارے جیتا ہے۔

آسا اور مایوسی سے مر جاتا ہے۔

آسا (آ-سا) [ف] مانند۔ مثل۔

آساہ۔ مذا ایک راک جو صبح کے وقت گایا جاتا ہے۔

آسان (آ-سان) [ف-ص] سہل۔ سہج۔

آسان (کمردینا) کرنا (۱) محاورہ (۲) سہل کر دینا۔ مشکل دور کر دینا۔

آسان ہونا۔ سہل ہونا۔ سہج ہونا۔ مشکل رفع ہونا۔

آسانی (آ-سانی) [ف-ا-مٹ] (۱) سہولت۔ سہج پن۔ بلا وقت۔

آسان (آ-سان) [ش-ا-مٹ] (۱) راحت۔ جمع۔ آسانیاں۔

آسان (آ-سان) [ش-ا-مٹ] (۱) راحت۔ آرام۔ سکھ چین۔ جمع۔ آسانیں۔

آس پاس (آس-پاس) [ہ-ا-مٹ] (۱) ارد گرد۔ قرب و جوار۔ پاس پڑوس گرد و پیش۔ اگل بغل۔

آس پاس برسے، دلی پڑھی ترسے (۱) مثل (۲) غبار فائدہ اٹھائیں اور حقدار محروم رہیں۔

آس پاس پھرنا۔ چوگرد پھرنا۔ طواف کرنا۔ صدقہ ہونا۔

آس پاس ہونا۔ ارد گرد ہونا۔ نزدیک ہونا۔

آسا (آ-سا) [ہ-ا-مٹ] (۱) آسرا۔

آستان۔ آستانہ (آس-تان، آس-تا۔ تہ) [ف-ا-مٹ] (۱) چوکھٹ ڈیورٹھی۔ دروازہ (۲) بزرگوں کے مزار۔ روضہ کا دروازہ۔

آستان بوس (۱) چوکھٹ چومنے والا (۲) معتقد۔ عقیدتمند۔ خادم۔ آستان بوسی (۱) چوکھٹ چومنا (۲) غلامی۔ خدمت گاری (۳) کسی بزرگ سے نیاز حاصل کرنا۔

آستانی (آس-تا۔ ای) [ہ-ا-مٹ] (۱) کسی گیت کا ابتدائی ٹکڑا۔ (۲) خیال کو بھی آستانی کہتے ہیں۔

آستین (آس-تین) [ف-ا-مٹ] (۱) شیردانی کوٹ۔ کمرے یا قمیص وغیرہ کی بانہ۔

آستین چڑھانا (۱) محاورہ (۲) آستین اوپر کھینچنا (۲) کام کے لیے مستعد ہونا۔ (۳) لڑنے مرنے کو تیار ہونا (۴) ذبح کرنے پر آمادہ ہونا۔

آستین کا سانپ (۱) مذ (۲) چھپا ہوا دشمن بد دوستی کے پردے میں دشمنی کرنے والا۔

آستین میں سانپ پالنا (۱) مثل (۲) دشمن کی پرورش کرنا۔ اپنے بدخواہ کو اپنے پاس رکھنا۔

آسرا (آس-را) [ہ-ا-مٹ] (۱) سہارا۔ بھروسہ۔ آس۔ اُمید (۲) وسیلہ۔ توقع۔

آسرا بکھڑنا (۱) محاورہ (۲) سہارا لینا۔ بھروسہ کرنا۔ اُمید کرنا۔

آسرا بکھڑنا (۱) محاورہ (۲) سہارا ڈھونڈنا۔ پناہ چاہنا۔

آسرا ٹوٹنا (۱) محاورہ (۲) اُمید ختم ہونا۔ سہارا نہ رہنا۔

آسرا دینا (۱) محاورہ (۲) سہارا دینا۔ اُمید دلانا۔

آسرا ڈھونڈنا (۱) محاورہ (۲) سہارا تلاش کرنا۔

آسرا کرنا (۱) محاورہ (۲) اُمید کرنا۔ توقع کرنا۔

آسرا لگانا (۱) محاورہ (۲) اُمید باندھنا۔

آسرا لینا (۱) محاورہ (۲) پناہ لینا۔ حمایت چاہنا۔ مدد ڈھونڈنا۔

آسرا ہونا (۱) محاورہ (۲) اُمید ہونا۔ بھروسہ ہونا۔ سہارا ہونا۔

آسمان (آس-مان) [ف-ا-مٹ] (۱) چکی کی مانند (۲) فلک۔ چرخ۔ گردوں۔

آکاش پرانے زمانے میں زمین کو ساکن اور آسمان کو متحرک مانتے تھے۔ اس لیے آسمان نام ہو گیا۔ جیسے چکی کے اوپر کا پاٹ گھومتا ہے۔

نیچے کا ساکن ہوتا ہے۔

آسمان بر اڑنا (۱) محاورہ (۲) اترنا۔ غرور کرنا۔ شیخی مارنا (۲) بلند پروازی کرنا۔

آسمان پر کھوکھلا (۱) محاورہ (۲) ایسی حرکت کرنا جس سے اپنی ہی ذلت ظاہر ہو۔

بوجے ہوئے اور بے فائدہ کام کرنا۔ (۲) بڑوں کا منہ چڑھانا۔



آسمان پر چڑھنے کے اتارنا (۱)۔ مثل عزت بڑھانے کے گھٹانا۔  
 آسمان پر چڑھنا (۱)۔ محاورہ (سر بلند کرنا۔ مرتبہ بخشا (۲)۔ حد سے زیادہ تعریف و توصیف کرنا (۳)۔ خوشامد کرنا۔ چالوسی کرنا۔  
 آسمان پر دماغ کھینچنا (۱)۔ محاورہ (غزور کرنا۔ اپنے کو بہت بڑا سمجھنا۔  
 آسمان پر قدم رکھنا (۱)۔ محاورہ (دُور کی لینا۔ سچی مارتا (۲)۔ غزور کرنا۔  
 آسمان پر ہونا (۱)۔ محاورہ (بلند مرتبہ ہونا (۲)۔ خود پسند ہونا۔ مغرور ہونا۔  
 آسمان پھٹ پڑنا (۱)۔ محاورہ (قہر الہی نازل ہونا۔ سخت مصیبت پڑنا۔  
 آسمان ٹھکراتا (۱)۔ محاورہ (شدید ظلم ہونا (۲)۔ واقعہ عظیم ہونا۔  
 آسمان ٹل جانا (۱)۔ محاورہ (۱)۔ آسمان کا اپنی جگہ سے ہٹ جانا۔ مراد امر محال ہے (۲)۔ ناممکن انقلاب ہو جانا۔  
 آسمان اٹوٹ پڑنا (۱)۔ محاورہ (۱)۔ آسمان گری پڑنا (۲)۔ سخت آفت آنا۔  
 سخت مصیبت پڑنا۔ غضب الہی نازل ہونا۔  
 آسمان جاہ (ف۔ ص) (۱)۔ آسمان کی طرح بلندی والا۔ آسمان کی اونچائی والا۔  
 (۲)۔ بہت عزت والا۔ بڑے رتبے والا۔  
 آسمان جھانکنا (۱)۔ محاورہ (۱)۔ آسمان دیکھنا (۲)۔ اڑنے کا ارادہ کرنا (۳)۔ مرغ کا مستحکم نیار ہونا۔  
 آسمان دیکھنا (۱)۔ محاورہ (۱)۔ ناامیدی کے عالم میں نظر بخدا ہونا۔ مجبوری کی حالت میں آسمان کی طرف نظر اٹھانا (۲)۔ متلی کی حالت میں عورتیں اوپر دیکھنے کو کہتی ہیں تاکہ طبیعت دوسری طرف متوجہ ہو جائے۔  
 آسمان زمین ایک (کر دینا) کر ڈالنا (۱)۔ مثل (۱)۔ بل چل ڈال دینا۔ ہلڑ مچا دینا (۲)۔ بے حد کوشش کرنا۔ بہت دوش دھوپ کرنا۔  
 آسمان زمین ایک ہونا (۱)۔ محاورہ (۱)۔ بڑا تغیر ہونا۔ زمانہ اٹ پلٹ ہو جانا۔ سخت مصیبت پڑنا۔  
 آسمان زمین کا فرق (۱)۔ محاورہ (۱)۔ بہت بڑا فرق۔  
 آسمان زمین کے قلابے ملانا (۱)۔ محاورہ (۱)۔ انتہا درجے کی کوشش کرنا۔  
 (۲)۔ بہت مجھوٹ بولنا۔ کب مارنا۔  
 آسمان زمین شوق کیوں نہیں ہو جاتے (۱)۔ نوزمرہ (قیامت کیوں نہیں آجاتی جب کو بڑا کام کرے تو اس وقت کہتے ہیں۔  
 آسمان زمین میں دھوم پڑنا (۱)۔ محاورہ (۱)۔ عام شہرت ہونا۔ دینا بھر میں مشہور ہونا۔  
 زمین آسمان میں ستا مچھا جانا۔ ہو جانا (۱)۔ محاورہ (۱)۔ ہر طرف خاموشی چھا جانا۔  
 بہتر گوش ہو جانا۔  
 آسمان زمین بلا دینا (۱)۔ محاورہ (۱)۔ چل ڈال دینا۔ طوفان برپا کر دینا۔  
 آسمان سر پر اٹھانا (۱)۔ محاورہ (۱)۔ بہت غل مچانا۔ شور مچانا۔ اودھم مچانا۔  
 آسمان سے آگ برسا (۱)۔ محاورہ (۱)۔ سخت گرمی پڑنا۔  
 آسمان سے اترنا (۱)۔ محاورہ (۱)۔ کسی چیز کا نہایت عمدہ ہونا (۲)۔ کوئی نیا مضمون زمین میں آنا۔  
 آسمان سے باتیں کرنا (۱)۔ نہایت بلند ہونا۔ (۲)۔ بہت مغرور ہونا۔  
 آسمان سے ٹھکر کھانا (۱)۔ بہت اونچا ہونا۔  
 آسمان سے ٹھکر لینا (۱)۔ محاورہ (۱)۔ بہت بلند ہونا۔ بہت بلند ہونا۔

آسمان سے گرا کھجور میں اٹکا (۱)۔ مثل (۱)۔ اونچی سرکار سے کام نکل گیا۔ مگر معمولی اہل کار کی مخالفت سے رک گیا۔ (۲)۔ ایک مصیبت سے چھوٹا دوسری میں جا پھنسا۔  
 آسمان سے گرتا (۱)۔ محاورہ (۱)۔ آسمان سے نیچے آنا (۲)۔ اونچے مرتبے سے گرتا۔  
 (۳)۔ مفت ہاتھ آنا۔ بے وقعت ہونا۔  
 آسمان قدر (ف۔ ص)۔ نہایت بلند مرتبہ۔ عالی جاہ۔ عالی پایہ۔ عالی شان۔  
 آسمان کا ٹھنکا اپنے منہ پر آیا ہے (۱)۔ مثل (۱)۔ کسی نیک آدمی پر بدی لگانے سے اپنے ہی اوپر بدنامی آتی ہے۔  
 آسمان کا رکھنا زمین کا (۱)۔ مثل (۱)۔ غارت کر دیا۔ برباد کر دیا۔ کہیں کا نہ رکھا۔  
 آسمان کا رنگ بدلنا (۱)۔ محاورہ (۱)۔ انقلاب آنا۔ حالات تبدیل ہونا۔  
 آسمان کھونچا (۱)۔ اونچی چیز (مزاحاً) لبا آدمی (۲)۔ ایک طرح کا حقہ جس کی نئے کو ٹھکر تک پہنچتی ہے۔  
 آسمان کھا گیا یا زمین (تکلی گئی) (۱)۔ مثل (۱)۔ خدا جانے کہاں غائب ہو گئی بہت تلاش کے بعد چیز کے نہ ملنے پر کہا جاتا ہے۔  
 آسمان کی باتیں (۱)۔ مثل (۱)۔ سمجھ میں نہ آنے والی باتیں۔  
 آسمان کی چیل زمین کی آسیر (۱)۔ مثل (۱)۔ بہت چالاک عورت۔ جو ایک جگہ نہ اٹھے اور دوسرے جگہ کام کرے۔  
 آسمان کی خیر لانا (۱)۔ محاورہ (۱)۔ بہت اونچا ہونا۔ بہت بلند پروازی کرنا۔  
 آسمان کی سوچنا (۱)۔ محاورہ (۱)۔ دور کی سوچنا۔  
 آسمان کی سیر کرنا (۱)۔ محاورہ (۱)۔ خیالات کا دور پہنچنا۔ عموماً اس وقت کہا جاتا ہے جب کوئی شخص نشے کی حالت میں ہو۔  
 آسمان کے تارے توڑنا (۱)۔ محاورہ (۱)۔ ناممکن اور دشوار کام کرنا۔ نہایت سخت اور مشکل بات میں کامیاب ہونا۔  
 آسمان میں تھگی لگانا (۱)۔ محاورہ (۱)۔ آسمان میں بیوند لگانا۔ جہاں کوئی نہ پہنچے وہاں پہنچنا (۲)۔ عیاری کرنا۔ چالاک کرنا۔  
 آسمان میں چھید کرنا (۱)۔ محاورہ (۱)۔ نہایت عیاری اور چالاک کرنا۔  
 آسمان میں چھید ہو جانا (۱)۔ محاورہ (۱)۔ لگاتار مینہ برسا۔ دھواں دھار مینہ پڑنا۔  
 پھاتوں مینہ پڑنا۔ موسلا دھار بارش ہونا۔  
 آسمان پھٹ پڑے (۱)۔ محاورہ (۱)۔ قیامت نہ آجائے۔ عذاب نازل نہ ہو جائے۔  
 بہت ظلم اور گناہ ہونے کے موقع پر کہا جاتا ہے۔  
 آسمان و زمین سیاہ ہو جاتا (۱)۔ محاورہ (۱)۔ حد سے زیادہ پریشانی اور غم ہونا۔  
 آسمان و زمین کے پردے میں نہیں (۱)۔ مثل (۱)۔ عناق ہے۔ کہیں پتہ نشان نہیں ہے۔  
 آسمان بلا دینا (۱)۔ محاورہ (۱)۔ آہ وزاری کا اثر ہونا۔ بہت زور سے چیخا چلانا۔  
 آسمانی (آ۔ س۔ ما۔ نی) (ف۔ ص) (۱)۔ آسمان کا۔ آسمان کی طرف منسوب (۲)۔ مثل آسمان نیلیوں۔ آبی۔ نیلا۔ بلکانیلا (۳)۔ ادری۔ بالائی (۴)۔ ناگمانی۔ اچانک۔ اتفاقاً (۵)۔ [مثلاً] بھنگ۔ شراب۔ تاشی۔ (۶)۔  
 بلندی (ق)۔  
 آسمانی آفت (ع۔ ا۔ ص)۔ آسمانی بلا۔ ناگمانی بلا۔ قہر خدا۔ وہ مصیبت جو خدا کی طرف سے ہو۔



کسی جگہ جم کر بیٹھنا (۲) ایک ہی بیٹھک سے بیٹھنا (۳) آلتی پالتی مار کر بیٹھنا چار زاویہ بیٹھنا (۴) گھوڑے پر جم کر بیٹھنا۔  
آسنی (آس۔ نی) [۱-۵]۔ مٹا گھاس کی بنی ہوئی چھوٹی چٹائی (۲) استنبی یا دوتی کپڑا جس پر بیٹھ کر عبادت کی جاتی ہے (۳) فقیروں کے بیٹھنے کا بستر۔

آسودگانِ خاک (آ۔ سو۔ و۔ گا۔ ن۔ خاک) [ف۔ ۱۔ نڈ] خاک میں آرام کرنے والے۔ اہل قبور۔ مرحومین۔

آسودگی (آ۔ سو۔ و۔ گی) [ف۔ ۱۔ ست] (۱) امن و امان چین۔ آرام۔ راحت (۲) دولت مندی۔ مرفہ الحالی۔ فارغ البالی۔

آسودہ (آ۔ سو۔ و۔ ہ) [ف۔ صف] (۱) آرام کرنے والا (۲) مطمئن (۳) خوشحال۔ دولت مند (۴) مدفون۔ مرحوم۔ جمع۔ آسودگان۔

آسودہ حال (ف۔ صف) خوش حال۔ مالدار۔ امیر۔

آسودہ خاطر۔ آسودہ حال (ف۔ صف) فارغ البال۔ بے فکر۔ بے غم۔ آسودہ ہو جانا (۱) محاورہ) پیٹ بھر جانا۔ سیر ہو جانا۔

آسودہ ہونا۔ دولت مند ہونا۔ فارغ البال ہونا۔

آسیا (آ۔ س۔ یا) [ف۔ ۱۔ مٹ] چلی۔ آٹا پینے کی کل۔

آسیاب (ف۔ ۱۔ مٹ) پانی سے چلنے والی چکی۔ پن چکی۔

آسیائے باد (ف۔ مٹ) ہوا سے چلنے والی چکی۔ پون چکی۔

آسیانہ (۱۔ مذ) وہ پتھر جس پر ہتھیار کی دھار تیز کی جاتی ہے۔ فسان۔ سان۔

آسیب (آ۔ سیب) [ف۔ ۱۰۔ نڈ] (۱) صدمہ (۲) نقصان (۳) خوف۔

آسیب (۲) ڈکھ۔ آزار۔ تکلیف۔ الم۔ مصیبت (۵) جن۔ پری۔ دیو۔ پریت۔ سیاہ۔

آسیب آنا (۱۔ محاورہ) (۱) صدمہ پہنچنا۔ آفت آنا۔ ضرر پہنچنا۔ چوٹ لگنا۔

آسیب (۲) جن بھوت کا ستانا۔

آسیب آنا (۱۔ محاورہ) جن اتارنا۔ بھوت بھگانا۔ منتر یا علم کے زور سے جن کو دفع کرنا۔

آسیب پہنچانا (۱۔ محاورہ) صدمہ دینا۔ نقصان پہنچانا۔ دکھ یا تکلیف دینا۔

آسیب پہنچنا۔ (۱۔ محاورہ) صدمہ پہنچنا۔ نقصان پہنچنا۔ تکلیف پہنچنا۔

آسیب زدہ (ف۔ صف) آسیب کا مارا ہوا بھوت۔ پریت۔ جن و پری کا ستایا ہوا۔

آسیب سر پر چڑھنا (۱۔ محاورہ) کسی پر جن بھوت کا اثر ہونا۔

آسیب سر سے اتارنا (۱۔ محاورہ) جن بھوت کا اثر زائل کرنا۔

آسیب کا اثر۔ آسیب کا نخل۔ آسیب کا دخل۔ جن بھوت کا اثر۔ پری کا سایہ۔

آسیب کا سر پر کھیلنا۔ عوام میں فائدہ ہے کہ جب آسیب کسی کا پیچھا نہیں چھوڑتا تو آسیب زدہ کے سامنے پھول اور خوشبو رکھ کر اور بخور۔ لگا کر گانا سنواتے ہیں۔ اس وقت آسیب زدہ خوب سر ہلانا ہے اور کھیلا اچھلتا ہے۔

آسیبی (آ۔ سے۔ بی) [ف۔ صف] وہ شخص جس پر آسیب ہو۔ آسیب زدہ۔

آسمانی پلانا۔ بھنگ یا تازی پلانا۔ نشر پلانا۔  
آسمانی تیز (۱) ہوائی تیز۔ وہ تیر جو آسمان کی طرف چھوڑتے ہیں (۲) بے فائدہ اور بے ہودہ کام۔ وہ کام جس کا نتیجہ کچھ اچھا نہ ہو۔

آسمانی دھکا۔ غیبی صدمہ۔ بلائے ناگہانی۔

آسمانی رنگ۔ آسمان کے رنگ کا۔ بیلارنگ۔ آبی رنگ۔ ہلایلا رنگ۔

آسمانی کتاب۔ کتاب الہی۔ وہ کتاب جو خدا تعالیٰ کی طرف سے پیغمبروں پر نازل ہوئی ہو۔ مراد تورات۔ زبور۔ انجیل اور قرآن۔

آسمانی گولا (۱) وہ صدمہ جس کا وقت معلوم نہ ہو۔ قہر الہی (۲) برف، اولے وغیرہ جن سے اچانک صدمہ پہنچے۔

آسن (آ۔ سن) [۱-۵۔ نڈ] (۱) بیٹھک (۲) بیٹھنے کی حالت (۳) ران کے نیچے کا حصہ (۴) ران چانگھ (۵) ڈبھ یا اون کی بنی ہوئی چیز مثل کبیل یا بستر جس پر ہندو لوگ پوجا پاٹ کرتے وقت بیٹھتے ہیں۔ جیسے بنا منڈ۔ لدا۔

مسند (۱) جگہوں کے بیٹھنے کا ڈھنگ۔ جوگیوں کی چوراسی بیٹھکیں (۲) سادھ اور وہ جگہ جہاں جوگی رہتے ہیں اور جوگ مارتے ہیں (۳) مباشرت کرنے کا طریقہ۔ جماع کی بیٹھک۔ وہ چھتیس طریقے جو کوک شاستر میں لکھے ہیں (۴) سوار کے بیٹھنے کا طریقہ۔ گھوڑے پر چبھنے کا ڈھنگ (۵) ہاتھی کی وہ جگہ جہاں سہاوت بیٹھتا ہے۔

آسن اکھڑنا (۱۔ محاورہ) سوار کا اپنی جگہ سے ٹل جانا۔ گھوڑے پر جمانا رہنا ران نہ جمانا۔

آسن باندھنا (۱۔ محاورہ) ران میں جکڑنا۔ رانوں میں کسنا۔ دونوں زانوؤں کے بیچ میں دبا لینا۔ زانوؤں میں بھینچنا۔ آسن لینا۔

آسن پانی (۱۔ مٹ) بیٹھنے کا بچھونا۔ جو ران اور گھاس کا بنا ہوتا ہے۔

آسن پانی لے کر پڑنا (۱۔ محاورہ) روکھ کر پڑ جانا۔ اٹوئی کھٹوئی لے کر پڑ جانا۔

آسن تلے آنا (۱۔ محاورہ) ران تلے آنا۔ سواری کے تلے آنا۔ سواری دینا (۲) جسم کا بوجھ اٹھانا (۳) اطاعت میں آنا۔ تابع ہونا۔ فرمانبرداری کرنا بس میں آنا۔ قابو میں آنا۔

آسن جلنا (۱۔ محاورہ) ایک طرح بیٹھے بیٹھے ران یا زانو میں گرمی پیدا ہو جانا۔

آسن جمانا (۱۔ محاورہ) گھوڑے پر جم کر بیٹھنا (۲) کسی جگہ قیام کرنا۔ رہنے لگنا (۳) قابو کرنا۔ قبضے میں لانا (۴) دیر تک ہم بستر رہنا۔

آسن جمانا (۱۔ محاورہ) ران جمانا۔ گھوڑے پر جم کر بیٹھنا۔

آسن جوڑنا۔ آسن سے آسن جوڑنا (۱۔ محاورہ) رانوں کے بل بیٹھنا۔ ران سے ران ملا کر بیٹھنا۔

آسن ڈگانا (۱۔ محاورہ) عبادت کی بیٹھک سے اٹھا دینا (۲) پیاسے دل اچاٹ کر دینا۔ نیت میں فرق ڈالنا۔

آسن لگانا (۱) جوگیوں کا اڑ کر بیٹھنا (۲) بستر جمانا۔ بسرام کرنا۔ رات گزارنا۔ رہنا۔ ٹھہرنا۔

آسن لینا (۱۔ محاورہ) اٹانگیں اٹھانا۔ جماع کرنے پر مستعد ہونا۔ رانوں میں دباننا۔

آسن (مارنا) مار کر بیٹھنا (۱۔ محاورہ) جوگیوں کا عبادت کے واسطے بیٹھنا

آسن (مارنا) مار کر بیٹھنا (۱۔ محاورہ) جوگیوں کا عبادت کے واسطے بیٹھنا

آسن (مارنا) مار کر بیٹھنا (۱۔ محاورہ) جوگیوں کا عبادت کے واسطے بیٹھنا

آسن (مارنا) مار کر بیٹھنا (۱۔ محاورہ) جوگیوں کا عبادت کے واسطے بیٹھنا

آسن (مارنا) مار کر بیٹھنا (۱۔ محاورہ) جوگیوں کا عبادت کے واسطے بیٹھنا

آسن (مارنا) مار کر بیٹھنا (۱۔ محاورہ) جوگیوں کا عبادت کے واسطے بیٹھنا

آسن (مارنا) مار کر بیٹھنا (۱۔ محاورہ) جوگیوں کا عبادت کے واسطے بیٹھنا

آسن (مارنا) مار کر بیٹھنا (۱۔ محاورہ) جوگیوں کا عبادت کے واسطے بیٹھنا

آسن (مارنا) مار کر بیٹھنا (۱۔ محاورہ) جوگیوں کا عبادت کے واسطے بیٹھنا

آسن (مارنا) مار کر بیٹھنا (۱۔ محاورہ) جوگیوں کا عبادت کے واسطے بیٹھنا

آسن (مارنا) مار کر بیٹھنا (۱۔ محاورہ) جوگیوں کا عبادت کے واسطے بیٹھنا

آسن (مارنا) مار کر بیٹھنا (۱۔ محاورہ) جوگیوں کا عبادت کے واسطے بیٹھنا

آسن (مارنا) مار کر بیٹھنا (۱۔ محاورہ) جوگیوں کا عبادت کے واسطے بیٹھنا

آسن (مارنا) مار کر بیٹھنا (۱۔ محاورہ) جوگیوں کا عبادت کے واسطے بیٹھنا

آسن (مارنا) مار کر بیٹھنا (۱۔ محاورہ) جوگیوں کا عبادت کے واسطے بیٹھنا

آسن (مارنا) مار کر بیٹھنا (۱۔ محاورہ) جوگیوں کا عبادت کے واسطے بیٹھنا



آسیبی مکان۔ وہ مکان جس میں بھوت پریت وغیرہ کا گزر ہو۔  
آسیب (آس۔ یب۔ اذع۔ ا) مذ [ فرعون کی بیوی جو حضرت موسیٰ پر  
ایمان لے آئی تھیں۔

## آش

آش [ف۔ ا۔ مٹ] حریرہ۔ شوربا۔ چلی غذا۔  
آش پکانا (۱۔ محاورہ) (۱۱) شوربا پکانا (۲) کسی کے خلاف سازش کرنا۔  
۱۳۱ ٹھیک بنانا۔ درست کرنا۔ پختن نکالنا۔

آش پلاؤ [ف۔ ا۔ مذ] ایک قسم کا جو کاپلا و سوجو مرض کو دیا جاتا ہے۔  
آش جو (ف۔ ا۔ مذ) جو کا جوش دیا ہوا پانی۔  
آشا (آ۔ شا) [س۔ ا۔ مٹ] امید۔ آرزو۔ تمنا۔ خواہش۔

آشام (آ۔ شام) [ف۔ ص] اپنے والا۔ مرکبات میں بطور لاحق استعمال  
ہوتا ہے جیسے خون آشام  
آشمنی (آش۔ تی) [ف۔ ا۔ مٹ] صلح۔ دوستی۔ اتفاق۔ میل۔ ملاپ۔

آشرم (آش۔ رم) [س۔ ا۔ مذ] (۱) ریشیوں اور سادھوؤں کے رہنے کی جگہ  
مذہبی۔ مٹھ۔ مکان۔ (۲) جھونپڑی جو کسی خوشی کے موقع پر بنائی جاتی ہے (۳)  
مدد۔ سکول۔ کالج۔ (۴) جنگل۔ درختوں کا جھنڈا (۵) برہمن کی زندگی  
کا ایک حصہ۔

آشفتگی (آ۔ شفت۔ ت۔ گی) [ف۔ ا۔ مٹ] (۱) پریشانی۔ پرانگندگی (۲)  
حیرانی۔ (۳) دیوانہ پن۔

آشفتہ (آ۔ شفت۔ تہ) [ف۔ ص] پریشان۔ ہراسیمہ۔ پرانگندہ۔ بدحواس  
جمع: آشفتگان۔

آشفتہ بیان (ف۔ ص) بارہ گو۔ فضول باتیں کرنے والا۔  
آشفتہ بیانی۔ بارہ گوئی۔ بگواس۔

آشفتہ حال۔ آشفتہ دل۔ آشفتہ خاطر (ف۔ ا۔ مذ) پریشان حال  
خراب۔ حسہ (کنایتاً) عاشق۔

آشفتہ حالی (ف۔ ا۔ مٹ) پریشان حالی۔ پرانگندگی۔  
آشفتہ سہراف۔ صفت سہری۔ سوداگی۔ دیوانہ۔ پاگل۔

آشفتہ سہری (ف۔ ا۔ مٹ) دیوانگی۔ جنون۔ پاگل پن۔  
آشفتہ طبع۔ آشفتہ مزاج (ف۔ ص) پریشان خاطر۔

آشفتہ موائف۔ صفت (۱) جس کے بال بکھرے ہوئے ہوں (۲)  
فلکیں پریشان حال۔

آشفتہ نوائف۔ صفت جس کی آواز سے پریشانی کا اظہار  
ہوتا ہو۔

آشفتہ نوائی (ف۔ ا۔ مٹ) پریشان کردینے والا۔ تالہ و فریاد۔ پریشانی  
کا اظہار۔

آشکار۔ آشکارا (آش۔ کار) (آش۔ کا۔ را) [ف۔ ص] ظاہر بنایا  
کھلا ہوا۔ واضح۔ فاش۔  
آشکارا کرنا (۱) ظاہر کرنا۔ پردہ اٹھانا۔ بے حجاب کرنا۔

آشکارا ہونا۔ کھلنا۔ ظاہر ہونا۔ فاش ہونا۔  
آشمال (آش۔ مال) [ف۔ ا۔ مذ] (۱) نوکر چاکر۔ خدمت کار۔ ملازم  
(۲) کمینہ۔ نالائق۔ (ق)

آشنا (آش۔ نا) [ف۔ ص] (۱) واقف کار۔  
شنا (۲) جان پہچان والا۔ ملاقاتی (۳) غیر مرد یا عورت جو  
ایک دوسرے سے ناجائز تعلق رکھے۔ جمع۔ آشنایان۔

آشنا پرست (ف۔ ص) (۱) دوست کو پوجنے والا (۲) یار کی  
قدر کرنے والا۔ سچا دوست۔

آشنا ہو جانا (۱) محاورہ واقف ہو جانا۔ مایوس ہو جانا۔ دوست  
بن جانا۔

آشنائی (آش۔ نا۔ ای) [ف۔ ا۔ مٹ] (۱) شناسائی۔ ملاقات (۲)  
دوستی۔ محبت (۳) مرد و عورت کا ناجائز تعلق۔

آشنائی چھوٹنا (۱) محاورہ ملاقات ترک ہونا۔  
آشنائی کا چھوٹنا (۱) صفت (جھوٹی دوستی کرنے والا۔ بناہ نہ کر سکنے والا  
سینے دینا۔

آشنائی کا سچا (۱) صفت دوستی میں پورا۔ وہ شخص جو دوستی بناہ سکے۔  
آشنائی کرنا (۱) محاورہ (۱) دوستی کرنا (۲) آنکھ لٹانا۔

آشنائی ملانا سبق (۱) مثل (۱) ملاکی دوستی سبب تک ہے۔ مطلب پرست  
اور خود غرض کے متعلق کہتے ہیں۔

آشنائی بنا ہونا (۱) محاورہ دوستی اور محبت میں وفادار رہنا۔  
آشنائی بھننا (۱) محاورہ محبت قائم رہنا۔

آشوب (آ۔ شوب) [ف۔ ا۔ مذ] (۱) ابل جلی۔ فتنہ و فساد۔ پریشانی  
شور۔ غوغا (۲) بکھیر۔ طوفان۔ عذر۔ بلوہ (۳) آنکھ دکھنا۔

آشوب الہی (ف۔ ا۔ مذ) دنیا کی فکریں۔  
آشوب اٹھانا (۱) محاورہ فتنہ و فساد برپا کرنا۔

آشوب چشم (ف۔ ا۔ مذ) آنکھ دکھنا۔  
آشوب زمانہ (روزگار، زمانہ، عالم، زمانے کی پل) زمانے کا فتنہ۔  
شور۔ خمر۔ ہنگامہ (۲) کنایتاً مشتوق۔

آشوب گاہ (ف۔ ا۔ مٹ) فتنہ و فساد کا مقام۔

آشوب محشر (ف۔ ع۔ ا۔ مذ) ہنگامہ قیامت (۲) بہت زیادہ شور و ہنگامہ۔  
آشوبیدہ (آ۔ شوبی۔ دہ) [ف۔ ص] پریشان۔ حیران۔

آشیاں (آش۔ یاں) [ف۔ ا۔ مذ] گھونسلہ۔ نشیمن۔  
آشیاں اٹھانا (۱) محاورہ گھونسلہ چھوڑنا۔ (۲) جگہ تبدیل کرنا۔

آشیاں بانڈھنا (۱) محاورہ (۱) آشیاں بنانا۔ آشیاں کرنا۔  
لگانا۔ گھونسلہ بنانا۔

آشیاں (آش۔ یا۔ نہ) [ف۔ ا۔ مذ] آشیاں۔ گھونسلہ۔  
آشیر باد (آ۔ شیر۔ باد) [ف۔ ا۔ مٹ] دماغے خیر۔



آصَف (آ۔ صَف) (عبرانی۔ ۱۔ نذ) ۱۱ حضرت سلیمان کے وزیر کا نام  
 (۱۲) مجازاً ہر لائق وزیر (۱۳) جمع کرنا۔ ضبط کرنا۔  
 آصَف الدولہ (ع۔ ۱۔ نذ) اودھ کے ایک ادب نواز اور فیاض  
 حکمران کا نام۔  
 آصَف جادو (ن۔ ۱۰۔ نذ) آصف کے مرتبے والا (۲۱) بعض امراء کا لقب  
 آصَف خانی۔ ایک قسم کا شلو کہ یا واسٹ۔  
 آصَفی۔ آصَفیہ (آ۔ ص۔ نی) (آ۔ ص۔ نی۔ یہ) آف۔ صَف [آصف  
 کی طرف منسوب۔

پھیلی ہوئی گود۔  
 آغوشِ کشتائی۔ گود پھیلنا۔ گود پھیلانا۔  
 آغوشِ کھولنا (۱۔ محاورہ) گود پھیلانا۔  
 آغوشِ گرم کرنا (۱۔ محاورہ) (۱۱) گود میں آنا (۲۱) پیار سے گود میں لینا۔  
 آغوشِ لبریز ہونا (۱۔ محاورہ) گود کا بھرا ہونا۔  
 آغوشِ لحد میں ہونا (۱۔ محاورہ) مرجانا۔ قبر میں دفن ہونا۔  
 آغوشِ مادر میں سونا (۱۔ محاورہ) (۱۱) ماں کی گود میں سونا (۲۱) آرام اور  
 چین کی حالت میں سونا۔  
 آغوشِ میں آنا (۱۔ محاورہ) گود میں آنا۔ ہم کنار ہونا۔  
 آغوشِ میں رہنا (۱۔ محاورہ) پہلو میں رہنا (۲) پاس رہنا۔  
 آغوشِ میں لینا (۱۔ محاورہ) محبت سے بغل میں لینا۔ شوق سے نگیں ہونا۔  
 آغوشِ وا ہونا (۱۔ محاورہ) گود کھلنا۔  
 آغوشوں (آ۔ غوش) (ن۔ ۱۔ مٹ) دودھ پیتے بچے کی آواز۔  
 آغوشِ غمٹے، دودھ پی کر میاں ہوئے غمٹے (۱۔ محاورہ) دودھ پلانے  
 والی اناجوں کو یہ کلمہ کہہ کر کھلاتی بہلاتی اور دودھ پلاتی ہیں۔  
 آغوشوں کرنا۔ دودھ پیتے بچے کا آواز نکالنا۔

## آ۔ غ

آغا (آ۔ غا) (ت۔ ۱۔ نذ) (۱۱) آقا۔ صاحب۔ مالک۔ خداوند (۲)  
 بڑا بھائی (۳) کالیوں اور مغلوں کا خطاب۔  
 آغامیر کی دانی سب سیکھی سکھائی (۱)۔ مثل اس عورت کے متعلق  
 کہتے ہیں جو سب گنوں پوری ہو۔ نہایت چالاک اور عیار۔  
 آغامینا (۱)۔ مٹ (۱) بنگالہ کی مینا جس کے منہ سے آغا بہت صاف  
 نکلتے ہیں (۲) وہ بڑی جو پیاری پیاری باتیں کرے۔ (۳) خوش آواز  
 خوش گلو۔

## آ۔ ف

آفات (آ۔ فآ) (ع۔ ۱۔ مٹ) آفت کی جمع۔ مصیبتیں۔  
 آفات (آسمانی) (سماوی)۔ آسمانی حادثات۔ غضب کی آمدھی۔ طوفانی  
 بارش۔ بجلی۔ اوسے۔ پالا۔ بر فباری وغیرہ۔  
 آفات ارضی (ع۔ ف۔ مٹ) زمین سے پیدا ہونے والی مصیبتیں۔ مثلاً  
 سیلاب۔ آتش فشاں وغیرہ۔  
 آفاق (آ۔ فاق) (ع۔ ۱۔ نذ) (۱۱) افق کی جمع۔ آسمان کے کنارے (۲) عالم  
 سنار۔ جگ۔ دنیا۔ جہان (اردو میں واحد مستعمل ہے) افق  
 آفاق گیراع۔ ف۔ صَف (ع۔ ۱۔ نذ) (۱۱) عالمگیر۔ دنیا کو فتح کرنے والا  
 (۲) دنیا پر چھا جانے والا۔  
 آفانی (آ۔ فآ) (ع۔ صَف) ساری دنیا کا۔ عالمگیر۔  
 آفت (آ۔ فآ) (ع۔ ۱۔ مٹ) (۱۱) ٹکھ۔ مصیبت۔ بلا۔ (۲) فتنہ۔ ظلم۔  
 ستم (۳) مشکل (۴) غضب (۵) لہی۔ دبا۔ قحط وغیرہ (۵) نانا انصافی۔ زبردستی۔  
 (۶) ناگوار طبع (۷) شور۔ غوغا۔ فتنہ (۸) شوب (۸) غتاب۔ غصہ (۹) [صفا]  
 شوخ۔ چالاک۔ عیار۔ فتنہ انگیز۔ جمع۔ آفات۔  
 آفت آنا (۱۔ محاورہ) (۱۱) مصیبت پڑنا (۲) وبا پھیلنا۔ قحط آنا۔  
 آفت اٹھانا (۱۔ محاورہ) (۱۱) مصیبت جھیلنا۔ تکلیف برداشت کرنا (۲) غل  
 کرنا۔ فساد برپا کرنا۔  
 آفت پڑنا (۱۔ محاورہ) (۱۱) قہر نازل ہونا۔ مصیبت آنا۔ (۲) صدمہ پہنچنا۔  
 آفت توڑنا (۱۔ محاورہ) (۱۱) غصے ہونا۔ (۲) ظلم کرنا۔ غضب ڈھانا  
 آفت طالنا (۱۔ محاورہ) (۱۱) مصیبت سے بچانا۔ مشکل آسان کرنا۔  
 آفت تلنا (۱۔ محاورہ) (۱۱) مصیبت دُور ہونا۔

آغاز (آ۔ غا۔ ز) (ع۔ ۱۔ نذ) شروع۔ ابتدا۔ عنوان۔  
 آغاز انجام جاننا (۱۔ محاورہ) اول و آخر کا علم ہونا۔  
 آغاز انجام نہ سوچنا (۱۔ محاورہ) آگاہی نہ دیکھنا۔ بے سوچے سمجھے کام  
 کر بیٹھنا۔ نتیجہ کا خیال نہ رکھنا۔  
 آغاز بد کا انجام بد ہے (۱)۔ مثل جس کام کی ابتدا بُری ہو اس کی انتہا  
 بھی بُری ہوتی ہے۔  
 آغاز کار۔ آف۔ ۱۔ نذ کسی کام کی ابتداء۔ شروع۔  
 آغاز کرنا۔ شروع کرنا۔ ابتداء کرنا۔ پہل کرنا۔  
 آغائی (آ۔ غا۔ کن) (ع۔ ۱۔ نذ) وہ باجا جو ہاتھ سے بجایا جائے۔ مثلاً  
 جنگ وریاب وغیرہ۔  
 آغشہ (آ۔ غش۔ نذ) آف [صَف] ترکیا ہوا۔ آلودہ۔  
 آغشہ خوں آف [صَف] خون میں نظر ہوا۔ خون میں ڈوبا ہوا۔ ناکام  
 آغوشِ آرزو۔ غوش [آف]۔ ۱۔ نذ مٹا گود۔ بغل۔ کنارہ۔  
 آغوشِ اباد کرنا (۱۔ محاورہ) گود میں آنا۔ گود گرم کرنا۔  
 آغوشِ اباد ہونا (۱۔ محاورہ) گود گرم ہونا۔ محبوب بغل میں ہونا۔  
 آغوشِ بھرنا (۱۔ محاورہ) گود میں بھر پور آنا۔ عورت کا اولاد والی ہونا۔  
 آغوشِ پھیلانا (۱۔ محاورہ) گود میں لینے کو بڑھنا۔  
 آغوشِ خالی کرنا (۱۔ محاورہ) (۱۱) گود سے نکل جانا (۲) کنارہ کستی کرنا۔  
 آغوشِ خالی ہونا (۱۔ محاورہ) کسی کا گود سے نکل جانا (۲) بچہ مرجانا۔  
 آغوشِ کا پروردہ۔ گود کا پالا۔ گودوں میں پرورش کیا ہوا۔ اولاد۔ فتنہ  
 آغوش (کشادہ) (کشودہ) [بغیر اضافت] گود پھیلانے ہوئے (۲) [باضا] (۱)



بہت بڑھ جانا۔

آفتاب غروب ہونا (۱- محاورہ) سورج ڈوبنا۔ شام ہونا۔  
آفتاب کا مغرب سے نکلنا (۱- محاورہ) مسلمانوں کا اعتقاد ہے کہ  
قیامت کے قریب آفتاب مغرب سے طلوع ہوگا۔ قریب قیامت  
قیامت آنا۔

آفتاب کو (چرخ) دیا دکھانا (۱- محاورہ) تجربہ کار آدمی کو کام کے  
ڈھنگ بتانا۔ قابل کے سامنے ناقابل کا سخی بگھارنا۔

آفتاب لب بام (۱) قریب غروب آفتاب (۲) نہایت بڑھا۔  
آفتاب محشر (۱) قیامت کے دن کا سورج۔ وہ سورج جو اہل اسلام  
کے اعتقاد میں قیامت کے دن سوا نیزہ پر ہوگا (۲) نہایت گرم۔  
تیز سورج (۳) معشوق۔ نہایت حسین خوبصورت۔

آفتاب نصف النہار پر ہونا (۱- محاورہ) دوپہر ہونا (۲) اوج کمال  
پر ہونا۔

آفتاب (آف۔ تا۔ بہ) [ف۔ ا۔ نذ] ڈھکنے دار اور دستہ گا ہوا لوط۔  
آفتاب لے کر کھڑے ہونا (۱- محاورہ) منہ ہاتھ دھلانے کے واسطے پانی  
لے کر کھڑا ہونا (۲) غلام ہنا۔ خدمت گار بننا۔

آفتابی (آف۔ تا۔ بی) [ف۔ ص] (۱) آفتاب سے منسوب (۲) وہ چیز  
جو دھوپ میں خشک ہوتی ہو۔ (۳) گول۔ مدور (۴) چمک دار (۵) امٹا  
ایک قسم کی آتش بازی۔

آفتابی حمرہ (ف۔ ا۔ نذ) گول چمبو۔  
آفتابی دائرہ۔ بالکل گول دائرہ (دائرے کی دو قسمیں ہیں۔ آفتابی اور بیضوی  
بیضوی دائرہ اندرے کی شکل کا ہوتا ہے۔)

آفتابی گلقد (ف۔ ا۔ نذ) وہ گلقد جسے دھوپ میں رکھ کر تیار کیا گیا ہو۔  
آفرید گار (آف۔ رید۔ گار) [ف۔ ص] پیدا کرنے والا خالق۔  
آفریدگان (آف۔ رید۔ گان) [ف۔ ص] آفریدہ کی جمع۔ پیدا کیے ہوئے  
مخلوق۔

آفریدہ (آف۔ ری۔ رہ) [ف۔ ص] پیدا کیا ہوا مخلوق۔  
آفریدی (آف۔ ری۔ دی) [ف۔ ا۔ نذ] پٹھانوں کی ایک قوم۔  
آفریق (آف۔ ری۔ ق) [ف۔ ا۔ نذ] [مٹ] شاباش۔ کلمہ تحسین و مبارک باد۔  
واہ وا۔ مرجا۔ کیا کہنا۔

آفریق باد برس ہمت مردانہ تو (ف۔ مقولہ) تیری مردانہ ہمت پر  
شاباش تیرے  
آفریق صد آفریق (کلمہ تحسین) واہ وا پر واہ وا۔ صد رحمت مدح و ذم  
دونوں کے لیے۔

آفریق کرنا (۱- محاورہ) شاباشی دینا۔ واہ وا کرنا۔ تحسین متاثر کرنا ہر بہنا  
آفریق سے۔ کیا کہنا ہے۔ شاباش ہے۔ طنزاً بھی کہتے ہیں۔  
آفریقش (آف۔ ری۔ قش) [ف۔ ا۔ نذ] [مٹ] پیدا تیش۔ مخلوق۔ دنیا۔  
آفرینندہ (آف۔ ری۔ نذ۔ دہ) [ف۔ ص] پیدا کرنے والا (مراد  
خداوند تعالیٰ)

آفس (Office) (آ۔ آ۔ فس) [ف۔ ا۔ نذ] (۱) دفتر (۲) فرض منصبی

آفت لوبنا (۱- محاورہ) مصیبت پڑنا۔ صدمہ یا بلا نازل ہونا (۲) جھگڑا ہونا۔  
آفت جان اع۔ ف۔ ص (جان کاروگ۔ بلا سے جان (۲) مجانا) معشوق۔  
آفت جان پر لینا (۱- محاورہ) دکھ سہنا۔ مصیبت اٹھانا۔

آفت جھیلنا (۱- محاورہ) مصیبت برداشت کرنا۔ صدمہ سہنا۔  
آفت خیر اف۔ ص (آفت برپا کرنے والا۔ فساد اٹھانے والا۔  
آفت ڈالنا (۱- محاورہ) بلا نازل کرنا۔ مصیبت ڈالنا۔

آفت ڈھانا (۱- محاورہ) (۱) قیامت ہرپا کرنا (۲) ستم توڑنا (۳) ہنگامہ  
کرنا۔ شور کرنا۔

آفت رسیدہ (ف۔ ص) مصیبت زدہ۔ دکھیا۔

آفت سر پر لینا (۱- محاورہ) مصیبت اپنے ذمے لینا۔ جھگڑا مول لینا۔  
جھگڑے پتیں پڑنا۔

آفت سہنا۔ مصیبت سہارنا۔ دکھ برداشت کرنا۔

آفت کا پر کالا (ع۔ ف۔ ص) شوخ و شنگ۔ طرار (۳) شہ پر عیار  
مجازاً معشوق۔

آفت کا کھڑا (۱- محاورہ) غضب کا پتلا۔ بدذات۔ شہ پر۔ عیار  
آفت کا مارا (۱- محاورہ) ستم زدہ۔ مصیبت کا شکار۔

آفت کی (تابع۔ فعل) انتہا درجہ کی۔ بہت زیادہ۔ بے حد۔

آفت کی (پٹیا) پوٹ (۱- مٹ) عیار۔ دغا باز۔ شہ پر۔ چالاک  
آفت مچانا (۱- محاورہ) غل مچانا (۲) غضب ڈھانا۔ (۳) ڈنگا کرنا۔

آفت میں پھنسا (۱- محاورہ) غضب میں آنا۔ مصیبت میں پھنسا۔

آفت میں جان آنا (۱- محاورہ) بہت مشکل درپیش آنا۔ بہت مصیبت ہونا

آفت میں مبتلا ہونا (۱- محاورہ) رنج و غم میں مبتلا ہونا۔ بلاؤں میں گھرنے۔  
عذاب میں پڑنا۔

آفت ہے (۱- محاورہ) غضب ہے۔ قیامت ہے۔ بڑا چالاک اور عیار  
ہے۔ نہایت شہ پر اور فتنہ انگیز ہے۔ بڑا ذہین ہے۔

آفتاب (آف۔ تاب) [ف۔ ا۔ نذ] (۱) سورج (۲) دھوپ (۳) شراب کا  
پیالہ (۴) گنجھ کا ایک پتہ (۵) کنایتاً [یکتا سے زمانہ۔ لاجواب جس کا  
ثانی نہ ہو۔ معشوق۔

آفتاب آمد دلیل آفتاب (ف۔ مٹ) ظاہریات کے ثبوت کی ضرورت نہیں  
آفتاب برآمد ہونا (۱- محاورہ) سورج کا نکلنا۔ صبح ہونا۔

آفتاب برسر دیوار (ف۔ محاورہ) زوال کے بڑھایا۔  
آفتاب بنا دینا (۱- محاورہ) درجہ بلند کرنا۔ مرتبہ اونچا کرنا۔

آفتاب پرست (ف۔ ص) (۱) آفتاب کی پرستش کرنے والا (۲) ہیلو فرکا  
پھول (۳) گرگٹ (۴) سورج مکھی۔

آفتاب ڈھلنا (۱- محاورہ) سورج کا وسط آسمان سے مغرب کی طرف  
جھکنا۔ دن کا زوال شروع ہونا۔

آفتاب سر سر آنا (۱- محاورہ) دوپہر ہونا۔ بارہ بجے کا وقت ہونا۔

آفتاب سر کوہ (۱) ڈوبنے کے قریب آفتاب (۲) کنایتاً [مٹ] مرنے کے  
قریب۔

آفتاب سوا نیزہ سے پر آنا (۱- محاورہ) (۱) قیامت آنا۔ دھوپ کی تیزی



مخصوص کام یا خدمت ۱۳۱ عہدہ - منصب -  
 آفندی (آ. فن. دی ات ۱۰- مذ) صاحب بزرگ - محترم - مالک - عثمانی  
 دور میں ترکی میں چھوٹے افسروں کا لقب -  
 آفیسر (Officer) (آ. فی. سر) (انگ. ۱- مذ) (۱۱) افسر - حاکم -  
 عہدہ دار (۲) اہل کار - عامل -  
 آفیشل (Official) (آ. فی. شل) (انگ. صف) (۱۱) سرکاری - دفتری  
 محکمہ دار (۲) اہل کارانہ (۳) باضابطہ - مستند (مذ) عہدیدار - منصب دار

# آگ

# آق

آقا (آ. تا) (ت. آ. ذ) (۱۱) مالک - خداوند - صاحب (۲) خاوند -  
 شوہر (۳) حاکم - افسر - جمع - آقباں -  
 آقائے ولی نعمت - خداوند نعمت - سرکار -  
 آقاسی (آ. ق. سی) (ت. آ. ذ) (۱۰- مذ) دیوان خانہ کا دروغہ -

# آگ

آگ (۱- ۵- مذ) ایک پودے کا نام جسے مدار اور اکوا بھی کہتے ہیں -  
 آگ کی بڑھیا (۱- مٹ) (۱۱) وہ زوی جو آگ کے ڈوڑوں میں سے  
 نکلتی ہے (۲) بہت بوڑھی عورت -  
 آگا (آ. آ. گ) (ت. آ. ذ) (۱۱) بڑا بھائی (۲) کلمہ خطاب - میاں صاحب  
 وغیرہ کی جگہ -  
 آگا بھائی - ادب اور پیار سے بڑے بھائی کو کہتے ہیں -  
 آگ کار (آ. کار) (س. آ. س) (۱- مذ) (۱۱) روپ - صورت (۲) ذیل ڈول -  
 آگاس - آگاس (س. آ. س) (۱- مذ) آسمان - خلا - حدنگاہ -  
 آگاس بیل (۱- ۵- مٹ) (۱۱) ایک زرد رنگ کی دھاگے کی طرح بیل جو  
 درختوں سے چمٹ جاتی ہے اور اپنی خوراک حاصل کرتی ہے - اس کی  
 جڑ نہیں ہوتی - امریل - افیتیموں -  
 آگاش آرگن کولا (س. آ. س) (۱- مذ) شہاب ثاقب - ٹوٹنے والا تارہ -  
 آگاش باقی (س. آ. س) (۱- مٹ) افسی آواز - خدا کی طرف کی آواز - الہام - مکاشفہ  
 القلوب (۲) ریڈیو -  
 آگاش پھل - اولاد - بیٹا - بیٹی -  
 آگاش چوٹی - سمت الہام - سر کی سیدھ -  
 آگاش دیا - وہ چراغ جو کاتک میں ہندو قدیل میں رکھ کر اور اونچے بانس  
 کے سرے پر باندھ کر جلاتے ہیں  
 آگس فورڈ (Oxford) (انگ) انگلستان کا ایک شہر جس میں اسی نام  
 کی ایک یونیورسٹی ہے -  
 آگسن (Oxon) (انگ. صف) آگس فورڈ یونیورسٹی سے نسبت رکھنے  
 والا - آگس فورڈ کا طالب علم -  
 آکسیجن (Oxygen) (آگ. سی. جن) (انگ. ۱- مٹ) (۱۱) آگ کے

اور بے ذائقگیں جو زندگی کے لیے ضروری ہے -  
 آگ (۱- کل) (کل) (ع. صف) کھلنے والا - جمع - آگین -  
 آگ (۱- ۵- مذ) (۱۱) شکر کی پھوٹ (۲) درندوں کے رہنے کی جگہ -  
 آگ (آ. کھر) (۱- ۵- مٹ) (۱۱) چوپایوں کے رہنے کی جگہ - شیر کا مسکن  
 آگ (آ. کھ) (لا. پن) (۱- ۵- مذ) (۱۱) گھوڑے کی کود پھاند (۲) شوخ  
 شرارت -

آگ (۱- ۵- مٹ) (۱۱) آتش (۲) جلن - تپ - گرمی (۳) کام کا شوق یا  
 جذبہ (۴) پریم - محبت (۵) دشمنی (۶) شہوت (۷) آتشک - پیاس (۸) دشمن  
 شوق - اشتیاق - (۹) آنت - مصیبت - جھوٹ - خفگی (۱۰) کھولتا ہوا گرم  
 جلتا ہوا (۱۱) مزاج گرم (۱۲) سرخ - دہکتا ہوا - انکارا - نہایت گرم (۱۳)  
 تیز مزاج - (۱۴) نہایت گراں - جرم ہوا - (۱۵) حسد - عداوت -  
 آگ اکھانا (۱- محاورہ) جھگڑا اٹھانا - لڑائی کھڑی کرنا -  
 آگ اور بیری کو کم نہ سمجھے (۱- مثل) تھوڑی آگ اور کمزور دشمن کو بھی  
 حفر نہ سمجھنا چاہیے -

آگ اور پھوس میں بڑے (۱- مثل) آگ اور پھوس اکٹھے ہوں تو جلے  
 بغیر نہیں رہتے - اس طرح جوان عورت اور مرد ایک جگہ رہ کر پاکدامن  
 نہیں رہ سکتے  
 آگ اور روٹی کی کیا دوستی (۱- مثل) دو جانی دشمنوں کا ملاپ نہیں  
 ہو سکتا -

آگ بگولا (۱- صف) (۱۱) دیکتا ہوا - لال سرخ - دیکھے آگ بگولا -  
 آگ بچھانا (۱۱) آگ ٹھنڈی کرنا - آگ پر پانی ڈالنا (۲) فساد یا جھگڑا مٹانا -  
 (۳) خواہش پوری کرنا (۴) رشک - جلن - حسد نکالنا - دشمنی نکالنا (۵)  
 تشنگی رفع کرنا - پیاس بچھانا (۶) بھوک مٹانا - سیر ہونا - پیٹ بھرنا -  
 آگ بچھنا (۱) آگ ٹھنڈی ہونا - بچھانا - (۲) فساد یا جھگڑے کا مٹنا - غصہ اترنا  
 (۳) بھل مٹنا - شہوت مٹانا (۴) رشک یا حسد کا پورا ہونا (۵) پیاس بچھنا  
 بھوک رفع ہونا (۶) سیر ہونا - پیٹ بھرنا (۷) رسوائی مٹنا - بدنامی دور  
 ہونا (۸) سوزش اور جلن کا مٹنا -

آگ بتانا (۱- محاورہ) آگ دکھانا - توپ بندوق داغنا -  
 آگ برسانا (۱) آتش بازی چھوڑنا (۲) شدت کی گرمی پہنچانا (۳) گولہ باری  
 کرنا - گولے اور گولیوں کی بوچھاڑ کرنا - گولے مارنا (۴) باہم نفاق ڈالنا -  
 آگ برسانا (۱) نہایت تیز گرمی پہنچانا (۲) سخت گولہ باری ہونا -  
 آگ بگولا (۱- صف) (۱۱) جلتا - بھٹتا - دہکتا ہوا - لال سرخ - غصہ میں بھرا ہوا  
 آگ بگولا ہو جانا (ہونا) (۱) بہت غصے میں آنا - غضب ناک ہونا -  
 آگ بتانا (۱- محاورہ) آگ جلاتا - آگ سلگانا (۲) غصہ دلانا - برافروختہ  
 کرنا - بھرکانا -  
 آگ بن دھواں کہاں (۱- مثل) ہر بات کی کوئی نہ کوئی وجہ ہوتی ہے  
 آگ (۱- ۵- مذ) (۱۱) آگ (۱- مٹ) (۱۱) بھڑک اٹھنا -



آگ (دبنا) دبانا (۱- محاورہ) انگاروں کو رکھ دغیرہ سے پھپھا دینا (۳) فتنہ  
 فساد مٹانا۔ غصہ دور کرنا۔  
 آگ دکھانا (۱- محاورہ) آگ لگانا۔ فیلینہ دینا۔ سننا لگانا۔  
 آگ دوڑنا (۱- محاورہ) آگ کا پھیلنا (۲) شورش پھیلنا۔  
 آگ دھونا (۱- محاورہ) آگ سے راکھ دور کرنا۔  
 آگ دینا (۱- محاورہ) جلانا۔ آگ لگانا (۲) مٹانا (۳) چٹامیں آگ دینا۔  
 آگ سرد ہونا (۱- محاورہ) آگ بجھنا (۲) فساد مٹنا (۳) شوق نہ رہنا۔  
 آگ سلگانا (۱- محاورہ) آگ مدشن کرنا (۲) لگائی بجھائی کرنا۔  
 آگ سلگنا (۱) آگ جلنا۔ آگ سے دھواں نکلنا۔ سوزہ عشق ہونا۔ جلن ہونا۔  
 آگ سے پانی ہوجانا (۱- محاورہ) غصہ دور ہوجانا۔ خفگی جاتی رہنا۔  
 آگ کا بلغ (۱- مذ) آگ سناڑ کا آتش دان (۲) آتش بازی (۳) آتش فرود  
 جو حضرت ابراہیم کے لیے بلغ بن گئی تھی۔  
 آگ کا بتا ہوا (۱- محاورہ) نہایت تند خو۔ بہت گرم مزاج۔  
 آگ ستلا (۱- مذ) آگ کا بتا ہوا۔ گرم مزاج۔ آتش کا پرکالہ۔  
 آگ کا تپلا آگ کو دھائے (۱- مثل) ہر چیز اپنی اصل کو جاتی ہے۔  
 آگ کا پتنگا (۱- مذ) شہزادہ۔ چنگاری۔ جلتا ہوا گولہ۔  
 آگ کا پرکالہ (۱) آگ کا پتلا۔ انگاما (۲) (کنایت) معشوق۔  
 آگ کا جلا آگ ہی سے اچھا ہوتا ہے (۱- مثل) آگ کے جلے کو سینکنا  
 مفید نہیں ہے۔ علاج بالمثل (۲) جس نے دکھ دیا اسی سے آرام ملتا ہے۔  
 آگ کا کھیل (۱) آتش بازی۔ پکانے ریندھنے کا کام (۳) کیمیاگری۔  
 آگ جلانا (۱- محاورہ) آگ کا ٹھنڈا جانا۔  
 آگ کرنا (۱- محاورہ) آگ سلگانا۔ غصہ دلانا۔  
 آگ کھانا انگارے لگانا (۱- مثل) جیسی کرنی ویسی بھرنی۔ جیسا بونا ویسا  
 کاٹنا۔ عوض بدی ٹھگنا۔  
 آگ کھائے منہ جلے، ادھار کھائے پیٹ جلے (۱- مثل) قرض سے  
 پیٹ بھر کر سخت تکلیف ہوتی ہے۔  
 آگ کتنے منہ نہیں جلتا (۱- مثل) کسی چیز کا نام لینے سے اس کا اثر نہیں  
 ہوتا۔ زہر کا نام لینے سے آدمی مرنا نہیں۔  
 آگ کے ٹوگے اٹھنا (۱- محاورہ) آگ کے شعلے بلند ہونا (۲) جی جلنا۔  
 (۳) گرم زمین سے پانی چھڑکنے کے وقت بھکے اٹھنا۔  
 آگ کے مول۔ بہت قیمتی گراں۔  
 آگ کاڑنا۔ آگ دبانا۔  
 آگ لگا (کے) پانی کو دوڑنا (۱- محاورہ) لڑائی کو داکر صلح کے درپے ہونا  
 عیاری دکھانا۔ صلح کی باتیں بنانا۔  
 آگ لگانا (۱) آگ دینا۔ جلانا۔ پھونکنا۔ بالنا (۲) سوزش پیدا کرنا (۳)  
 لو لگانا۔ شوق بڑھانا۔ سوزہ محبت اچھا کرنا۔ جوش پیدا کرنا۔ سنج دینا۔  
 (۴) پھونکنا۔ (۵) رشک دلانا (۶) غصہ دلانا۔ بھڑکانا (۷) جھگڑا اٹھانا۔  
 دشمنی پھیلانا (۸) آفت برپا کرنا۔ شرارت کرنا (۹) گراں سودا خریدنا (۱۰)  
 نقصان دینا۔ غبن کرنا (۱۱) ترک کرنا (۱۲) ضائع کرنا۔ غارت کرنا۔ تباہ کرنا۔  
 (۱۳) خوب دھوم دھام کرنا (۱۴) بگاڑنا۔ خراب کرنا (۱۵) لگائی بجھائی کرنا۔

آگ بھجھوگا۔ دیکھیے آگ بگولا۔  
 آگ بھری ہونا (۱- محاورہ) (۱) سوز دگدگنا ہونا (۲) جلن ہونا (۳) دشمنی ہونا۔  
 (۴) گرم مزاج ہونا (۵) پڑ شہوت ہونا (۶) آتشک ہونا۔  
 آگ بھڑکانا (۱- محاورہ) آگ کو ہوا دے کر مشتعل کرنا (۲) فساد  
 بڑھانا (۳) غصہ دلانا (۴) شوق اور محبت بڑھانا۔  
 آگ (بھڑکنا) بھڑک اٹھنا (۱- محاورہ) (۱) شعلہ اٹھنا۔ آگ دکھنا (۲)  
 برافروختہ ہونا (۳) عشق کا دلولہ اٹھنا۔ آتش شوق کا بھڑکنا (۴) لڑائی  
 پھیلنا (۵) گرمی اور جلن زیادہ ہونا۔  
 آگ بھی نہ لگاؤں (۱- محاورہ) (۱) کسی چیز سے نفرت کا اظہار  
 کرنے وقت خود نہیں کہتی ہیں۔  
 آگ پانی ایک جگہ نہیں رہ سکتے (۱- مثل) دو مخالف چیز ایک ساتھ  
 نہیں رہ سکتیں۔  
 آگ پانی کا بیر (۱- مذ) آگ اور پانی کی طبیعت میں ضد ہے۔ فطری  
 مخالفت۔  
 آگ پانی کا کھیل (۱- مذ) (۱) جب کوئی چیز پکانے میں بگڑ جائے تو کہتے  
 ہیں۔ کر یہ تو آگ پانی کا کھیل ہے (۲) آگ پانی سے چلنے والی گلیں۔  
 آگ پانی میں لگانا (۱) جہاں لڑائی نہ ہوتی ہو وہاں لڑائی کر دینا (۲)  
 عیاری و چالاکی میں کمال دکھانا (۳) ناممکن بات کرنا۔  
 آگ پر پانی ڈالنا (۱- محاورہ) آگ بجھانا۔ جھگڑا مٹانا۔ فساد ختم کرنا۔  
 آگ پڑھیل (پھکانا) ڈالنا (۱- مثل) آگ کو بھڑکانا (۲) جھگڑے  
 کو اور زیادہ کرنا۔ غصے کو تیز کرنا۔  
 آگ پر لٹانا (۱- محاورہ) بے حد بے قرار کرنا۔ بہت جلانا۔ تڑپانا۔  
 آگ پڑ لوٹنا (۱- محاورہ) بہت بے قرار ہونا۔ تڑپنا (۲) رشک و حسد  
 سے جلنا۔  
 آگ پڑنا (۱) دھوپ میں تیزی ہونا۔ گرمی ہونا۔  
 آگ پھانکنا (۱- محاورہ) جھوٹ بولنا۔ چغلی کرنا۔ بہتان لگانا۔  
 آگ پھونکنا (۱- محاورہ) آگ سلگانا۔ آگ جلانا (۲) سوزش پیدا کرنا (۳)  
 گرانا۔ بھڑکانا (۴) عشق بھڑکانا (۵) لگائی بجھائی کرنا۔  
 آگ پھیلانا (۱- محاورہ) فساد برپا کرنا۔ فتنہ اٹھانا۔ سنج بڑھانا۔  
 آگ پھیلنا (۱- محاورہ) فساد کھڑا ہونا۔ فتنہ برپا ہونا۔  
 آگ ٹھنڈی کرنا (۱- محاورہ) آگ بجھانا۔ (۲) فساد مٹانا۔ غصہ ٹھنڈا کرنا۔  
 آگ جاگ اٹھنا (۱- محاورہ) بھی ہوتی آگ بھڑک اٹھنا (۲) دوبارہ  
 جھگڑا شروع ہوجانا (۳) شوق بڑھ جانا (۴) دشمن ہونا۔  
 آگ جاگنا (۱- محاورہ) بگلائی ہوئی آگ کا دہک اٹھنا (۲) عشق بھڑک  
 آگ جانے، لوہا رجانے، دھونکنے والے کی بلا جانے (۱- مثل)  
 حکم دینے والا ذمہ دار ہے۔ تعجب کرنے والے کا قصور نہیں۔  
 آگ تلووں سے لگتا (۱- محاورہ) نہایت غصے ہونا۔  
 آگ جگانا (۱- محاورہ) آگ جلانا۔ شوق بڑھانا۔ خواہش تیز کرنا۔  
 آگ جوڑنا (۱- محاورہ) ایلے یا لکڑی آپس میں ملا کر آگ سلگانا۔  
 آگ جھاڑنا (۱- محاورہ) آگ سے ساکھ دور کرنا۔ چٹماق سے آگ نکالنا۔







آگے دیکھنا (۶) سامنے دیکھنا۔ آنکھیں کھولنا (۲) ہوشیار ہونا۔ آگے کی خبر رکھنا۔  
 آگے دیکھنے کیا ہوتا ہے (۱)۔ مثل (نہیں معلوم آئندہ کیا ہونے والا ہے۔ آگے دسکے (تابع فعل) (۱) سامنے کر کے۔ پیش کر کے (۲) جان بوجھ کر دیدہ دلانستہ (۳) دھکیل کر۔ زبردستی۔  
 آگے ڈالنا (۱)۔ محاورہ (۱) سامنے رکھ دینا۔ روبرو ڈال دینا (۲) گزارہ کے واسطے بیوہ عورت کی روپیہ سے مدد کرنا۔  
 آگے ڈولنا (۱) سامنے پھرتا (۲) بال بچے ہونا۔ صاحب اولاد ہونا۔  
 آگے رکھ لینا (۱)۔ محاورہ (۱) نشانہ بنالینا۔ (۲) ڈھال بنالینا (۲) قابو کر لینا۔  
 آگے رکھنا (۱) سامنے رکھنا (۲) نذر کرنا۔ شہینہ رکھنا۔ استاد بنانا۔  
 آگے رنگ لانا (۱)۔ محاورہ (۱) آئندہ گل کھلانا۔ آئندہ کو خرابی لانا۔  
 آگے سے (۱) سامنے سے (۲) پہلے سے۔ ابتدا سے۔  
 آگے سے ٹھاننا (۱)۔ محاورہ (۱) پہلے سے ارادہ کرنا (۲) پہلے سے نتیجہ نکالنا۔  
 آگے سے روکنا (۱)۔ محاورہ (۱) پہلے سے روک دینا۔ پیش بندی کرنا۔  
 آگے سے سوچنا (۱)۔ محاورہ (۱) پہلے سے فکر کرنا۔  
 آگے سے گانٹھنا (۱)۔ محاورہ (۱) پہلے سے راضی کر لینا۔ پہلے سے یار بنانا۔  
 آگے سے ہٹانا۔ سامنے سے دور کرنا۔ ایک طرف کرنا۔  
 آگے سے ہوتی آتی سے (۱)۔ مثل (قدیم سے دستور ہے۔ پہلے سے یہ بات چلی آرہی ہے ہر راتی رسم ہے۔  
 آگے قدم ادھرنا (رکھنا) (۱)۔ محاورہ (۱) پہل کرنا۔ پیش قدمی کرنا۔ ترقی کرنا۔  
 آگے قسمت (۱)۔ روز مرہ (۱) آئندہ جو نصیب میں ہو۔  
 آگے کا اٹھنا۔ جھوٹا۔ پس خوردہ۔ بچا کھچا کھانا۔  
 آگے کا قدم پیچھے ہٹنا (۱)۔ محاورہ (۱) پیچھے ہٹنا (۲) تنزل کرنا۔ گھٹنا (۳) رعب چھا جانا۔ ڈر جانا۔ گھبرا جانا۔ کچھ نہ سوجھنا۔  
 آگے کرنا (۱)۔ محاورہ (۱) سامنے کرنا (۲) پیش کرنا  
 آگے کنواں پیچھے کھانی (۱)۔ مثل (دونوں طرف سے خطرہ۔ کام کرنے میں بھی خرابی ہے اور نہ کرنے میں بھی۔  
 آگے مفقود (۱)۔ روز مرہ (۱) آگے قسمت۔ آئندہ جو قسمت میں ہو۔  
 آگے ناتھ نہ پیچھے پکھا۔ سب سے اچھا کہہ مار کا گدھا (۱)۔ مثل (جس کا دالی وارث کوئی نہ ہو۔ ناتھا۔ نگوٹا۔  
 آگے نکل جانا (نکلنا) (۱)۔ محاورہ (۱) آگے بڑھ جانا۔ سبقت سے جانا۔  
 آگے ہاتھ پیچھے پات (۱)۔ مثل (اس قدر تنگ اور غریب ہے کہ تن پر کپڑا بھی نہیں۔ ایک ہاتھ آگے اور ایک پیچھے لگا ہوا ہے۔  
 آگے ہونا (۱)۔ محاورہ (۱) آگے بڑھنا۔ پیش قدمی کرنا (۲) پروردہ نہ ہونا (۳) روبرو آنا (۴) مقابلہ کرنا۔  
 آگے ہی۔ پہلے ہی۔ اول ہی۔ اول ہی سے۔  
 آگیا (آگ۔ گ۔ یا) (س۔ مٹ) (۱) فرمان (۲) ہدایت (۳) اجازت۔ حکم۔ رخصت۔ رضا۔  
 آگیا بالنا (۱)۔ محاورہ (۱) حکم بجالانا۔ فرماں برداری کرنا۔  
 آگیا دینا (۱)۔ محاورہ (۱) حکم دینا (۲) اجازت دے دینا۔ ہدایت کرنا۔

پاس۔ قریب۔ پینٹی میں۔  
 آگے آگرہ، پیچھے لاہور (۱)۔ مثل (غلط راستے پر پڑے ہیں۔  
 آگے آگے (مرتب تاکید) آگے کی تاکید صورت (۲) آئندہ کو۔ زمانہ مستقبل میں۔ رفتہ رفتہ۔ چند روز میں۔  
 آگے آگے چلنا۔ کسی کے آگے بڑھ کر قدم رکھنا۔ خدمت میں آگے چلنا۔  
 آگے آگے رنگ لانا (۱)۔ محاورہ (۱) آئندہ زیادہ شور و شکر برپا کرنا۔ آگے کو خرابی لانا۔ آئندہ سر اٹھانا۔  
 آگے آگے گرو، پیچھے پیچھے چلنا (۱)۔ مثل (جس لیاقت کا اُتار ہوتا ہے۔ شاگرد بھی ویسی ہی قابلیت حاصل کرتا ہے۔  
 آگے آگے ہونا (۱)۔ محاورہ (۱) پیش پیش ہونا۔ رہبر ہونا۔  
 آگے آنا (۱)۔ محاورہ (۱) سامنے آنا (۲) نزدیک آنا (۳) سامنا کرنا (۴) پشت ہونا۔ (۵) واقع ہونا۔ پاداش پانا  
 آگے آیت (۱)۔ روز مرہ (۱) بات حتم ہونی۔ مطلب تمام ہوا۔ فقرہ پورا ہوا۔ بس آگے بڑھانا (۱)۔ محاورہ (۱) آگے چلانا۔  
 آگے بڑھنا (۱)۔ محاورہ (۱) آگے جانا۔ آگے چلنا (۲) لڑنے کے واسطے سامنے ہونا (۳) بڑھ جانا۔ دور نکل جانا (۴) سبقت سے جانا (۵) پیشوا بن کرنا (۶) چلا جانا۔  
 آگے پانا (۱)۔ محاورہ (۱) کیے کی سزا پانا۔ تکلیف اٹھانا۔  
 آگے پیچھے (تابع فعل) (۱) سامنے اور عقب میں (۲) ایک کے بعد دیگرے۔ لگاتار۔ (۳) دیر سویر (۴) خلاف قاعدہ۔  
 آگے پیچھے چلنا (۱)۔ محاورہ (۱) ایک کے پیچھے دوسرے کا چلنا (۲) بے ترتیبی سے چلنا۔  
 آگے پیچھے سب چل بسیں گے (۱)۔ مثل (سب کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ آگے پیچھے نہ ہونا (۱)۔ محاورہ (۱) تنہا ہونا۔ بے وارث ہونا  
 آگے پیچھے ہاتھ دھرنے ہونا (۱)۔ محاورہ (۱) نہکل ہونا۔ نہایت مفلس ہونا۔  
 آگے جاتے گھٹنے ٹوٹیں پیچھے دیکھتے آنکھیں پھوٹیں (۱)۔ مثل (جہاں بد کسی کام کے کرنے اور نہ کرنے دونوں میں خرابی ہو وہاں بولتے ہیں (۲) مجبوری و معذوری۔ نہ پائے رفتن نہ جائے ماندن۔  
 آگے جانا (۱)۔ محاورہ (۱) آگے بڑھنا (۲) راستہ بنانا۔ رہنمائی کرنا (۳) سبقت سے جانا۔  
 آگے چلنا (۱)۔ محاورہ (۱) آگے بڑھ کر چلنا۔ سبقت سے جانا۔ غالب آنا۔  
 آگے خدا کا نام (۱)۔ محاورہ (۱) خدا کے نام کے سوا کچھ نہیں (۲) بس خاتمہ ہے۔ (۳) اس کے آگے کچھ نہیں۔  
 آگے خیریت ہے (۱)۔ محاورہ (۱) آئندہ کچھ نہیں ہے۔  
 آگے دور پیچھے چوڑ (۱)۔ مثل (ایک کام تمام نہیں ہوا کہ دوسرا شروع کر دیا۔ آگے دھرائے (۱)۔ مثل (سامنے رکھنا ہے۔ پیش آنا ہے۔  
 آگے دھر لینا، آگے رکھ لینا (۱)۔ محاورہ (۱) سامنے رکھ لینا۔ آگے کر لینا۔  
 آگے آنکھ سے اوجھل نہ ہونے دینا (۳) گرفتار کر لینا۔  
 آگے دھرنا (۱)۔ محاورہ (۱) سامنے رکھنا۔ روبرو رکھنا۔  
 آگے دیکھ کے (تابع فعل) (۱) سامنے نظر کر کے (۲) سنھل کر



آگیا ماننا (۱۱) محاورہ) حکم ماننا۔ اطاعت کرنا۔  
آگس (ف) لاحقہ فارسی لاحقہ نسبت جو کسی فارسی اسم کے بعد اگر اسے  
صفت بنا دیتا ہے اور بھرا ہوا اور لبالب کے معنی دیتا ہے۔ جیسے  
فلو ص آگس۔ شرم آگس وغیرہ۔

## آ۔ ل

آل (ہ) (مٹ) نئے پیاز کے ہرے پتے (۱۲) گھیا۔ تری (۱۳) زمین کی تہی  
(۱۴) ایک درخت جس کی جڑ سے سرخ رنگ نکلتا ہے۔

آل ات (۱) مٹ) سرخ رنگ۔ لال۔

آل (All) (انگ) کل۔ تمام۔ سب۔ اردو میں یہ لفظ مجرد  
استعمال نہیں ہوتا۔ مرکبات میں استعمال ہوتا ہے جیسے آل پاکستان  
مسلم لیگ۔

آل اع (۱) مٹ) اولاد، بیٹے پوتے (۲) کنہ (۳) نسل

آل اولاد۔ بال بچے، بیٹا بیٹی۔ نواسا۔ نواسی۔ اخلاف۔  
آل پیمبر، آل رسول، آل نبی۔ رسول مقبول کی بیٹی کی اولاد۔  
قوم سادات۔

آل تمغرات (۱) مٹ) سرخ مہر (۲) شاہی فرمان معافی یا شاہی جاگیر کی  
سند (۳) آئین میں بخشی ہوئی جاگیر۔

آل عبا۔ وہ لوگ جن پر رسول اکرم نے اپنی کھلی ڈال کر محبت ظاہر فرمائی  
یعنی حضرت علی وفاطمہ حسن اور حسین رضی اللہ عنہم۔

آل واطفال۔ بال بچے۔ پوتا پوتی۔ نواسا۔ نواسی۔

آل کاندھا (۱) مٹ) لڑکوں کا ایک کھیل جس میں کسی غریب اور سیدھے  
سادے لڑکے کے سر پر چیتیں مارتے ہیں۔

آل کارنگ (۱) مٹ) لال رنگ، وہ سرخ رنگ جو آل درخت کی جڑ  
سے نکلتا ہے۔

آل اق (۱) مٹ) گھونٹلا۔ آشیانہ

آلا (آ) (ہ) (صف) اگلیلا۔ تر۔ نم (۲) کچا زخم، ہر زخم (۳) [مٹ) دلوار  
پر چراغ یا کسی چیز کے رکھنے کی جگہ۔ طاق۔ طاغیہ (۴) آلا اول کا قصہ  
(۵) لمبی چوڑی داستان (۶) ٹھگ آپس میں ایک دوسرے کو اس  
نام سے پکارتے تھے (۷) گنجھ بازوں کی اصطلاح میں دونوں طرف  
سر کرنا۔

آلا پٹ جانا (۱) محاورہ) گنجھے میں دونوں طرف سر کرنے سے فارغ  
ہو جانا۔

آلا دے نوالا۔ اسے طاق روٹی دے۔ کوئی کہینہ اعلیٰ درجے کو پہنچے مگر نظرنا  
اس کہینہ بن نہ جاتے تو کہتے ہیں۔

آلا دینا۔ زخم تازہ رہنا۔ مندمل ہونے میں نہ آنا۔

آلا کرنا۔ گنجھے میں دونوں طرف سر کرنا۔

آلا گانا (۱) اپنا جھینکا سنانا۔ اپنا رونا رونا (۲) ایک ہی داستان کہے جانا  
ایک مضمون کے سر ہو جانا۔

آلا ہونا (۱) اگلیلا ہونا۔ تر ہونا۔ بھینکا (۲) زخم ہرا ہو جانا۔ پھر سے زخم  
کا تازہ ہو جانا۔

آلابالا (آ) (لا) (لا) (لا) (لا) (مٹ) [۱] مال موٹل۔ دم دلا سا۔ ہانڈ (۲) ج  
قریب (۳) سستی۔ کاہلی۔

آلابالا بتا دینا (بتانا) (۱) محاورہ) مال دینا (۲) فریب دینا۔ دھوکا  
آلاب (آ) (لاپ) (۱) مٹ) [۱] بول۔ چال۔ آواز۔ نغمہ (۲) آواز  
آنا۔ چڑھا۔ گانے میں سروں کا اونچا کرنا۔ گیت کی اٹھان۔ تان۔ سر۔

آلاپنا (آ) (لاپ) (نا) (ہ) (مص) [۱] اونچے سروں میں گانا۔ تان اڑانا۔ آواز  
آلات (آ) (لات) (ع) (۱) مٹ) [۱] جمع۔ اوزار۔ ہتھیار۔

آلات حرب۔ لڑائی کے ہتھیار۔ اسلحہ جنگ۔

آلات کشاوری (ع) (ت) (آ) (مٹ) [۱] کھیتی باڑی کے اوزار۔

آلا راسی (آلا رسی) (آ) (لا) (را) (سی) (آ) (لا) (ری) (سی) (ہ) (صف) [۱]  
بے پردہ۔ بے فکر۔ لا ابالی (۲) [مٹ) [۱] بے پروائی۔ بے فکری (۳)  
سستی۔ کاہلی۔

آلا راسی خصم خدا (۱) مثل۔ عوا۔ سست اور کاہل آدمی کا اللہ ہی مالک  
ہے۔ خود کچھ نہیں کرنا۔ اس کا کام اللہ ہی کر دے تو کر دے۔

آلام (آ) (لا) (م) (ع) (۱) مٹ) [۱] الم کی جمع۔ رنج و غم۔  
آلان (آ) (لان) (اس) (۱) مٹ) [۱] وہ کڑا یا زنجیر جس سے ہاتھی کا ہانڈ  
باندھا جاتا ہے (۲) ہاتھی کی پیٹھ کا گدا۔

آلائش (آ) (لا) (اش) (ف) (۱) مٹ) [۱] آلودگی۔ غلاظت۔ میں کپیل  
(۲) پھوڑے (۳) انتڑیاں۔

آلیٹنا (آ) (پٹ) (نا) (ا) (مص) [۱] آکر پیٹ جانا۔  
آلت (آ) (ت) (ا) (ف) (۱) مٹ) [۱] آلہ۔ اوزار۔ ہتھیار (۲) جہاز کی  
رسی (۳) برتن (۴) عضو تناسل۔

آلتی پالتی (آ) (تی) (پال) (تی) (ہ) (۱) مٹ) [۱] ایک قسم کی بیٹھک۔  
چار زانو۔

آلتی پالتی مارنا۔ چار زانو بیٹھنا۔ چوڑی مار کر بیٹھنا  
آلسی (آ) (سی) (ہ) (صف) [۱] سست۔ کاہل۔ دھیما۔

آلسی سدا روگی (۱) مفولہ) سست آدمی ہمیشہ بیمار رہتا ہے۔  
آلس (آ) (کس) (ہ) (۱) مٹ) [۱] سستی کاہلی، کسل (۲) نیند۔ اونگھ۔

آلس آنا۔ سستی یا کاہلی آنا۔ ماندگی معلوم ہونا۔ نیند آنا۔ اونگھ آنا۔  
آلسی (آ) (ک) (سی) (ہ) (۱) مٹ) [۱] سستی۔ کاہلی۔

آلسا (آ) (ک) (س) (یا) (ہ) (صف) [۱] کاہل سست (۲) جموں۔  
آلگنا (آ) (نگ) (نا) (ا) (مص) [۱] قریب تر ہونا۔ (۲) گھات میں بیٹھ  
رہنا (۳) پڑ جانا۔ پہنچنا۔

آلسن (آ) (سن) (ہ) (۱) مٹ) [۱] بسین یا آٹا جو ساگ میں گھول کر ڈالتے ہیں  
آلگنا (آ) (نا) (ہ) (۱) مٹ) [۱] آشیانہ۔ گھونٹلا۔

آلنگ (آ) (نگ) (س) (۱) مٹ) [۱] گھوڑی کی مستی (۲) عورت کا  
خواہش پر آنا۔

آلنگ پر آنا (ہونا) (۱) محاورہ) (۱) گھوڑی کا متانا۔ ند میں بھرنا۔







آئین کہنے والے (۱) مذاہن میں ہاں ملانے والے خوشامدی۔

# آن

آن (۱-۵) (مث) (۱) قسم۔ عمدہ (۲) بڑوں کی رسم۔ رواج (۳) ضد۔ ہٹ (۴) عادت خصلت (۵) آرزو۔ خواہش (۶) لاج (۷) شرم۔ حیا عزت۔ حرمت۔  
آن توڑنا (۱) محاورہ (۱) قول قرار توڑنا۔ قسم توڑ دینا (۲) رسم کے خلاف کرنا۔

آن جانا (۱) محاورہ) بات خراب ہونا۔ آبرو جانا۔  
آن رہ جانا (۱) محاورہ) بات رہ جانا۔ آبرو رہ جانا۔  
آن کھان ہو گیا (۱) مثل) تباہ ہو گیا۔ برباد ہو گیا۔ عزت جاتی رہی۔  
آن (ت) (۱) (مث) (۱) شان و شوکت (۲) ادا۔ معشوقانہ چھب (۳) وضع۔ ڈھنگ (۴) غور۔ گھنٹہ۔  
آن بان۔ شان و شوکت۔ وضع۔ ٹھاٹ۔ بانگین۔  
آن بان سے رہنا (۱) محاورہ) شان و شوکت سے بسر کرنا۔ ٹھاٹھ سے رہنا۔ وضع بنائے رہنا۔

آن بان والا (۱) شان و شوکت والا۔ ناز و ادا والا۔ (۲) وضع دار۔ غیرت دار۔  
آن تان میں پورا ہونا (۱) محاورہ) شان و شوکت میں کامل ہونا۔ وضع کا پابند ہونا۔

آن نکلنا (۱) محاورہ) معشوقانہ انداز پیدا ہونا۔ حسن و خوبی کا چمکنا۔  
آن (ع) (۱) (مث) (۱) وقت۔ لمحہ۔ لحظہ۔ ساعت۔  
آن کا مہمان۔ کوئی دم کا مہمان۔ جلد دنیا سے جانے والا۔  
آن کی آن میں (تابع فعل) آنا فنا۔ ایک لمحہ میں۔ ذیراسی دیر میں۔  
آن میں کچھ ہے آن میں کچھ ہے (۱) مثل) متلون مزاج ہے۔ گھڑی میں کچھ گھڑی میں کچھ۔

آن واحد میں (تابع فعل) ایک آن میں لمحے بھر میں۔  
آن (د) آنا کا مخفف۔

آن بننا (۱) محاورہ) مصیبت پڑنا۔ بلانا نزل ہونا۔ آ پھنسا۔  
آن پڑنا (۱) محاورہ) یکا یک آگرنہ۔ دفعتاً نازل ہونا۔ ایک ایک وارد ہونا۔  
(۲) بے کوشش ہاتھ لگانا۔ (۳) ٹوٹ پڑنا۔ حملہ کرنا (۴) مصیبت پڑنا (۵) گرفتار ہونا۔ (۶) کسی کے سر پر بوجھ پڑنا (۷) پناہ میں آنا۔

آن پہنچنا (۱) محاورہ) داخل ہونا۔ کنارے لگانا۔ آجانا۔  
آن لینا (۱) محاورہ) آ لینا۔ آکر مل جانا۔  
آن لینا (۱) محاورہ) آجانا۔ مل جانا۔  
آن (ت) (۱) (ض و اشارہ) (نون غنہ) وہ۔  
آنجناب (کلمہ تعظیم) جناب والا۔ عالی قدر۔ مخاطب کو بجائے آپ کے تعظیماً اس جناب کہتے ہیں۔  
آنحضرت۔ آل سرور (کلمہ تعظیم) وہ بزرگ۔ وہ سردار۔ تعظیماً

خدا تعالیٰ۔  
آمریت (آ۔ م۔ رمی بیت) (ع۔ ا۔ مٹ) [ امر یا ڈکٹیٹر کا منصب مطلق العنانی کلی اختیار و اقتدار۔

آئیلہ (آ۔ م۔ لہ) (ف۔ ا۔ مذ) [ آنورہ۔ ایک ترش پھل۔  
آئیلیٹ (Omelette) (آ۔ م۔ لیٹ) [ انگ۔ ۱۰۔ مذ] [ انڈوں کا چلا۔ بیازیلے ہوتے ہیں انڈے۔  
آئنا سامنا (آ۔ م۔ نا۔ سام۔ تا) (۱) (مذ) [ ۱۰۔ ۱۔ مذ] [ ۱۱] مقابلہ۔ ٹٹھ بھیر (۲) لڑائی۔ باہم سخت و سخت باتیں۔

آئنا و صدقنا (آ۔ من۔ نا۔ و صدق۔ ذق۔ تا) (ع) [ ۱۱] ہم ایمان لائے۔ اور ہم نے تصدیق کی۔ (۲) بجا ہے۔ درست ہے۔ ٹھیک ہے۔  
آئنے سامنے (۱) (مذ) [ آ۔ م۔ نے] [ ۱۵] ایک دوسرے کے آگے۔ ایک دوسرے کے مقابل۔

آئنے سامنے ہونا (۱) محاورہ) روبرو ہونا۔ مقابل ہونا۔  
آموزش (آ۔ موخ۔ ت) (ت) (ف۔ ا۔ مذ) [ پڑھا ہوا سبق پچھلا سبق۔  
آموزختہ (پڑھنا) پھیرنا۔ پڑھے ہوئے کو دہرانا۔  
آموزختنی (آ۔ موخ۔ ت۔ نی) (ت) (ف۔ ا۔ ص) [ سیکھنے کے لائق۔ سکھانے کے قابل۔

آموز (آ۔ موز) (ف۔ ص) [ آموزش کا صیغہ امر سکھانے والا۔ سیکھنے والا۔ (مرکبات میں مستعمل ہے جیسے سبق آموز)۔  
آموزش (آ۔ موز۔ زش) (ت) (ف۔ ا۔ مٹ) [ سیکھائی۔  
آموزش گاہ (ت) (ف۔ ا۔ مٹ) [ درس گاہ۔ مکتب۔ مدرسہ۔

آموز گار (آ۔ موز۔ گار) (ت) (ف۔ ص) [ سکھانے والا۔ استاد۔ معلم۔ جمع: آموز گاران۔  
آموزختہ (آ۔ میخ۔ ت) (ت) (ف۔ ص) [ ملایا ہوا۔ مرکب۔  
آمیز (آ۔ میز) (ت) (ف۔ ص) [ ملنے والا۔ ملانے والا (مرکبات میں مستعمل ہے جیسے کم آمیز)۔

آمیزش (آ۔ میز) (ت) (ف۔ ا۔ مٹ) [ ملاوٹ۔ ملونی۔  
آمیزش ہونا (۱) ایک ذات ہونا (۲) گھل مل جانا۔  
آمیزہ (آ۔ می۔ زہ) (ت) (ف۔ ا۔ مذ) [ مرکب مخلول ادواؤں ادویارو سے

ذات چیزوں کا اس طرح ملنا کہ وہ ایک ذات ہو جائیں۔ مکسچر۔  
آئین (آ۔ بین) (ع) [ ۱۱] اسے خدا ایسا ہی ہو۔ خدا دعا قبول کرے۔ (۲) ختم قرآن شریف کی تقریب۔  
آئین۔ آئین۔ آئین کا تاکید فقرہ۔  
آئین آئین ہونا (۱) محاورہ) (۱) (من چین ہونا) (۲) خوشیاں مننا۔ مراد برآنا۔

آئین اللہ (۱) خدایوں ہی کرے۔ خدا قبول کرے۔ خدا کی پناہ۔ دور پار خدا نہ کرے۔ نوح۔ نعوذ باللہ۔  
آئین پڑھنا (۱) محاورہ) ختم قرآن کے بعد جو کچھ دعا ٹیہ اشعار پڑھے جاتے ہیں انہیں آئین پڑھنا کہتے ہیں۔  
آئین کہنا (۱) محاورہ) دعا مانگنے کے بعد لفظ آئین زبان پر لانا یعنی خدا تعالیٰ قبول کرے۔ خدایوں ہی کرے (۲) قبول کرنا۔ ماننا۔



آنتیں منہ کو آنا (۱۔ محاورہ) ناک میں دم آنا۔ بیزار ہونا۔ جی اکتانا۔ نہایت  
آنتیں ناگوار گزرنے۔

آنتیں مومنا۔ بھوکا رہنا۔ بھوک کی برداشت رہنا۔

آنت (۱۔ ۵)۔ مٹ (۱۱)۔ مٹھیلی میں انگوٹھے اور انگلی کے درمیان کی  
جگہ (۲)۔ داؤس۔ قبضہ بیچ (۳)۔ دشمنی (۴)۔ گرہ۔ کانٹھ (۵)۔ گھٹا۔

آنت پڑنا (۱۔ محاورہ) گرہ پڑنا (۲)۔ دل میں فرق آنا۔ دشمنی ہونا۔

آنت سانٹ (۱)۔ مٹ (۱)۔ سازش۔ توڑ جوڑ۔ باہمی صلاح مشورے۔

آنت لگانا (۱)۔ روک پیدا کرنا (۲)۔ چاندی کو تپا کر کھوٹا کھرا پہچانا

آنت نکلنا۔ دل کا فرق نکلنا۔ دل صاف ہونا۔

آنتی (آس۔ ٹی) (۱)۔ مٹ (۱۱)۔ گھٹا۔ پولا (۲)۔ سوت مار شیم کی لہجی۔

آنتی (۳)۔ لڑکوں کے کھیلنے کی گلی۔ (۴)۔ کشتی کا ایک بیچ جس میں ٹانگ اڑا کر

حریف کو جیت کرتے ہیں۔

آنتی دینا (۱)۔ اڑنگا مارنا۔ حریف کی ٹانگ میں ٹانگ اڑا کر اسے گرا دینا۔

آنتی کاٹنا۔ کشتی میں آنتی لگنے پر اس کی کاٹ کرنا۔

آنتی لگانا (مارنا) (۱)۔ مخالف کی ٹانگ میں ٹانگ اڑانے کا داؤس چلانا۔

(۲)۔ گرہ باندھنا۔

آنتی جھونٹے (ق) [ جھوڑے میں آمنے سامنے بیٹھ کر ایک کا دوسرے کی

گود میں پاؤں رکھنا۔

آنتی (۱)۔ مٹ (۱۱)۔ گرمی (۲)۔ آگ کی پٹ۔ شعلہ (۳)۔ آگ (۴)۔ آناؤ۔

آنتی (۵)۔ مادری جوش۔ مامتا (۶)۔ صدمہ (۷)۔ نقصان۔ ضرر (۸)۔ آبداری۔

دھار۔ چمک (۹)۔ شہوت۔ جوش (۱۰)۔ مصیبت (۱۱)۔ بھوک کی آگ سہا

آنتی آنا (۱)۔ محاورہ (۱۱)۔ صدمہ پہنچنا۔ چوٹ لگنا (۲)۔ نقصان ہونا (۳)۔ مصیبت۔

آنتی دکھانا (۱)۔ محاورہ (۲)۔ گرم کرنا۔ جلانا۔ آگ دکھانا۔

آنتی کا کھیل ہے (۱)۔ مذ (۲)۔ آگ کا کام ہے۔

آنتی گرمی ہونا (۱)۔ محاورہ (۲)۔ تیز آگ ہونا۔

آنتی دکھانا (۱)۔ محاورہ (۲)۔ تاؤ دکھانا (۳)۔ گرم ہونا (۴)۔ پگھلنا۔ گلنا۔

آنتی نہ آنا (۱)۔ صدمہ نہ پہنچنا (۲)۔ نقصان نہ ہونا۔

آنتی نہ آنے دینا (۱)۔ محاورہ (۲)۔ آسیب یا صدمہ نہ پہنچنے دینا (۳)۔ نقصان

یا ضرر نہ ہونے دینا۔

آنتی نکلنا (۱)۔ محاورہ (۲)۔ شعلے اٹھنا۔

آنتی (آس۔ چل) (۱)۔ مذ (۲)۔ روپے کا سرا۔ اورٹھنی کا پلو۔ دامن کا

پلو۔ دامن کا کنارہ۔ کھونگٹ (۲)۔ پستان۔ چوچی۔

آنتی پڑنا۔ آنتی چھوایا جانا۔ کسی چیز پر آنتی پڑ جانا۔

آنتی پلو (۱)۔ مذ (۲)۔ مقیش کی جھار جو بھاری جوڑوں کے دوپٹے اورٹھنی

وغیرہ کے کناروں پر ٹانکتے ہیں۔

آنتی بھاڑنا (۱)۔ محاورہ (۲)۔ آنتی کترنا (۳)۔ ٹوٹا کرنا۔ جادو کرنا۔ جس

عورت کے بچے جیتے نہ ہوں وہ بچوں والی عورت کا آنتی کتر لیتی ہے

اور اس کو جلا کر کھا لیتی ہے۔ جس سے حسب اعتقاد مستورات اس

کے بچے تو مر جاتے ہیں اور کھانے والی کے زندہ رہتے ہیں (۳)۔ دامن

کا بے ہاکی سے باتیں کرنا۔

پنجم اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نام کی جگہ بولتے ہیں۔

آس دفتر کا ڈو خوردان۔ مثل اس دفتر کو بیل کھا گیا۔ ایسی چیز کے متعلق  
کہتے ہیں جس کا نام نشان بھی باقی نہ رہا ہو۔

آس را کہ حساب پاک است از محاسبہ چہ پاک (ف۔ مثل) جس  
کا حساب صاف ہو اسے پڑنا یا کا خوف نہیں۔

آس قدح بشکست وآس سانی نما ندان (ف۔ مثل) وہ پیالہ ٹوٹ گیا  
اور وہ پلانے والا نہ رہا۔ وہ مزہ اور لطف جاتا رہا۔ وہ زمانہ ہی نہ

رہا، وہ صحیح ہی نہ رہیں۔

آس (آنا) (ہ۔ مص) (۱)۔ آنا کی ضد۔ آپہنچنا۔ نازل ہونا۔ حاضر ہونا۔ نمودار

ہونا۔ داخل ہونا (۲)۔ واقف ہونا۔ جانا۔ سیکھ لینا (۳)۔ مائل ہونا۔ راغب

ہونا۔ (۴)۔ دکھنا۔ پڑا آشوب ہونا (آنکھ کے لیے مستعمل ہے)۔

آسات۔ وقت۔

آس جانا (۱)۔ آمد و رفت (۲)۔ میل ملاپ۔ میل جول۔ ربط ضبط۔

آس نہ پانی تری پاؤ گھسانی (۱)۔ مثل ایسے کار دوڑ دھوپ بھفت کی محنت۔

آس قانا (آ۔ ن۔ نا۔ ن۔ ع۔ تابع فعل) ایک ایکی۔ جھٹ پٹ۔

آس کافی (آ۔ نا۔ کا۔ نی) (۱)۔ مٹ (۱۱)۔ سنی ان سنی کرنے کی حالت۔

نہ دھیان دینے کی حالت (۲)۔ مثال مٹول۔ حیلہ حوالہ۔

آس کافی (دینا) کرنا (۱)۔ محاورہ (۲)۔ سنی ان سنی کرنا۔ چشم پوشی کرنا۔ درگزر کرنا۔

آس (۱)۔ مذ (۲)۔ آسم۔

آس بلدی (آس۔ با۔ بل۔ دی) (۱)۔ مٹ (۲)۔ ایک قسم کی سرخ بلدی۔

آس بلدی۔

آس (۱)۔ مٹ (۲)۔ انٹری (۳)۔ کنپینہ (۴)۔ لمبی چیز۔

آس (آس) (۱)۔ مٹ (۲)۔ مٹ (۳)۔ ایک بیماری جس میں آس نوتوں

میں آس آتی ہے اور اس سے آدمی کے خصلیوں میں درد پیدا ہوتا ہے۔

آس بھاری تو مات بھاری (۱)۔ مثل افتور ہضم سے درد سر ہوتا

ہے۔ پیٹ کے جگاڑ سے بیماری پیدا ہوتی ہے۔

آس کی آس (۱)۔ محاورہ (۲)۔ بہت لمبی چیز۔ طول طویل بات۔

آس نوتوں کا بل کھلنا۔ بہت سی بھوک کے بعد خوب ڈٹ کر کھانا۔

آس نوتوں کا نقل ہو اللہ پڑھنا (۱)۔ محاورہ (۲)۔ سخت بھوکا ہونا۔

آس میں بل پڑنا (۱)۔ محاورہ (۲)۔ پیٹ میں بل پڑنا۔ پیٹ میں درد شروع

ہو جانا۔

آسٹیں الٹ جانا (۱)۔ محاورہ (۲)۔ ہونا۔ بہت ابکائیاں آنے سے جی

ادبرتلے ہونا۔

آسٹیں سمٹنا (۱)۔ محاورہ (۲)۔ بھوکا رہنا۔ بھوک کی برداشت کرنا۔

آسٹیں سوکھنا (۱)۔ محاورہ (۲)۔ بھوک کے مارے انترپیوں کا سوکھ جانا۔

آسٹیں کستی کرنا۔

آسٹیں کوسنی میں (۱)۔ مثل (۲)۔ بھوک سے آسٹیں فریاد کرتی ہیں۔ بہت زیادہ

بھوک لگی ہے۔ آسٹیں لگے میں آنا (۱)۔ محاورہ (۲)۔ مصیبت میں پڑنا۔ بلا

آسٹیں لگے میں آنا۔ آسٹیں لگے میں آنا (۱)۔ محاورہ (۲)۔ مصیبت میں پڑنا۔ بلا

میں مبتلا ہونا۔



اپنچل دبانا۔ پکے کا دودھ پینا۔ چھائی منہ میں لینا۔  
 اپنچل دینا۔ بچہ کے منہ میں چھائی دینا۔ پکے کو دودھ پلانا۔  
 اپنچل ڈالنا۔ عورتوں میں ایک رسم ہے۔ جب دولہا نکاح کے بعد لہن  
 کے گھر ادائے رسوم کے لیے جانے لگتا ہے تو اس کی ہنسی  
 دروازے سے اپنے بھائی کے سر پر اپنچل ڈال کر صدر مقام تک سے  
 جاتی ہیں اور اس اپنچل ڈالنے کا نیک ان کو دیا جاتا ہے۔  
 اپنچل سر پر ڈالنا (۱۱) محاورہ (۱۱) دوپٹہ سر پر ڈالنا (۱۲) آرسی مصحف کی  
 رسم کے وقت دولہا لہن کے سر پر سرخ کپڑا ڈالنا۔  
 اپنچل سمجھانا (۱۱) محاورہ (۱۱) اپنچل اٹھانا۔ اپنچل درست کرنا۔  
 اپنچل لینا (۱۱) محاورہ (۱۱) ہمان آنے والی عورت کا استقبال کرنا اور اس  
 کے دوپٹہ کا کنارہ تعظیماً چھونا۔  
 اپنچل میں بات باندھ رکھو (۱۱) مثل (۱۱) خوب یاد رکھو۔ ہرگز نہ بھولو۔  
 اپنچل میں بات باندھنا (۱۱) محاورہ (۱۱) بات پلٹے باندھنا (۱۲) کسی کی  
 نصیحت یا قول کو یاد رکھنا۔  
 اپنچل میں باندھنا (۱۱) محاورہ (۱۱) پلٹے میں باندھنا۔ دوپٹہ میں گرہ لگانا۔  
 کسی چیز کو دینے کے لیے ہر وقت اپنے پاس رکھنا (۱۳) یاد رکھنے کے  
 لیے اپنچل میں گرہ دے لینا۔ یاد رکھنا۔  
 اپنچل میں سات بائیں باندھنا (۱۱) محاورہ (۱۱) ٹونا ٹونکا کرنا۔ جار کرنا۔  
 اندر آں۔ دو اس (۱۰) مثل (۱۰) زنجیر جسے نامی پہلوان کشتی جیتنے کے بعد  
 پاؤں میں پہنتے ہیں۔  
 آندوسن (۱-۵) مذاخربک۔ مہم چلانا۔  
 آندھل جھپٹ آں۔ دھل۔ جھ۔ پٹ (۱۵)۔ تابع فعل (۱) اندھا دھند۔  
 جلد جلد (صفت) بے ہودہ۔ فضول۔  
 آندھی آں۔ دھی (۱۵)۔ مثل (۱۱) تیز ہوا کا طوفان۔ جھکڑ۔ گردوغبار  
 (۱۲) صفت (۱۲) بہت تیز چلنے والا۔ چالاک۔  
 آندھی آنا (۱) محاورہ (۱) جھکڑ چلنا۔ اندھا دھند آنا۔  
 آندھی آئے بیٹھ جائے، مینہ آئے بھاگ جائے (۱۱) مثل (۱) تھوٹی  
 سی مصیبت جس کو جھیل کے، جھیل لے زیاد ہو تو الگ ہو جاتے۔  
 آندھی آئے یا مینہ بڑھیا پلینچھ ابا زار (۱) سے نہ رہے (۱۱) مثل (۱) کوئی  
 شخص اپنی عادت یا اپنے کام سے کسی حالت میں باز نہ رہے تو کہتے ہیں۔  
 آندھی اٹھنا (۱۱) محاورہ (۱) طوفان اٹھنا۔  
 آندھی چلے مینہ چائے (۱۱) مثل (۱) چاہے کچھ بھی ہو۔ ہر حالت میں۔  
 آندھی چھانا (۱۱) محاورہ (۱) آندھی کا غبار چھانا۔  
 آندھی حضرت بی بی کے دامن میں بدھی (۱۱) مثل (۱) آندھی آنے کے  
 وقت جاہل عورتیں یہ کہہ کر چلاتی ہیں۔ ان کے عقیدے سے اس طرح  
 آندھی چلی جاتی ہے۔  
 آندھی لوگ (۱۱) مذا مصیبت۔ آنت چلتے چلتے تھک جانے کی جگہ  
 بولتے ہیں۔  
 آندھی کھٹا (۱) محاورہ (۱) افسوں پڑھ کے انگلی سے آندھی روکنا۔  
 آندھی کا کوا (۱) صفت (۱) کوا آندھی کی حالت میں نہ کہیں بیٹھ سکتا ہے

نہ اڑ سکتا ہے۔ مصیبت کا مارا۔ نہایت پریشان حال۔  
 آندھی کی طرح آیا بگولے کی طرح گیا (۱) محاورہ (۱) آتے ہی جلدی سے نھت  
 ہو گیا۔  
 آندھی کی طرح طبیعت آنا (۱) محاورہ (۱) بے اختیار کسی چیز پر مائل ہونا۔  
 آندھی کے آسم (۱۱) محاورہ (۱۱) آندھی کے گھرے ہوئے آسم (۱۲) بہت کستی  
 بھیر (۱۳) چند روزہ۔ تھوڑے دن کے۔  
 آندھی ہوتا (۱) محاورہ (۱) کسی کام میں نہایت سرگرمی سے مصروف ہونا  
 (۲) بہت تیز اور چالاک ہونا۔  
 آندو (آں۔ ڈو) (۱۰) (۱۱) وہ شخص یا جانور جس کے بڑے بڑے  
 خبیثے ہوں (۲۱) ساڈھا (۱۳) صفت (۱۳) شہوت۔ شہوتی۔  
 آندربیل (۱-۵)۔ مذا (۱) بیل جو خاصی نہ کیا گیا ہو (۱۲) بڑے فطوں کا آدمی یا  
 جانور جو فطوں کے بوجھ سے نہ چل سکے۔ منگھا۔ سست کابل۔  
 آندھی (آں۔ ڈی) (۱۵)۔ مثل (۱) پیاز کی کٹھی  
 آندھے باندھے کھانا (آں۔ ڈے) باندھے۔ کھا۔ نا (۱۵)۔ صفت (۱۵)  
 ادھر ادھر گھومنا۔ مارے مارے پھرنا۔  
 آندر (Honour)۔ آ۔ نر (۱) انگ۔ (۱) صفت (۱) عزت۔ بڑائی۔ مرتبہ۔  
 آندر بیل (Honourable) (انگ۔ صفت) ذی عزت۔ صاحب مرتبہ۔  
 آندریری (Honorary) (آن۔ رے۔ ری) (انگ۔ صفت) (۱) اعزازی۔  
 اعزازی۔ امتیازی۔ (۱۲) بلا تنخواہ کام کرنے والا۔ اعزازی خدمت انجام  
 دینے والا۔  
 آندریری نچ (Honorary Judge) اعزازی نچ۔ تنخواہ کے بغیر  
 کام کرنے والا۔  
 آندریری سیکرٹری (Honorary Secretary) معتمد اعزازی  
 وہ سیکرٹری جو تنخواہ نہ لے۔  
 آندریری مجسٹریٹ۔ (Honorary Magistrate) اعزازی مجسٹریٹ  
 تنخواہ کے بغیر کام کرنے والا مجسٹریٹ۔  
 آنس (آنس) (ع۔ صفت) محبت رکھنے والا۔ گھل مل جانے والا۔  
 آنسو (آن۔ سو) (۱۵)۔ مثل (۱) اشک۔ وہ پانی جو زیادہ تکلیف پہنچے یا  
 خوشی میں آنکھوں سے جاری ہوجاتا ہے۔  
 آنسو آنا (۱) محاورہ (۱) آنسو بھرنا۔ آنکھ میں پانی بھرنا۔  
 آنسو ایک نہیں کلیچہ ٹوک ٹوک (۱) مثل (۱) بظاہر رنج و غم ظاہر کرنا۔  
 لیکن دل میں مکاری بھری ہونا۔  
 آنسو بہانا (۱) محاورہ (۱) رونا۔ شوسے بہانا۔ گریہ زاری کرنا۔  
 آنسو بھرنا (۱) محاورہ (۱) آنکھوں میں پانی بھرنا۔ آبدیدہ ہونا۔  
 آنسو بھر لانا (۱) محاورہ (۱) آبدیدہ ہونا۔ آنکھوں سے پانی بہانا۔  
 آنسو بہنا (۱) محاورہ (۱) آنکھوں سے پانی جانا۔ دھنکا لگنا۔ رونا۔  
 آنسو بھنا (۱) محاورہ (۱) رونا بھنا۔ تسلی اور تشفی ہونا۔ ڈھارس بندھنا۔  
 آنسو بھنا (۱) محاورہ (۱) آنکھوں کا پانی خشک۔ (۱۲) آنسلی دینا۔  
 تسکین بخشنا۔ ڈھارس بندھانا۔  
 آنسو پی جانا (۱) محاورہ (۱) ضبط کرنا۔ صبر کرنا۔ دکھ درد کے وقت



منتر پڑھ کر پھونکنا۔ عمل یا منتر سے زہریلے جانور کے کاٹے کا اثر دور کرنا۔  
 آنکھ (آں - کوآہ - صف) آنکھنے والا۔ اندازہ لگانے والا۔  
 آنکھ (ہ - ا - مٹا) (۱) بین۔ دیدہ۔ چشم۔ نظر۔ نگاہ۔ بینائی۔ بصارت۔  
 (۲) اشارہ۔ ایما۔ عشوہ۔ غمزہ (۳) توجہ۔ نظر التفات (۴) امتیاز۔ تفت  
 پہچان (۵) حمارت۔ واقفیت (۶) اولاد۔ بیٹا۔ بیٹی (۷) اندازہ۔ تخمینہ  
 (۸) امید۔ توقع۔ آسرا (۹) پاس۔ مروت (۱۰) چشم حقیقت۔ بالغ نظری۔  
 (۱۱) گنے اور بانس کی گانٹھ میں جو کونپل یا شاخ پھوٹتی ہے (۱۲) گھٹنے  
 کی چینی یا پالی کے پاس گڑھے (۱۳) آسیب۔ سایا۔ صورت دہی۔  
 آنکھ آشنا ہونا (۱) محاورہ (۲) واقف ہونا۔ روشناس ہونا۔  
 آنکھ آنا (۱) محاورہ (۲) آشوب چشم ہونا۔ آنکھیں دکھنا۔  
 آنکھ ابل آنا (۱) محاورہ (۲) آنکھ کے آشوب کا زور کرنا۔  
 آنکھ اٹک جانا (۱) محاورہ (۲) آنکھ لگ جانا۔ محبت ہو جانا۔  
 آنکھ اٹھا کر دیکھنا (۱) محاورہ (۲) نظر بھر کر دیکھنا۔ (۳) نظر ملا کر دیکھنا۔  
 (۴) التفات کی نظر سے دیکھنا۔ توجہ کرنا۔  
 آنکھ اٹھا کر نہ دیکھنا (۱) محاورہ (۲) نظر ملا کر نہ دیکھنا (۳) نہایت بے پروائی  
 کرنا۔ خاطر میں نہ لانا۔ گھنڈا ہونا (۴) نادوم ہونا۔ شرماتا۔  
 آنکھ اٹھانا (۱) محاورہ (۲) نظر اڑی کرنا۔ آنکھ سامنے کرنا (۳) باز رہنا۔ درگزر  
 کرنا۔ دست بردار ہونا۔  
 آنکھ اٹھ جانا (۱) محاورہ (۲) نگاہ اڑی ہو جانا۔ دیکھ لینا۔  
 آنکھ اٹھ نہ سکا (۱) محاورہ (۲) شرم کے مارے آنکھ اڑی نہ ہونا۔ نہایت  
 شرمندہ ہونا۔  
 آنکھ اچھٹ جانا (۱) محاورہ (۲) جاگ پرنا۔ نیند میں آنکھ کھل جانا۔  
 آنکھ الجھنا (۱) محاورہ (۲) آنکھ لگنا۔ محبت ہونا۔  
 آنکھ اوچھل پھاڑ اوچھل، آنکھ اوٹ پھاڑ اوٹ (۱) مثل (۲) جو چیز آنکھ  
 سے پوشیدہ ہو وہ گویا پھاڑ کی اوٹ میں ہے۔ جو چیز آنکھ کے سامنے  
 نہیں وہ اگر قریب بھی ہو پھر بھی دور ہے۔  
 آنکھ اڑی نہ ہوتا (۱) محاورہ (۲) شرم سے آنکھ نہ اٹھنا۔  
 آنکھ ایک نہیں جگلوٹیاں تو تو (۱) مثل (۲) آنکھ ایک نہیں۔ سرمد دایاں  
 تو تو موجود ہیں۔ بد صورتی میں بناوٹ سجاوٹ کا شوق ہونا۔  
 آنکھ بچا جانا (۱) محاورہ (۲) کترا جانا۔ اغماض کرنا۔ آنکھ چرا لینا۔  
 آنکھ بچا کر چھ کرنا (۱) محاورہ (۲) نظر بجا کر کوئی کام کرنا۔ چھپا کر کوئی کام کرنا۔  
 آنکھ بچا کے آنا (۱) محاورہ (۲) چھپ کر آنا۔ چوری چھپے آنا۔  
 آنکھ بچانا (۱) محاورہ (۲) کسی کی نظر سے اپنے کو چھپانا (۳) کترانا۔ نہ دکھائی دینے  
 کا بہانہ کرنا۔ آنکھ چرانا۔  
 آنکھ بچنا (۱) نگاہ چوکنا (۲) خیال ہٹنا۔ دھیان ہٹنا۔  
 آنکھ بچی مال دوستوں کا (۱) مثل (۲) اسی نظر چوکی اور چیز غائب ہوتی۔  
 آنکھ بچے کا چاٹنا۔ لڑکوں میں ایک قسم کی شرط بندی جاتی ہے کہ جو جسے ذرا  
 بے خبر دیکھے اسی کے چاٹنا جڑ سے  
 آنکھ بدل جانا (۱) محاورہ (۲) پہلی سی نظر نہ رہنا۔ اگلی سی بات نہ رہنا (۳)

خاموش رہنا۔ نہ رونا۔  
 آنسو توڑ (۱) مذا غیر موسم کی بارش۔ بن رت کا لینہ۔  
 آنسو کھٹنا (۱) محاورہ (۲) رونا موقوف ہونا۔ رونا بند ہونا۔  
 آنسو ٹیکانا (۱) محاورہ (۲) رونا۔  
 آنسو ٹیک پڑنا (۱) محاورہ (۲) آنسو گر پڑنا۔ کسی صدمہ کے اثر سے رو پڑنا۔  
 آنسو چلنا (۱) محاورہ (۲) اشک رواں ہونا۔ آنکھوں سے پانی جاری ہونا۔  
 آنسو خشک ہونا (۱) محاورہ (۲) آنسو سوکھنا۔  
 آنسو ڈالنا (۱) محاورہ (۲) آنسو کرنا۔ رونا۔  
 آنسو ڈبڈبانا (۱) محاورہ (۲) آنکھوں میں آنسو بھر آنا۔  
 آنسو ڈھال (۱) مٹا (۲) گھوڑوں کی ایک بیماری جس سے ان کی آنکھوں  
 سے ہر وقت پانی بننا رہتا ہے۔  
 آنسو کی دھار۔ آنسوؤں کا تار۔ بے در پے آنسو نکلنا۔  
 آنسو کی لڑی (۱) آنسوؤں کا تار (۲) مسلسل آنسو بہنا۔  
 آنسو گرانا (۱) محاورہ (۲) ماتم کرنا۔ پر سادینا۔ رونا (۳) تعزیت کرنا۔  
 آنسو (گرہ پڑنا) کرنا (۱) محاورہ (۲) آنسو ٹپکنے لگنا۔  
 آنسو گیس (Tear Gas) ایک قسم کی گیس جس سے آنکھ میں مچھلی  
 سی لگتی ہیں اور پانی بہنے لگتا ہے۔ غیر قانونی ہجوم کے مظاہرہ کو منتشر  
 کرنے کے لیے پولیس استعمال کرتی ہے۔  
 آنسو نکل (آنا) پڑنا (۱) محاورہ (۲) آنسو ٹپک پڑنا۔ بے اختیار آنسو گرنا۔  
 آنسو نکلنا (۱) محاورہ (۲) آنسو بہنا۔  
 آنسوؤں سے پیاس نہیں بھتی (۱) مثل (۲) دل کی حسرت نہیں  
 نکلتی۔ غم دور نہیں ہوتا۔  
 آنسوؤں سے منہ دھوتا (۱) محاورہ (۲) زار زار رونا۔ بہت رونا۔  
 آنسوؤں کا تار (بندھنا) چلنا (۱) محاورہ (۲) زار زار رونا۔ زار و قطار رونا۔  
 آنسوؤں کا تار نہ ٹوٹنا (۱) محاورہ (۲) مسلسل رونا۔  
 آنسوؤں کا پچھالا (۱) مذا (۲) وہ چال جو آنسوؤں کی گرمی سے پڑ جائے۔  
 آنسوؤں کی جھڑی لگنا (۱) محاورہ (۲) مسلسل روتے رہنا۔  
 آنسوؤں کی سیلی۔ آنسوؤں کا تار۔ آنسوؤں کی لڑی۔  
 آنسوؤں کے تار باندھنا (۱) محاورہ (۲) برابر آنسو بہاتے جانا۔  
 آنسوؤں کے دریا میں نہانا (۱) محاورہ (۲) بہت زیادہ رونا۔ اتنا رونا  
 کہ آنسوؤں سے منہ بھیگ جائے۔  
 آنسو (آ۔ن۔سہ) [ع۔ص] محبت کرنے والی۔ کنواری لڑکی۔ مس  
 آنک اس ۱۔ مٹا (۱) نشان (۲) حرف (۳) بات (۴) حصہ۔ (۸)  
 چھڑے یا بیل گاڑی کی بلیوں کے نیچے دیا ہوا لکڑی کا مضبوط ڈھانچہ  
 جس میں پیسے کی ڈھری ڈالی جاتی ہے (۹) عدد۔ ہندسہ۔ رقم۔ نمبر (۱۰)  
 بکتہ۔ حرف سکہ۔ ضرب سکتہ (۱۱) چای۔ اندازہ۔ مشکل۔  
 آنکڑا (آنک۔ڈا) [مذ۔ا۔و] (۱) عدد۔ کنتی کا نشان (۲) بیج (۳) موشوں  
 کی ایک بیماری (۴) کانٹا۔ بک۔ بوہے کا کانٹا۔ آرمی لکڑی۔  
 آنکس (آں۔س) [مذ۔ا۔و] بانک۔ آنکڑا۔ ہاتھی کو ہانکنے کا اکر۔  
 آنکنا (آنک۔نا) [مذ۔ا۔و] (۱) اندازہ کرنا۔ تخمینہ کرنا (۲) جھاڑنا۔ دم کرنا۔



بے مروتی اور بے رخی کرنا۔ بے وفائی کرنا۔  
 آنکھ برابر کرنا (۱) محاورہ آنکھ ملانا۔ آنکھ سامنے کرنا۔ آنکھ رو برو کرنا۔  
 آنکھ برابر نہ کر سکتا (۱) محاورہ آنکھ نہ ملا سکتا۔ شرمندہ ہونا۔ بچل ہونا (۲)  
 جھا کرنا۔ شرم کرنا۔ لاج کرنا۔  
 آنکھ بگڑنا (۱) محاورہ آنکھ میں پانی اتر آنا۔ جلا پڑ جانا۔ بینائی میں فرق آنا۔  
 آنکھ بند کر کے کچھ دے دینا (۱) محاورہ بے دیکھے بھالے دے دینا (۲)  
 پوشیدہ سلوک کرنا (۳) جی کھڑا کر کے کچھ دے دینا۔  
 آنکھ بند کر کے کچھ کرنا (۱) محاورہ آنکھ میخ کے کوئی کام کرنا (۲) بے پردائی  
 سے کچھ کام کرنا بے سوچے سمجھے کام کرنا۔  
 آنکھ بند کر لینا (۱) محاورہ (۱) آنکھ موند لینا۔ سو جانا (۲) بے خبر ہو  
 جانا۔ توجہ اٹھا لینا (۳) مرجانا۔ دنیا سے گزر جانا (۴) غم و پیمان سے پھر  
 جانا۔ بے وفا ہو جانا (کنایت) تصور باندھنا۔  
 آنکھ بند کیے چلے جاؤ (۱) مثل بے دھڑک چلے جاؤ بے خوف اور بے  
 کھچے چلے جاؤ (۲) سیدھے چلے جاؤ۔  
 آنکھ بند کی سال گزرا (۱) مثل بہت جلد ایک سال گزر گیا۔  
 آنکھ بند ہو جانا (۱) محاورہ (۱) سو جانا (۲) مرجانا (۳) خوف چھاجانا۔  
 آنکھ (آنکھیں) بنوانا (۱) محاورہ (۱) آنکھ یا آنکھیں درست کرانا۔ آنکھ کی  
 پتلی کو صاف کرنا (۲) شیشے یا پتھر کی آنکھ بنوانا۔  
 آنکھ بھرتا (۱) محاورہ آنکھوں میں آنسو آ جانا۔  
 آنکھ بھر کر (کے) دیکھنا (۱) محاورہ پوری طرح دیکھنا۔ گہری نگاہ سے دیکھنا۔  
 آنکھ بھر لانا (۱) محاورہ آب دیدہ ہونا۔  
 آنکھ بھول گئی (۱) محاورہ (۱) بھول کر ڈال کر قمر کی نظر سے دیکھنا (۲)  
 غصہ ہونا۔ خفا ہونا (۳) ناچیز سمجھنا۔ جھیر جانا۔  
 آنکھ بھول چڑھانا (۱) محاورہ (۱) ترش رد ہونا۔ تیوری چڑھانا۔ خفا ہونا۔  
 (۲) بگڑنا۔ نفرت کرنا۔  
 آنکھ بیٹھ جانا (۱) محاورہ آنکھ پھوٹ جانا۔ اندھا ہو جانا۔  
 آنکھ پر پردہ پڑنا (۱) محاورہ (۱) غافل ہونا۔ دھوکا کھانا۔ فریب میں آ جانا۔  
 آنکھ پڑنا (۱) محاورہ (۱) گرفت کرنا۔ قابل اغتراض لفظ کو فوراً دیکھ لینا  
 (۲) نگاہ پڑنا (۳) شوقیہ نگاہ پڑنا (۴) طبع اور رجحان کی نگاہ پڑنا۔ للٹ  
 سے دیکھنا (۵) حسد کی نگاہ پڑنا۔ رشک سے دیکھنا (۶) توجہ کی نظر پڑنا  
 میل ہونا (۷) اتفاقاً نظر پڑنا (۸) ذلت اور حقارت کی نگاہ پڑنا [۵]  
 شوق ہونا۔  
 آنکھ پھینکنا (۱) محاورہ (۱) آنکھیں پھاڑنا (۲) ڈور اندیش ہونا۔  
 آنکھ پھینکنا (۱) محاورہ (۱) آنکھ نم ہونا۔ آنسو آنا (۲) شرمانا۔ بھجانا  
 آنکھ پھینکنا (۱) محاورہ (۱) نظر پھینکنا۔ نگاہ بدلنا۔  
 آنکھ (آنکھیں) پھاڑ پھاڑ کے دیکھنا (۱) محاورہ (۱) بڑے غور سے دیکھنا  
 (۲) حیرت کی نگاہ سے دیکھنا (۳) محبت اور پیار کی نگاہ سے دیکھنا۔  
 آنکھ پھینکنا (۱) محاورہ (۱) آنکھ بند کر لینا۔ نہ دیکھنا۔  
 آنکھ (بھر جانا) پھینکنا (۱) محاورہ (۱) نگاہ پھینکنا۔ رخ پھینکنا (۲) دشمن ہونا۔  
 بیزار ہو جانا۔ خفا و ناراض ہونا۔

آنکھ پھینکنا۔ خود بخود پلک یا پوٹے میں حرکت ہونا۔ پوٹوں کا جنبش  
 کرنا۔ شکون لینا۔  
 آنکھ پھینک کے بائیں بصر ملے یا سائیں (۱) مثل عورت کی بائیں آنکھ  
 آنکھ پھینک کے دہنی ماں ملے یا بہنی (۱) پھینک کے تو کہتے ہیں کہ بھائی یا  
 خاندن سے ملاقات ہوگی۔ مرد کی دائیں آنکھ پھینک کے تو کہتے ہیں کہ ماں  
 بہن سے ملاقات ہوگی۔  
 آنکھ (آنکھیں) پھوٹ جانا (۱) محاورہ (۱) آنکھ کا کسی ضرب یا صدمہ سے جانا  
 رہنا۔ اندھا ہو جانا۔  
 آنکھ پھولنی پھوٹ گئی (۱) مثل ابلا سے ایک دفعہ نقصان ہوا تو ہوا مگر  
 آئے دن کھڑا تو مٹ گیا۔  
 آنکھ پھوٹنے کی تو کیا بھوں سے دیکھیں گے (۱) مثل جو چیز جس کام کا  
 ہے وہ کام اسی سے نکلتا ہے۔  
 آنکھ پھوٹ پھوٹا (۱) مذابے مروت۔ احسان فراموش۔ حاسد (۲) ایک  
 قسم کا بڑا جوڑ تک مار کر آنکھ پھوٹ دیتا ہے۔  
 آنکھ (آنکھیں) پھوٹ لینا (۱) محاورہ اپنے آپ کو اندھا کر دینا  
 آنکھ (آنکھیں) پھوٹنا (۱) محاورہ (۱) اندھا کرنا۔  
 آنکھ (آنکھیں) پھینکنا (۱) محاورہ (۱) بے مروت ہو جانا۔  
 (۲) مرنا۔ دنیا سے رخصت ہونا۔  
 آنکھ پھینکنا۔ دیکھنے آنکھ پھینکنا۔  
 آنکھ پھینک کرنا (۱) محاورہ دیکھنے یا پھر کھنے کی بیانت پیدا کرنا۔  
 آنکھ تاقبجانا (۱) محاورہ اتور سے غم و غمہ دریافت کر لینا۔  
 آنکھ (آنکھیں) طوطے کی طرح بدل لینا (۱) محاورہ (۱) بے مروتی کرتے  
 دیر نہ لگنا۔  
 آنکھ (آنکھیں) کھنڈی کرنا (۱) محاورہ تسلی و تشفی دینا۔ دل خوش کرنا۔  
 آنکھ ٹھیک کرنا (۱) محاورہ بے وفائی کرنا۔ ترش روتی سے پیش آنا۔  
 آنکھ ٹھیک ہی ہونا (۱) محاورہ بر تم ہونا۔ ترش رد ہونا۔  
 آنکھ جھینپنا (۱) محاورہ شرماتا۔ نظر نیچی ہونا۔  
 آنکھ چرا جانہ (۱) محاورہ آنکھ بچا جانا۔ کترا جانا۔  
 آنکھ چرا کر دیکھنا (۱) محاورہ (۱) دوسرے کی نگاہ بچا کر دیکھنا۔ کن آنکھوں  
 سے دیکھنا۔  
 آنکھ چرا کر کرنا (۱) محاورہ (۱) نظر بچا کر کوئی کام کرنا۔ چوری چھپے کام کرنا۔  
 آنکھ چرانا (۱) محاورہ (۱) غماض کرنا (۲) غرور۔ شرم یا کراہیت کی وجہ  
 سے نہ دیکھنا۔  
 آنکھ چمکانا (۱) محاورہ (۱) آنکھ مٹکانا۔ دیدے مٹکانا۔  
 آنکھ (آنکھیں) چندھی ہونا (۱) محاورہ (۱) بیماری کے سبب آنکھ پوری نہ  
 کھلنا۔ آشوب پچشم ہونا۔  
 آنکھ چوگنا (۱) محاورہ (۱) نظر بچنا۔ غافل ہونا۔  
 آنکھ چھبنا لینا (۱) محاورہ (۱) آنکھ چھبنا (۲) شرم کرنا (۳) پرانی  
 واقفیت کو فراموش کرنا (۴) مغرور ہونا۔  
 آنکھ (آنکھیں) چیر چیر کر دیکھنا (۱) محاورہ (۱) آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر دیکھنا۔



آنکھ (آنکھیں) اخیر ہونا (۱۱- محاورہ) آنکھ میں چکا چوند ہو جانا۔  
 آنکھ (ادب) ادب کر دیکھنا (۱۱- محاورہ) آنکھ میچ کر دیکھنا۔  
 آنکھ (دکھانا) دکھلانا (۱۱- محاورہ) گھوڑ کر دیکھنا (۲۱- خشکی کی نظر سے دیکھنا۔ چشم نمائی کرنا۔ کھر کی دینا (۲۱) اشارہ و کنا یہ کرنا۔ آنکھوں ہی آنکھوں میں بائیں کرنا (۳) علاج کی غرض سے معالج کو آنکھوں کا معاینہ کرنا۔  
 آنکھ (دھونی) دھلانی ہے (۱۱- مثل) آنکھ بالکل صاف ہے (۲۱) ذرا بھی حیا نہیں ہے۔ مردت نہیں ہے۔ دھٹائی ہے۔  
 آنکھ (دیکھتے) جانا (۱۱- محاورہ) منشا معلوم کرتے رہنا۔ اندازہ لگاتے جانا۔  
 آنکھ (دیکھ کے) کچھ کرنا (۱۱- محاورہ) منشا سمجھ کر کام کرنا۔  
 آنکھ (دیکھنا) (۱۱- محاورہ) صحبت برتنا۔ تعلیم پانا۔ تربیت پانا۔  
 آنکھ (ڈالنا) (۱۱- محاورہ) (۱۱) منظر کرنا۔ سرسری نظر سے دیکھنا (۲۱) راغب ہونا  
 آنکھ (رگانا) توجہ کرنا (۲۱) نیت رکھنا۔  
 آنکھ (آنکھیں) ڈبڈبانا (۱۱- محاورہ) آنسو بھر آنا۔ آبدیدہ ہونا۔  
 آنکھ (دھکنا) (۱- محاورہ) آنکھ بند کرنا۔ آنکھ موندنا۔  
 آنکھ (رکھنا) (۱- محاورہ) (۱۱) پیار کی نظر سے دیکھنا۔ محبت رکھنا (۲۱) اس کرنا۔ امید رکھنا۔  
 آنکھ (آنکھیں) روشن ہونا (۱۱- محاورہ) کسی کو دیکھ کر خوش ہونا۔ دیکھ کر مسرور ہونا۔  
 آنکھ (سامنے) نہ کرنا (۱- محاورہ) نظر سامنے نہ کرنا۔ شرمانا۔  
 آنکھ (سامنے) نہ ہونا (۱۱- محاورہ) (۱۱) روبرو نہ ہونا (۲۱) کسی چیز کے دیکھنے کی برداشت نہ کرنا (۲۱) شرم کے مارے آنکھ نہ اٹھانا۔  
 آنکھ (آنکھیں) سرخ ہونا (۱۱- محاورہ) غصہ کرنا۔ خفا ہونا۔ لال پیلا ہونا۔  
 آنکھ (سیدھی) رکھنا (۱۱- محاورہ) مہربانی کی نظر ہونا۔ اچھا برتاؤ ہونا۔  
 آنکھ (سے) آنکھ ملانا (۱۱- محاورہ) آنکھ چار ہونا (۲۱) برابری کرنا (۳۱) محبت کرنا۔  
 آنکھ (سے) آنکھ ملنا (۱۱- محاورہ) چون نظر ہو جانا۔ روبرو ہونا۔ محبت ہونا۔  
 آنکھ (سے) ادھل ہونا (۱۱- محاورہ) آنکھ کے سامنے نہ ہونا۔ نظر سے دور ہونا۔  
 آنکھ (سے) ٹپ آنسو کرنا (۱۱- محاورہ) آنکھ سے منواتر آنسو کرنا۔  
 آنکھ (سے) دیکھ کے کچھ کرنا (۱۱- محاورہ) سوج سمجھ کر کوئی کام کرنا۔ دیکھ بھال کر کوئی کام کرنا۔  
 آنکھ (سے) دیکھنا (۱۱- محاورہ) اپنی نظروں سے دیکھنا  
 آنکھ (سے) سلام لینا (۱۱- محاورہ) آنکھ کے اشارے سے سلام کا جواب دینا۔  
 آنکھ (سے) گزرتا (۱۱- محاورہ) نظر سے گزرتا۔ بے قدر ہونا۔ ذلیل و خوار ہونا۔ عزت باقی نہ رہنا۔  
 آنکھ (سے) لہو ٹپکنا (۱۱- محاورہ) آنکھ سے خون جاری ہونا۔ رونے میں مبالغہ کے لیے بولنے ہیں۔  
 آنکھ (سے) نکل جانا (۱۱- محاورہ) دیکھنے میں آنا۔ نگاہ سے گزر جانا۔  
 آنکھ (سینکنا) سینکا (۱۱- محاورہ) (۱۱) آنکھ گرم کرنا (۲۱) حسینوں کو دیکھنا۔  
 آنکھ (سے) باز کرنا۔  
 آنکھ (سے) نہ دیکھنا (۱۱- محاورہ) نظر نہ کرنا۔ خیال میں نہ لانا۔ حقیقت بھنا۔  
 آنکھ (شرمانا) (۱۱- محاورہ) جبا کرنا۔ لاج کرنا۔  
 آنکھ (کا) اندھا کانٹھ کا پورا (۱۱- مثل) بے وفوف مالدار۔ نادان۔ فضول خرچ

آنکھ کا پانی (ڈھلنا) مرنا (۱۱- محاورہ) بے شرم ہونا۔ بے حیا ہونا۔ لاج نہ رہنا۔  
 آنکھ کا پردہ (۱۱- محاورہ) (۱۱) آنکھ کی جھلی (۲۱) آنکھ کا لحاظ۔ آنکھ کی لاج  
 آنکھ کا تارا (۱۱- محاورہ) (۱۱) آنکھ کا تیل۔ آنکھ کی تیلی (۲۱) آنکھ کی روشنی۔ آنکھ کی جوت۔ نور۔ اجالا (۳۱) نہایت پیارا۔ نہایت عزیز (۲۱) مجازاً بیٹا۔  
 آنکھ کا تارا ہونا (۱۱- محاورہ) بہت عزیز اور پیارا ہونا۔  
 آنکھ کا جالا (۱۱- مذ) جھلی جو آنکھ کی تیلی پر آجاتی ہے۔  
 آنکھ کا حجاب۔ آنکھ کی شرم۔ حیا۔  
 آنکھ کا ڈورا (۱۱- مزید) جاگنے یا نشتے کی صورت میں آنکھ کی سفیدی پر ابھر آنے والی سرخ رگیں۔  
 آنکھ کا ڈھلکا (۱۱- مذ) ایک بیماری جس میں آنکھ سے پانی بہتا رہتا ہے۔  
 آنکھ کا ڈھیللا (۱۱- مذ) آنکھ کے اندر کا گول حصہ جس میں تیلی ہوتی ہے۔  
 آنکھ کا غبار (۱۱- مذ) آنکھ کا دھندلا پن۔ آنکھ سے صاف نظر نہ آنا۔  
 آنکھ کا کاحل چرانا (۱۱- محاورہ) چوری کے فن میں یکتا ہونا۔ کمال عیار ہونا۔  
 آنکھ کا لہو کی بونی ہو جانا (۱- محاورہ) آنکھ کا سرخ ہو جانا۔  
 آنکھ کان سے درست ہے (۱۱- مثل) بالکل درست ہونا۔ جس جانور میں کوئی عیب نہ ہو اس کی نسبت بولا جاتا ہے۔  
 آنکھ (کھل جانا) کھلنا (۱- محاورہ) جاگ اٹھنا۔ نیند سے بیدار ہونا (۳) عبرت حاصل کرنا (۳۱) حقیقت حال معلوم ہونا۔  
 آنکھ کھولنا (۱۱- محاورہ) (۱۱) جاگنا۔ بیدار ہونا (۲) ہوش بھگانا (۳۱) پیدا ہونا۔  
 آنکھ کی بدی لہرائی (بھوٹوں کے آگے) (۱۱- مثل) کسی شخص کا عیب یا قصور اس کے عزیز یا دوست کے آگے بیان کرنا۔  
 آنکھ کی پتلی (۱۱- مٹ) مرد مک چشم (۲۱) لاڈلا۔ نہایت پیار۔  
 آنکھ کی پتلی (پھر جانا) پھرتا (۱- محاورہ) علامت مرگ کا ظاہر ہونا۔  
 آنکھ (آنکھوں) کی ٹھنڈک (۱۱- مٹ) وہ عزیز دوست یا پیارے دیکھ کر آنکھیں ٹھنڈی ہوں۔  
 آنکھ کی حیا (۱۱- مٹ) آنکھ کا لحاظ  
 آنکھ کی تیل (۱۱- مٹ) آنکھ سے بہنے والا پانی۔  
 آنکھ کی کھچھ (۱۱- مٹ) وہ گفت جو آنکھ کے کونوں میں جمع ہو جاتی ہے۔  
 آنکھ کی کھچھ۔  
 آنکھ کی مردت (۱۱- مٹ) شرم حیا۔ عورت کا فطری حجاب۔  
 آنکھ کے آگے، آنکھ کے سامنے (۱۱) آنکھ کے روبرو (۲۱) موجودگی میں۔  
 آنکھ کے بل جلنا (۱۱- محاورہ) انتہائے مشوق کا اظہار کرنا  
 آنکھ (کا) گڑنا (۱- محاورہ) گہری نگاہ سے دیکھنا۔ نظر جا کر دیکھنا۔  
 آنکھ گرم کرنا (۱۱- محاورہ) نظارہ بازی کرنا  
 آنکھ گرم کرنا (۱۱- محاورہ) نظر جینا۔  
 آنکھ لال کرنا (۱۱- محاورہ) آنکھ سرخ کرنا۔ غضب ہونا۔ خفا ہونا۔ خستگین ہونا۔ غصے ہونا۔  
 آنکھ لجانا (۱۱- محاورہ) شرم و حیا سے آنکھ نیچی کرنا۔ لحاظ کرنا۔ مردت کرنا۔  
 آنکھ لجانا (۱۱- محاورہ) جبا کرنا۔ لاج کرنا۔  
 پر لڑکے کے عزیزوں سے آنکھیں نیچی کر لیتے ہیں تو اس سے معلوم ہو



جانا ہے کہ نہیں نانا منظور ہے۔  
 آنکھ (آنکھیں) لڑانا (۱- محاورہ) (۱۱) آنکھ ملانا (۲) گھورنا تاکنا۔ لگاؤ سے دیکھنا (۳) عاشق ہونا (۴) مقابلہ کرنا۔  
 آنکھ لڑ جانا (لڑنا) (۱- محاورہ) شفیقتہ ہونا۔ فریفتہ ہونا۔ عاشق ہو جانا۔  
 آنکھ لگانا (۱- محاورہ) (۱۱) محبت کرنا۔ آشنائی کرنا (۲) سونا تاک میں ہونا  
 آنکھ لگ جانا (لگنا) (۱- محاورہ) (۱۱) نیند آنا (۲) عاشق ہو جانا۔ محبت ہو جانا۔  
 آنکھ لگی (۱- مٹا) آشنا عورت۔ ناجائز تعلق رکھنے والی عورت۔  
 آنکھ لپکانا (۱- محاورہ) جی لپکانا۔ خواہش مند ہونا۔  
 آنکھ لپکانی، سوئی لپکانا (۱) نہایت محبت سے دیکھنا۔ پیار اور بے تابی سے دیکھنا (۲) حرص یا اڑھ کی نظر سے دیکھنا۔  
 آنکھ مارنا (۱- محاورہ) (۱۱) آنکھ سے اشارہ کرنا۔ پلک مارنا۔ چشمک زنی کرنا۔ کسی کام کے کرنے کو آنکھ سے منع کرنا (۳) غمزہ کرنا۔  
 آنکھ مچ جانا (۱- محاورہ) (۱۱) آنکھ بند ہو جانا (۲) مرجانا۔ جہان سے کوچ کرنا۔  
 آنکھ مچکانا (۱- محاورہ) بار بار آنکھ کو کھولنا اور بند کرنا۔ آنکھ مٹکانا۔ پلکیں مارنا  
 آنکھ مچولی (۱- مذ) بچوں کا ایک کھیل جس میں ایک لڑکے کی آنکھیں بند کر کے باقی لڑکے چھپ جاتے ہیں۔ پھر وہ آنکھیں کھول کر ڈھونڈتا پھرتا ہے اور جسے پا کر چھپ لیتا ہے اسے آنکھ بند کر کے بیٹھتا پڑتا ہے۔  
 آنکھ ملانا (۱- محاورہ) (۱) متوجہ ہونا۔ آنکھ لڑانا۔ ٹھٹکی باندھ کر دیکھنا (۳) سامنے ہونا۔ ملاقات کرنا۔  
 آنکھ ملنا (۱- محاورہ) (۱۱) مقابل ہونا (۲) نگاہ لڑنا۔ محبت ہو جانا۔  
 آنکھ منڈنا (۱- محاورہ) آنکھ بند ہونا (۲) سونا۔ آنکھ لگنا۔ نیند آ جانا۔ (۳) مرجانا (۴) بے خبر ہونا۔  
 آنکھ مندی اندھیرا پاک (۱- مثل) آنکھ بند ہونے کے بعد اندھیرا ہی اندھیرا ہے۔  
 آنکھ موٹی دھپ۔ بچوں کا ایک کھیل۔ ایک بچہ کی آنکھیں بند کر کے اس کے سر پر دھپ لگاتے ہیں اور پھر پوچھتے ہیں کہ کس نے مارا۔ اگر وہ ٹھیک بتا دے تو لگانے والا چور بن جاتا ہے اور سب اس کے دھپ لگاتے ہیں۔ اسے دھول دھپا بھی کہتے ہیں۔  
 آنکھ موند کے کام کرنا (۱- محاورہ) بے دیکھے بھلے کوئی کام اختیار کرنا۔ بے سمجھے بوجھے کسی کام کو کر بیٹھنا۔  
 آنکھ موندنا (میچنا) (۱) آنکھ بند کرنا۔ آنکھ میچنا (۲) سونا۔ آرام کرنا (۳) بے خبر ہونا (۴) مرجانا۔  
 آنکھ میلی کرنا (۱- محاورہ) (۱۱) بے مروت ہو جانا (۲) تیوری پر بل لانا۔  
 آنکھ میلی نہ ہونا۔ رنج نہ کرنا۔ کسی صدمے سے متاثر نہ ہونا۔  
 آنکھ میں آنکھ (ڈالنا) ڈال کر دیکھنا (۱- محاورہ) ڈھٹائی سے دیکھنا گھو کر دیکھنا۔ بے جاتی دے باکی سے دیکھنا۔  
 آنکھ میں بسنا (۱- محاورہ) نظر میں سمانا۔ پسند آنا۔  
 آنکھ میں تختی شرم دل کی تختی شرم (۱- مثل) عورتیں ایسی جگہ بولتی ہیں جہاں کوئی عورت مروت سے نہ ماننے والی کوئی بات بھی مان لے۔

آنکھ (آنکھیں) میں چھینا (۱- محاورہ) آنکھوں میں سمانا آنکھوں میں بسنا  
 آنکھ میں خار ہونا (۱- محاورہ) ناگوار ہونا۔ آنکھوں کو برا لگنا۔  
 آنکھ میں ذرا (آنسو) سیل نہیں (۱- مثل) فردا مروت اور رحم نہیں ہے اور بے شرم ہے۔  
 آنکھ میں خاک اِدھول (جھونکنا) (۱- محاورہ) دھوکا دینا۔ فریب دینا۔  
 آنکھ میں ذرا پانی نہیں۔ دل میں بالکل رحم نہیں۔ بالکل شرم نہیں۔  
 آنکھ میں سرتے کی حرکت کھینچنا (۱- محاورہ) آنکھوں میں ہلکا سا سرمردگانہ آنکھ میں سمانا (۱- محاورہ) آنکھ میں چھینا۔ آنکھ میں بسنا۔  
 آنکھ میں شرم ہو تو جہاز سے بھاری ہے (۱- مثل) شرم دھیا بہت قابل عزت چیز ہے۔  
 آنکھ میں اکھب جانا (کھینچنا) (۱- محاورہ) نظر پہ چڑھنا۔ پسند آ جانا۔  
 آنکھ میں کھٹکنا (۱- محاورہ) آنکھ میں چھیننا۔ ناگوار ہونا۔  
 آنکھ میں مروت نہ ہونا (۱- محاورہ) بے مروت ہونا۔ طوطا چشم ہونا۔  
 آنکھ (آنکھوں) میں موتی کوٹ کوٹ کر بھرے ہونا (۱- محاورہ) آنکھوں کا بہت خوبصورت ہونا۔  
 آنکھ میں میل ہے اور اس میں میل نہیں (۱- مثل) کسی چیز کی صفائی اور ستھری پن کے متعلق مبالغہ کے طور پر کہتے ہیں۔  
 آنکھ میں نیل کی سلانی پھیرنا (۱- محاورہ) اندھا کرنا، نیل کی سلانی پھیرنے سے آنکھیں اندھی ہو جاتی ہے۔  
 آنکھ ناک سے درست ہونا (۱- محاورہ) بے عیب ہونا۔ تندرست ہونا۔ شکل و صورت میں کوئی خرابی نہ ہونا۔  
 آنکھ ناک سے ڈرتا (۱- محاورہ) کسی کے بھوٹ بولنے پر عورتیں کہتی ہیں کہ خدا سے ڈر۔ ایسا نہ ہو کہ اس کی سزا میں خدا تعالیٰ اندھا یا ذلیل کرنے لگے۔  
 آنکھ خم کرنا (مص) مرکب رونا۔ آبدیدہ ہونا۔  
 آنکھ نہ پڑنا (۱- محاورہ) نظر نہ پڑنا۔ توجہ نہ کرنا۔ خیال نہ کرنا۔ نظر نہ ٹھہرنا  
 آنکھ نہ پیچنا (۱- محاورہ) آنسو نہ ٹکنا (۲) رحم نہ کرنا۔  
 آنکھ نہ پھرنا (۱- محاورہ) بے مروت نہ ہونا۔ بے زار نہ ہونا۔ تیوری پر بل نہ ڈالنا۔  
 آنکھ نہ کھٹرنا (۱- محاورہ) نظر نہ جمانا۔ تاب نہ لانا۔ چکا چوندی لگنا۔  
 آنکھ نہ جمانا (۱- محاورہ) نظر قائم نہ رہ سکتا۔ روشنی یا چمک کی تاب نہ لانا۔  
 آنکھ نہ جھپکنا (۱- محاورہ) (۱۱) پلک سے پلک نہ لگنا۔ نیند نہ آنا (۲) شرمندہ نہ ہونا۔ احسان نہ اٹھانا (۳) بے باک ہونا۔ دلیرانہ مقابلہ کرنا۔  
 آنکھ نہ دیدہ کاڑھے کشیدہ (۱- مثل) لیاقت کچھ نہیں دعویٰ بڑے بڑے  
 آنکھ نہ ڈالنا (۱- محاورہ) توجہ نہ کرنا۔ پروا نہ کرنا۔  
 آنکھ نہ ناک بنو چاند سی (۱- مثل) بد صورتی کی حالت میں سنکار کرنے کی دھن۔ آنکھ ناک نہ ہوتے ہوئے سنکار کے ذریعہ خوبصورت بننے کی کوشش۔  
 آنکھ نیچی (کرنا) ہونا (۱- محاورہ) (۱۱) آنکھ سامنے نہ کرنا (۲) لجانا۔ شرمناک  
 آنکھ والا (۱- مذ) آنکھ رکھنے والا (۲) پہچاننے پرکھنے والا جو ہر شناس (۳) صاحب بصیرت۔



آنکھوں سے کھینچے کھنڈک (۱۱۔ مثل) ہر طرح عیش و آرام ہر پاراحت  
و موجب آرام۔  
آنکھوں سے (۱۱۔ محاورہ) نہایت خوشی سے۔ کمال رضا و رغبت سے۔ دل و  
جان سے۔  
آنکھوں سے آنکھیں ملانا (۱۱۔ محاورہ) نظر رو برو کرنا۔ چار آنکھیں کرنا۔  
آنکھوں سے اترنا (۱۱۔ محاورہ) دل سے اترنا۔ حقیر و ذلیل ہونا۔  
آنکھوں سے اٹھانا (۱۱۔ محاورہ) کمال اعزاز و اکرام سے کسی چیز کو اٹھانا  
نہایت شوق سے اٹھانا۔  
آنکھوں سے اوجھل ہونا (۱۱۔ محاورہ) نظر سے چھپ جانا۔ سامنے سے کہیں  
چلے جانا۔  
آنکھوں سے بجالانا (۱۱۔ محاورہ) کسی حکم کی تعمیل خوشی سے کرنا۔  
آنکھوں سے بلانا (۱۱۔ محاورہ) اشاروں سے بلانا۔  
آنکھوں سے پاؤں لگانا (۱۱۔ محاورہ) حسن عقیدت اور فرط محبت سے  
کسی کے پاؤں کو اپنی آنکھوں سے رگڑنا۔  
آنکھوں سے پردہ اٹھ جانا (۱۱۔ محاورہ) غفلت دور ہو جانا ۱۲۱۔ لاعلمی دور  
ہو جانا۔  
آنکھوں سے تلوے سہلانا (۱۱۔ محاورہ) تلوروں سے آنکھیں ملنا۔ انتہائی  
محبت کا اظہار کرنا۔  
آنکھوں سے جان (دم) نکلنا (۱۱۔ محاورہ) آنکھوں کے رستے سے دم  
نکلنا (۲۱) راہ تکتے تکتے مرجانا۔  
آنکھوں سے چنگاریاں اُڑنا (۱۱۔ محاورہ) بہت جی جلنا۔ بہت دکھ ہونا۔  
آنکھوں سے خون برستا (۱۱۔ محاورہ) بہت غصے میں ہونا۔ خون کے آنسو ہونا۔  
آنکھوں سے دریا بہنا (۱۱۔ محاورہ) بہت زیادہ رونا۔  
آنکھوں سے دیکھنا کبھی کانوں سنا (۱۱۔ مثل) عجیب و غریب یا خلاف  
قیاس واقعہ کا ظہور پذیر ہونا۔  
آنکھوں سے شعلے نکلنا (۱۱۔ محاورہ) بہت زیادہ غصہ آنا۔ آنکھوں میں  
جلن ہونا۔  
آنکھوں سے صورت نہ جانا (۱۱۔ محاورہ) ہر وقت تصور میں نقشہ قائم رہنا  
خیال میں صورت سامنے پھرتی رہنا۔  
آنکھوں سے کام (کرنا) بجالانا۔ عین اطاعت سے کوئی خدمت ادا کرنا۔  
آنکھوں سے گرانا (۱۱۔ محاورہ) ذلیل و حقیر سمجھنا۔  
آنکھوں سے (گر جانا) کرنا (۱۱۔ محاورہ) نظروں سے اترنا۔ بے قدر ہونا۔  
آنکھوں سے (لگا رکھنا) لگا کر رکھنا (۱۱۔ محاورہ) بہت عزیز رکھنا۔  
سینت کر رکھنا۔ حفاظت سے رکھنا۔  
آنکھوں سے لگانا (۱۱۔ محاورہ) بہت قدر کرنا۔ آنکھوں پر رکھنا۔ یہ تعظیم  
اور ادب سے لینا۔  
آنکھوں سے نور جاتا رہنا (۱۱۔ محاورہ) آنکھوں کی روشنی کا جاتا رہنا۔ اندھا  
ہو جانا۔  
آنکھوں سے نیل ڈھلنا (۱۱۔ محاورہ) مرنے لگنا۔ مرنے کی علامت کا  
ظاہر ہونا۔

آنکھ ہی پھوٹی تو بھوڑوں سے کیا کام (۱۱۔ مثل) جب اصل تعلق ہی  
نہیں رہا تو پھر آنا جانا کیسا۔  
آنکھ سے۔ نظر سے۔ نیت سے۔ ارادہ ہے۔ خواہش ہے۔ پسند ہے۔  
آنکھوں سے آنکھوں میں (۱۱۔ تابع فعل) آنکھوں نظروں میں۔ اشاروں ہی  
اشاروں میں۔  
آنکھوں سے آنکھوں میں پیر لینا (۱۱۔ محاورہ) چپکے سے ادا لینا۔ کسی چیز کو  
اس طرح چرانا کہ پتہ نہ چل سکے۔  
آنکھوں سے آنکھوں میں سحر ہو جانا (۱۱۔ محاورہ) ساری رات جاگتے کٹنا۔  
آنکھوں پر (آؤ) آئے (تشریف لایے۔  
آنکھوں پر (بیٹھو) بیٹھے (جم جم آئے۔  
آنکھوں پر بٹھانا (۱۱۔ محاورہ) نہایت عزت اور احترام کرنا۔ بے حد  
مدارات کرنا۔  
آنکھوں پر بیٹی باندھنا (۱۱۔ محاورہ) احسان فراموش ہونا۔ جان بوجھ کر  
بے خبر ہونا ۱۲۲۔ اندھا بننا۔ غافل اور بے خبر ہونا ۱۳۱۔ بے درد اور بے مروت  
ہو جانا۔  
آنکھوں پر پردے (پرودہ) پڑنا (۱۱۔ محاورہ) غفلت کرنا۔ خیال نہ  
رہنا ۱۳۱۔ بے وقوف بن جانا۔ دھوکا کھا جانا ۱۳۱۔ کچھ نہ سوچنا۔  
آنکھوں پر پلکوں کا بوجھ نہیں ہوتا (۱۱۔ مثل) اپنا پیارا کبھی ناگوار  
نہیں گزرتا۔  
آنکھوں پر کھینچی (رکھ لینا) رکھنا (۱۱۔ محاورہ) بے مروتی کرنا۔ دیدہ  
انماض ۱۳۱۔ بے جیابننا۔  
آنکھوں پر جگر دیتا (۱۱۔ محاورہ) کمال محبت اور حسن عقیدت سے بٹھانا۔  
نہایت اعزاز و اکرام کرنا۔  
آنکھوں پر چربی چھا جانا (۱۱۔ محاورہ) اندھا ہو جانا۔ بے مروتی کرنا۔ خیر  
ہو جانا۔ مغرور ہو جانا۔  
آنکھوں پر دیوار اٹھانا (۱۱۔ محاورہ) مگر جانا۔ جان بوجھ کر انکار کرنا۔  
آنکھوں پر رکھنا (۱۱۔ محاورہ) محبت کرنا۔ پیار کرنا۔  
آنکھوں پر قدم رکھیں (۱۱۔ محاورہ) شوق سے آئیں۔ آپ کے قدم سر  
آنکھوں پر۔  
آنکھوں پر (پر) پر قدم لینا (۱۱۔ محاورہ) نہایت عزت سے استقبال کرنا۔  
خاطر کے مارے کچھے جانا۔  
آنکھوں پر ہاتھ رکھ لینا (۱۱۔ محاورہ) جھینپ جانا۔ شرمندہ ہو جانا۔  
آنکھوں تلے پھرنا (۱۱۔ محاورہ) آنکھوں میں بسنا۔ خیال میں پھرنا۔  
آنکھوں تلے نہ اترنا (۱۱۔ محاورہ) غصے کے مارے آنکھوں کا سرخ ہو جانا۔  
غیظ و غضب میں پھر جانا۔  
آنکھوں (دیکھنا) دیکھی۔ چشم دید۔ دیکھا ہوا۔  
آنکھوں دیکھتے (۱۱) جان بوجھ کر (۱۲) دیکھتے دیکھتے (۱۳) اپنے زمانے میں  
آنکھوں دیکھتے مگھی نہیں نگلی جاتی (۱۱۔ مثل) جانتے بوجھے کوئی مشکل میں  
نہیں پڑتا۔  
آنکھوں دیکھیں گے (۱۱۔ مثل) کوئی خوشی دیکھنے کی امید یا خواہش۔



آنکھوں سے نیند اُٹنا (۱) - محاورہ (نیند اُچٹ جانا۔ بے قراری سے نیند نہ آنا۔  
 آنکھوں کا برسنا (۱) - محاورہ (زار زار رونا۔  
 آنکھوں کا پانی ڈھلنا (۱) - محاورہ (بے جیا ہونا بے شرم و بے لحاظ ہونا۔  
 آنکھوں کا تارا (۱) - محاورہ (۱) آنکھ کا تار (۲) نہایت پیارا۔ نہایت عزیز۔  
 آنکھوں کا تیل نکالنا (۱) - محاورہ (دیدہ ریزی کرنا۔ باریک کام کرنا۔  
 نگاہ پر زور ڈالنا۔  
 آنکھوں کو بدل کر دیکھنا (۱) - محاورہ (تور بدل کر دیکھنا۔ ناک بھوں چڑھا کر دیکھنا۔  
 آنکھوں کو تلووں سے ملنا (۱) - محاورہ (کسی دشمن کی آنکھوں کو اپنے پیروں سے ملنا۔ دشمنی کی حسرت نکالنا) بیدخشاہد کرنا۔  
 آنکھوں کو کھو (روا) بیٹھنا (۱) - محاورہ (اندھا ہو جانا۔ آنکھوں کی روشنی کھو دینا۔  
 آنکھوں کی پٹی (۱) - مث (آنکھ کا تارا) بہت پیارا۔  
 آنکھوں کی پتلیاں پھر جانا (۱) - محاورہ (مرنے کے وقت پتلیاں آنکھوں کے گوشوں میں چھپ جانا۔  
 آنکھوں کی سوٹیاں رہ گئی ہیں۔ آنکھوں کی سوٹیاں نکالنی رہ گئی ہیں (۱) - مثل (تھوڑی تکلیف دور ہونی باقی رہ گئی ہے۔  
 آنکھوں کی سیاہی سفید ہونا (۱) - محاورہ (موت کی علامتیں ظاہر ہونا۔ بے دخل ہو جانا۔  
 آنکھوں کی صفائی (۱) - محاورہ (چالاک۔ ڈھٹائی۔ بے مروتی۔  
 آنکھوں کی فصیر کھلواؤ (۱) - محاورہ (دیکھنے کی لیاقت پیدا کرو۔  
 آنکھوں کی قسم۔ عورتیں ان الفاظ سے قسم کھاتی ہیں۔  
 آنکھوں کے آگے (تابع فعل) روبرو۔ منظر کے سامنے۔  
 آنکھوں کے آگے (ابدعاء) تیری یا اپنے پیاروں کی بُری حالت آنکھوں کے سامنے آئے۔  
 آنکھوں کے آگے اندھیرا چھانا (۱) - محاورہ (۱) آنکھوں میں تاریکی بھانا۔ ضعف یا غم کے باعث کچھ نہ سمجھائی دینا۔  
 آنکھوں کے آگے پلکوں کی برائی کرنا (۱) - محاورہ (عزیز یا دوست کی برائی دوست یا عزیز کے روبرو کرنا۔  
 آنکھوں کے آگے پھر جانا۔ آنکھوں کے تلے پھر جانا (۱) - محاورہ (آنکھوں کے نیچے پھر جانا۔ آنکھوں کے نیچے پھرنا تصور میں کسی بات کا ہو ہوسا منے آ جانا۔  
 آنکھوں کے آگے تارے (چھٹنا) چھوٹنا (۱) - محاورہ (صدے یا ضعف سے چکر آ جانا۔ ترمرے نظر آنا۔  
 آنکھوں کے آگے (جہان) عالم تاریک ہونا (۱) - محاورہ (غم کے مارے کچھ نہ دکھائی دینا۔  
 آنکھوں کے آگے چاندنا ہونا (۱) - محاورہ (تورا جانا۔ تارے نظر آ جانا شدت ضعف کے باعث آنکھوں کے سامنے چمکتے ذرے نظر آنا۔  
 آنکھوں کے آگے سامنے رکھنا (۱) - محاورہ (نظروں سے دوانہ

ہونے دینا۔ نظروں میں رکھنا۔ نگاہوں میں رکھنا۔  
 آنکھوں کے آگے سے سرکنا (۱) - محاورہ (نظر سے غائب ہونا۔ پاس سے ہٹنا۔  
 آنکھوں کے آگے ناک۔ سو جھے کیا خاک (۱) - محاورہ (چیز سامنے ہوتے ہوئے نظر نہ آنا۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا عیب دکھائی نہ دینا۔ بیوقوفی کے اظہار کے لئے طنز اُکھا جاتا ہے۔  
 آنکھوں کے اشارے۔ کرشمے۔ غشوے۔ غمزے۔  
 آنکھوں کے لذھے نام (سرخ روشن) مین سکھ (۱) - مثل (غلط نام یا غلط تعریف۔ برعکس نہند نام زنگی کا فرد۔ اس نادان کی نسبت کہتے ہیں جو دانستہ۔  
 آنکھوں کے بل چلنا (۱) - محاورہ (نہایت تعظیم اور ادب سے جانا۔  
 آنکھوں کے تارے پھٹنا (۱) - محاورہ (منظر یا دماغ کی کمزوری کے باعث ترمرے نظر آنا۔  
 آنکھوں کے ترمرے۔ وہ تارے جو چکر، ضعف یا صدے کے باعث آنکھوں کے آگے نظر آتے ہیں۔  
 آنکھوں کے آگے اندھیرا (۱) - محاورہ (کچھ نہ سوچنا۔ چکر آنا۔  
 آنکھوں کے تلے لہو اترنا (۱) - محاورہ (غصے کے مارے آنکھوں کا سرخ ہو جانا۔  
 آنکھوں کے حلقے (۱) - مبر (آنکھوں کے گرد پڑ جانے والے دائرے۔  
 آنکھوں کے ڈورے۔ آنکھوں کی لال لال رگیں، جو نشے یا خمار سے پیدا ہو جاتی ہیں۔  
 آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا جانا (۱) - محاورہ (ضعف یا کمزوری سے آنکھوں میں تاریکی چھا جانا۔  
 آنکھوں کے سامنے رہنا (۱) - محاورہ (آنکھوں سے دور نہ ہونا۔ ہر وقت روبرو رہنا۔  
 آنکھوں کے ناخون (ناخن) لہو (۱) - مثل (غفلت دور کرو۔ کچھ پرکھ پیدا کرو۔ آنکھیں بٹوؤ۔  
 آنکھوں میں (۱) - تابع فعل (نظروں میں نگاہوں میں۔  
 آنکھوں میں آنا (۱) - محاورہ (نظروں میں سمانا۔ نظر پر چڑھنا۔  
 آنکھوں میں باتیں کرنا (۱) - محاورہ (اشاروں میں باتیں کرنا۔  
 آنکھوں میں سخن ہونا (۱) - محاورہ (آنکھوں میں قول و قرار ہونا۔  
 آنکھوں میں بسنا (۱) - محاورہ (آنکھ میں سمانا۔ بھانا۔ پسند آنا۔  
 آنکھوں میں بہا آنا۔ آنکھوں میں بہا رکھنا۔ آنکھوں میں بہا چھانا (۱) - محاورہ (نگاہوں میں خوشی ٹپکنا۔ دل شکفتہ ہونا۔  
 آنکھوں میں بھنگ گھٹنا (۱) - محاورہ (گہرا نشہ ہونا۔ بھنگ کے نشہ میں سرشار ہونا۔  
 آنکھوں میں بیٹھنا (۱) - محاورہ (نظروں میں سمانا۔ نظروں میں بھلا لگنا پسند آنا۔ بھانا۔  
 آنکھوں میں پالنا (۱) - محاورہ (نہایت پیار اور محبت سے پرورش کرنا۔  
 آنکھوں میں پھر جانا (پھرنا) (۱) - محاورہ (نقشہ سامنے آنا۔ کسی چیز کا سماں یاد آ جانا۔



آنکھوں میں پھیکا لگنا (۱۔ محاورہ) نظروں میں اچھا معلوم نہ ہونا۔  
 آنکھوں میں پی جانا (۱۔ محاورہ) ضبط کرنا۔ خاموش رہنا۔  
 آنکھوں میں تلخے چھوٹنا (۱۔ محاورہ) آنکھیں پھوڑنا۔ نہایت تکلیف دینا۔ دشمن سے بدلہ لینا۔  
 آنکھوں میں تگنا (۱۔ محاورہ) نظروں میں چمکا۔ نہایت ہلکا ہونا۔ اندازہ ہونا۔  
 آنکھوں میں تیل لگانا (۱۔ محاورہ) آنکھ کی خرابی کا بہانہ بنا کر تیل لگانے سے آنکھیں آشوب کی ہوئی معلوم ہوتی ہیں۔  
 آنکھوں میں ٹھنڈک پڑنا (۱۔ محاورہ) دل خوش ہونا۔ تسکین ہونا۔ تیلی ہونا۔  
 آنکھوں میں کھڑنا۔ نظروں میں چمکا۔ قدر پانا۔ اچھا معلوم ہونا۔  
 آنکھوں (کے آگے) میں ٹھیسو پھولنا (۱۔ محاورہ) آنکھوں میں سرسوں پھولنا۔ ہر چیز زرد ہی زرد نظر آنا۔ آنکھوں میں زردی چھا جانا۔  
 آنکھوں میں اجان آجی آنا (۱۔ محاورہ) سارے جسم سے روح کا کھنچ کر آنکھوں میں آجانا۔ مرنے کے قریب پہنچنا (۲) آنکھوں کو بھلا معلوم ہونا۔  
 آنکھوں میں چمکا (۱۔ محاورہ) آنکھوں میں تگنا۔ نظر پر چڑھنا (۲) بھلا لگنا۔ پسند آنا (۳) سمجھ میں آجانا۔ انکس جانا۔  
 آنکھوں میں جھٹنے پڑنا (۱۔ محاورہ) کچھ کا کچھ دکھائی دینا۔ آنکھوں میں فرق آنا۔ بینائی میں فرق آنا۔  
 آنکھوں میں جگہ دینا (۱۔ محاورہ) آنکھوں پر بٹھانا۔ تعظیم کرنا۔ عزت سمجھنا۔ قدر کرنا۔  
 آنکھوں میں جہان ادینا اندھیر ہونا (۱۔ محاورہ) غم بارش کے آنکھوں میں جہان ازمانہ عالم سیاہ ہونا مارے کچھ نہ دکھائی دینا۔ شدت غم کے باعث ہر طرف اندھیرا دکھائی دینا۔  
 آنکھوں میں چرانا (۱۔ محاورہ) سب کے سامنے سے چر لینا۔ چوری میں کمال کرنا۔ چالاکی دکھانا۔  
 آنکھوں میں چربی چھانا (۱) آنکھوں پر پردہ پڑنا (۲) مغرور ہونا (۳) اچھے برے میں تمیز نہ کرنا (۴) مستی میں اندھا ہو جانا۔  
 آنکھوں میں چڑھنا (۱) آنکھوں میں چمکا۔ نظر پر چڑھنا (۲) قدر پانا۔ منظور نظر ہونا۔ بھانا۔ پسند آنا۔ بھلا لگنا۔  
 آنکھوں میں چکا چونڈ ہونا (۱۔ محاورہ) تیز روشنی میں نظر قائم نہ رہ سکتا۔ آنکھوں میں چھانا۔ نظروں میں سمانا۔ آنکھوں میں بسنا۔ آنکھوں میں سماں بندھنا۔  
 آنکھوں میں خار (گزرنا۔ لگنا) ہونا (۱۔ محاورہ) ناگوار گزرتا۔ طبیعت پر گراں معلوم ہونا۔ برا لگنا۔ باعث تکلیف ہونا۔  
 آنکھوں میں خاک (۱۔ محاورہ) چشم بدور۔ خدا نظر بد سے بچائے۔ (۲) کچھ نہیں۔ بالکل نہیں۔  
 آنکھوں میں خاک بھی نہ دوں، آنکھوں میں خاک کی چٹکی بھی نہ ڈالوں (۱۔ مثل) کچھ بھی نہ دوں۔ ذرا سی چیز بھی نہ دوں۔  
 آنکھوں میں خاک ڈالنا، چھو لگنا (۱۔ محاورہ) (۱) ظاہریات کو چھیننے کی کوشش کرنا (۲) دھوکا دینا۔ فریب دینا (۳) غائب کر دینا چر لینا  
 آنکھوں میں خون (۱) ترنا (۱) ترنا (۱) محاورہ) بہت غصہ آنا۔ آنکھیں

سرخ ہو جانا۔  
 آنکھوں میں دم اٹکا ہونا۔ آنکھوں میں دم (آنا) ہونا (۱۔ محاورہ) دم آنکھوں میں باقی رہنا۔ نزع میں ہونا۔ موت کا وقت قریب آجانا۔  
 آنکھوں میں دنیا تاریک (سیاہ) ہونا (۱۔ محاورہ) شدت غم سے کچھ دکھائی نہ دینا۔  
 آنکھوں میں رات کاٹنا (۱۔ محاورہ) ساری رات جاگتے گزارنا۔ نیند بالکل نہ آنا۔  
 آنکھوں میں رات گٹنا (۱۔ محاورہ) ایک سے ایک نہ لگنا۔ بالکل نہ سونا۔ بے قرار رہنا۔ بے کل رہنا۔ رات بھر نہ سونا۔  
 آنکھوں میں رسیلا پن ہونا (۱۔ محاورہ) آنکھوں کا خوبصورت ہونا۔  
 آنکھوں میں رکھنا (۱۔ محاورہ) نظروں میں رکھنا۔ نظر بندی میں رکھنا۔  
 آنکھوں سے اوجھل نہ ہونے رہنا۔ ناز اور لاڈ میں پالنا۔  
 آنکھوں میں رہنا (۱۔ محاورہ) سامنے رہنا۔ نکالوں میں رہنا۔ نہایت عزت اور سیانا ہونا۔  
 آنکھوں میں (سب) ہلکا ہونا (۱۔ محاورہ) نظروں میں حقیر ہونا۔ آنکھوں سے کرنا۔ بے قدر اور بے قدر ہونا۔  
 آنکھوں میں سرسوں پھولنا (۱۔ محاورہ) زرد ہی زرد دکھائی دینا (۲) ہر چیز بھلی معلوم ہونا۔ خوش ہونا۔  
 آنکھوں میں سرمہ (دینا) کھلانا (۱۔ محاورہ) سرمہ لگانا۔  
 آنکھوں میں سرمہ کھلانا (۱۔ محاورہ) آنکھوں میں ابھی طرح سرمہ لگنا۔ آنکھوں میں سرمہ پڑنا۔  
 آنکھوں میں سفیدی چھا جانا (۱۔ محاورہ) (۱) اندھا ہو جانا (۲) نہایت پسند آنا۔  
 آنکھوں میں سمانا (۱۔ محاورہ) آنکھوں میں بسنا۔ نظروں میں چڑھنا۔  
 آنکھوں میں سوال و جواب ہونا (۱۔ محاورہ) اشاروں میں بات چیت ہونا۔  
 آنکھوں میں شرم نہ ہو تو ڈھیلے اچھے (۱۔ مثل) جن آنکھوں میں حیاء نہ ہو ان آنکھوں کے ڈھیلوں سے مٹی کے ڈھیلے اچھے۔  
 آنکھوں میں صورت (پھر جانا) پھرتا (۱۔ محاورہ) آنکھوں کے سامنے نقشہ پھر جانا۔  
 آنکھوں میں صبح کرنا (۱۔ محاورہ) جاگتے جاگتے صبح کر دینا۔  
 آنکھوں میں طراوت آنا (۱۔ محاورہ) آنکھوں میں ٹھنڈک آنا۔  
 آنکھوں میں غبار آجانا۔ آنکھوں میں غبار چھا جانا۔ آنکھوں میں غبار ہو جانا۔ (۱۔ محاورہ) دھندلا نظر آنا۔  
 آنکھوں میں کابل بن کر پھرنا (۱۔ محاورہ) آنکھوں میں سمانا۔ آنکھوں میں بسنا۔  
 آنکھوں میں کوٹ کوٹ کر مرنی بھرے ہیں (۱۔ مثل) نہایت خوبصورت آنکھیں ہیں۔  
 آنکھوں میں کھائے جانا (۱۔ محاورہ) پراثر نگاہ ڈالنا۔ رغبت یا غصہ کی نگاہ سے دیکھنا۔  
 آنکھوں میں کھٹنا (۱۔ محاورہ) نظروں میں سمانا۔ بھلا لگنا۔  
 آنکھوں میں کھٹنا (۱۔ محاورہ) نظروں میں برا لگنا۔  
 آنکھوں میں کھٹک ہونا (۱۔ محاورہ) آنکھوں میں درد ہونا۔ چھین ہونا۔



آنکھوں میں کہنا (۱- محاورہ) اشارے سے بات کرنا۔

آنکھوں میں گھر کرنا (۱- محاورہ) آنکھوں میں بننا۔ نظروں میں سمانا۔ غریب ہونا۔

آنکھوں میں لے جانا (۱- محاورہ) سامنے سے چیز دھوکا دے کر چرائینا۔

آنکھوں میں نقشہ پھر جانا (۱- محاورہ) کسی شے کی ہو ہو تصویر نگاہوں

میں آجانا۔

آنکھوں میں (نک) نون ڈالنا (۱- محاورہ) آنکھیں پھوڑنا۔ اندھا کرنا۔

آنکھوں میں نون رانی۔ نظر بد دور کرنا۔

آنکھوں میں نہ آنا (۱- محاورہ) نظروں میں نہ چھنا۔ آنکھوں میں نہ سمانا۔

آنکھوں میں نیند (آجانا) بھر آنا (سمانا) (۱- محاورہ) نیند سے آنکھیں بند

ہونے لگنا۔ اُدکھنا۔

آنکھوں نے دیکھا نہ کانوں نے سنا (۱- محاورہ) کوئی عجیب یا خلاف

قیاس واقعہ ہونا۔

آنکھوں والو! آنکھیں بڑی نعمت ہیں (۱- مقولہ) اندھے فقیر صدا

لگتے وقت کہتے ہیں کہ آنکھیں قدرت کا بہت بڑا عطیہ ہیں۔ ان کی

قد کرو۔

آنکھوں ہی آنکھوں میں (۱- محاورہ) اشاروں ہی اشاروں میں۔

آنکھوں ہی آنکھوں میں چرائینا (۱- محاورہ) سب کے سامنے چرائینا۔

کمال چلا کرنا۔

آنکھیں آسمان سے لگی (رہتی) ہیں (۱- مثل) (۱) نظر ہر وقت اوپر ہوتی

سے نیچے دیکھتے ہی نہیں (۲) حسرت ویاس کا ظہار۔

آنکھیں آٹنا (۱- محاورہ) آنکھیں دکھنے آنا۔ آشوب چشم ہونا۔

آنکھیں ادھر ادھر ہونا (۱- محاورہ) نگاہیں پریشان ہونا۔

آنکھیں ابلے پڑنا (۱- محاورہ) دیدوں کا بہت ابھرنا۔ سخت بیماری کی حالت ہونا۔

آنکھیں اُلٹ جانا (۱- محاورہ) آنکھیں سوج جانا (۲) پتلیاں چرمھ جانا۔

(۳) زیادہ نشہ ہونا (۴) مرنے کے قریب ہونا۔

آنکھیں اُمتڈنا (۱- محاورہ) رونے کا جوش ہونا۔

آنکھیں اندر دھنس جانا (۱- محاورہ) آنکھوں کے ڈھیلوں کا حلقے میں

بیٹھ جانا۔

آنکھیں انکارا بن جانا (۱- محاورہ) غصے یا بیماری سے آنکھیں بہت

سرخ ہو جانا۔

آنکھیں اُور نہ اٹھانا (۱- محاورہ) خوف یا شرم سے آنکھیں اوپچی نہ کرنا۔

لحاظ یا جیسا سے اوپر نہ دیکھنا۔

آنکھیں پچھانا (۱- محاورہ) بڑی خاطر مدارات کرنا۔ نہایت تعظیم و تکریم کرنا۔

آنکھیں بدلنا (۱- محاورہ) نگاہیں پھیر لینا۔ بے توجہی اور بے مروتی کرنا۔

(۲) جان کتنی کے وقت پتلیاں بدلنا۔

آنکھیں بند کر کے کوئی کام کرنا (۱- محاورہ) اندھے پن سے کام کرنا۔

بے تامل کسی بات کو کر بیٹھنا۔

آنکھیں بند کرنا (۱- محاورہ) آنکھیں موندنا (۲) سونا آرام کرنا (۳) مرنا۔

انتقال کرنا۔

آنکھیں بند ہونا (۱) آنکھیں چھنا (۲) نیند آنا۔ غافل ہو جانا (۳) مر جانا۔

آنکھیں بھلانا (۱- محاورہ) روانسا ہو جانا۔ ابدیدہ ہو جانا۔

آنکھیں بے نور ہو جانا (۱- محاورہ) آنکھوں کی روشنی جاتی رہنا۔

آنکھیں پانی ہو کر بہ جانا (۱- محاورہ) اتار ڈالنا کہ آنکھیں خراب ہو جائیں۔

آنکھیں پھرانا (۱- محاورہ) آنکھوں کا بے نور ہونا۔ جان بلیب ہونا۔

آنکھیں پٹ پٹانا (پٹر پٹر مارنا) (۱- محاورہ) جلدی جلدی آنکھیں بند کرنا۔

آنکھیں پتھم ہونا (۱- محاورہ) اندھا ہو جانا۔ آنکھوں میں روشنی نہ رہنا۔

مینائی کا جانا رہنا۔

آنکھیں پُر آب ہونا (۱- محاورہ) آنکھوں میں آنسو آجانا۔

آنکھیں پڑنا (۱- محاورہ) خاص توجہ ہونا۔ التفات کی نظر سے دیکھا جانا۔

آنکھیں پلٹ جانا (پلٹنا) (۱- محاورہ) بے مروت ہو جانا۔ تورا بدل لینا۔

(۲) مغرور ہونا۔

آنکھیں پوچھ ڈالنا (۱- محاورہ) آنسو پوچھ ڈالنا۔ رودھو کہ چکا ہو رہنا۔

آنکھیں پوچھنا (۱- محاورہ) کسی کے آنسو پوچھنا۔ تسلی دینا۔ ڈھارس بندھانا۔

آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر دیکھنا (۱- محاورہ) بہت خود شوق یا رغبت سے

دیکھنا (۲) حسرت سے دیکھنا (۳) مصیبت میں گھبرا کر دیکھنا۔

آنکھیں پھٹ گئی ہیں (۱- مثل) دولت پلٹے مغرور ہو گئے ہیں۔

آنکھیں پھٹنا (۱- محاورہ) حیران ہونا۔ ہکا بکا ہونا (۲) مغرور ہونا (۳)

آنکھوں میں درد ہونا۔

آنکھیں پھٹی جاتی ہیں، آنکھیں پھٹی پڑتی ہیں (۱- مثل) سر اور آنکھوں

میں شدت سے درد ہونے پر کہتے ہیں۔

آنکھیں پھٹی ہوئی ہیں (۱- مثل) بہت کچھ دیکھا ہے۔ فھوڑی سی چیز نظر

میں نہیں سائی۔

آنکھیں پھرا کے رہ جانا (۱- محاورہ) نیور کے مرجانا۔

آنکھیں پھرانا (۱- محاورہ) آنکھیں سچانا۔ عشوہ وغرہ کرنا (۲)

آنکھیں پھر جانا (۱- محاورہ) (۱- محاورہ) دیدے پھر جانا۔ علامت مرگ

ظاہر ہونا (۲) بے مروت ہونا۔ مغرور ہونا (۳) تیوری چڑھنا لینا۔

آنکھیں پھر کانا (۱- محاورہ) ناز و غمزے سے دیدے ٹکانا۔

آنکھیں پھوٹ پھوٹ پھوٹ ہونا (۱- محاورہ) بے اختیار آنسو جاری ہونا۔

آنکھیں پھوٹ جائیں (پھوٹیں) (بد دعا) (۱) دوسرے کو بد دعا کے طور

پر (۲) اپنے متعلق بطور قسم۔

آنکھیں پھیر کے چل دینا (۱- محاورہ) کترا کے نکل جانا۔ منہ پھیر کے چلے جانا۔

آنکھیں پھیر کے ٹوٹے کی سی باتیں کر کے مینا کی سی (۱- مثل) اس

آدمی کی نسبت کہتے ہیں جو میٹھی باتیں کرے اور بے مروت ہو۔ ظاہر کچھ

اور باطن کچھ۔

آنکھیں تریشا (۱- محاورہ) کسی چیز کے دیکھنے کو آنکھوں کا مشتاق ہونا۔

آنکھیں تریش ہونا (۱- محاورہ) نظر سے غصہ ظاہر کرنا۔

آنکھیں تلوڑک سے رگڑنا (ملنا) (۱- محاورہ) عقیدت کا اظہار کرنا۔ اُلفت

ظاہر کرنا (۲) خوشامد کرنا۔

آنکھیں تلی ہونا (۱- محاورہ) نظروں سے کسی بات کی آمادگی ظاہر ہونا۔



آنکھیں تلے اوپر ہو جانا (۱۱۔ محاورہ) نزع کے وقت پتلیاں پھر جانا۔  
 آنکھیں تھک جانا (۱۱۔ محاورہ) دیکھتے دیکھتے آنکھوں کا گھبرا جانا۔ انتظار  
 کی زیادتی کے اظہار کے لیے کہتے ہیں۔  
 آنکھیں تورا جانا (۱۱۔ محاورہ) آنکھیں خیرہ ہو جانا۔ آنکھوں میں اندھیرا آ جانا  
 آنکھیں ٹٹمانا (۱۱۔ محاورہ) آنکھوں کا ذرا ذرا کھلنا۔  
 آنکھیں ٹوٹ آنا (۱۱۔ محاورہ) آنکھیں آ جانا۔ آنکھیں دکھنے آنا۔ آنکھیں جھک آنا  
 آنکھیں ٹھنڈی رہیں۔ اپنی اولاد کی خوشیاں دیکھو اور ان کے دیدار سے  
 ہمیشہ آنکھیں ٹھنڈی رہیں (ادعا)  
 آنکھیں جاتی رہنا (۱۱۔ محاورہ) آنکھوں کی روشنی کا جانا رہنا۔ اندھا ہو جانا۔  
 آنکھیں جلنا (۱۱۔ محاورہ) آنکھوں میں سوزش ہونا۔ آنکھوں میں جلن ہونا۔  
 آنکھیں جھپکنا (۱۱۔ محاورہ) آنکھیں کھلنا اور بند ہونا۔ روشنی کی تاب نہ  
 لانا۔ آنکھیں سامنے نہ ہو سکتا۔ آنکھیں سچی ہونا۔ شرمندہ ہونا (۳۱۔ نیند نہ آنا۔  
 آنکھیں جھکنا (۱۱۔ شرمسار ہونا۔ شرم سے پتلی نگاہ رکھنا۔ (۲۱) آنکھیں دکھنے آنا  
 آنکھیں چار طرف چکر مکر چلی جاتی ہیں (۱۱۔ مثل) شوخی سے نگاہ ایک  
 طرف نہیں ٹھہرتی۔ نہایت شوخی دیدہ ہے۔  
 آنکھیں چار طرف رکھنا رہنا (۱۱۔ محاورہ) چاروں طرف دیکھتے رہنا۔  
 نگرانی رکھنا۔  
 آنکھیں چار نہ کرنا (۱۱۔ محاورہ) آنکھ سے آنکھ نہ ملانا۔ شرمانا۔  
 آنکھیں چار ہونا (۱۱۔ محاورہ) ایک دوسرے کے سامنے ہونا۔ مقابل ہونا۔  
 رو برو ہونا۔ دوچار ہونا۔ ملائی ہونا۔ محبت ہونا۔  
 آنکھیں چراتا (۱۱۔ محاورہ) چشم پوشی کرنا۔ تجاہل عارفانہ کرنا۔ کترانا۔  
 آنکھیں چرنے گئی ہیں۔ کیا آنکھیں غیر حاضر ہیں۔ کیا دکھائی نہیں دے رہا۔  
 جب کوئی شخص اپنے سامنے کی چیز کو نہ دیکھنے تو اس سے یہ کھرتے ہیں۔  
 آنکھیں چڑھانا (۱۱۔ محاورہ) تیوری چڑھانا۔ خفا ہونا۔ خاطر میں نہ لانا۔  
 آنکھیں چڑھنا۔ آنکھیں چڑھی ہوئی ہونا (۱۱۔ محاورہ) آنکھوں میں شراب  
 یا نیند کا شمار ہونا۔  
 آنکھیں چمکانا (۱۱۔ محاورہ) دید سے مٹکانا۔ تازہ خزانے سے آنکھیں گھمانا۔  
 آنکھیں چندھیا جانا (چندھیا نہ (۱۱۔ محاورہ) چمکانا۔ چوند ہونا۔ آنکھیں  
 جھپک جانا۔  
 آنکھیں چندھی ہونا (۱۱۔ محاورہ) آنکھیں چھوٹی ہونا اور پوری نہ کھلنا۔  
 آنکھیں چھت (سے) کو لگ جانا (۱۱۔ محاورہ) آنکھیں اوپر چڑھ جانا  
 آنکھوں کی پتلی پھر جانا۔ علامت مرگ ظاہر ہونا (۲۱) نہایت انتظار کرنا۔  
 نہایت متفکر ہو کر چھت سے آنکھیں لگانا (۳۱) مشکلی بندھ جانا۔ کسی چیز کو  
 گھڑیوں تکنے رہنا۔  
 آنکھیں چیر کے نیک بھرنا (۱۱۔ محاورہ) نیند مٹانے کی تدبیر کرنا۔  
 آنکھیں خون میں ڈوبنا (۱۱۔ محاورہ) مارے غصے کے آنکھیں لال ہونا۔  
 آنکھیں در پر لگی ہونا۔ انتظار میں ہونا۔ راہ دیکھنا  
 آنکھیں دکھانا (دکھانا) دکھلانا (۱۱) غضب کی نگاہ سے دیکھنا۔ ڈرانا۔ دھمکی دینا  
 غصہ کرنا۔ (۲) سامنے ہونا۔ مقابلہ کرنا۔  
 آنکھیں دکھنا۔ آنکھیں دکھنے آنا (۱۱۔ محاورہ) آنکھوں کا سرخ ہو جانا۔

آنکھوں میں آشوب آنا۔  
 آنکھیں دوڑانا (۱۱۔ محاورہ) نظر ڈالنا۔ سب طرف دیکھنا۔ چاروں طرف  
 دیکھنا۔ چاروں طرف نظر ڈالنا۔  
 آنکھیں (دیکھا کرنا) دیکھنے رہنا (۱۱۔ محاورہ) لطف و عنایت کا امیڈ  
 رہنا (۲۱) اطاعت پر اس طرح آمادہ رہنا کہ اشارہ ہوا اور تعمیل کرے۔  
 آنکھیں دیکھتی ہیں (۱۱۔ مثل) آنکھیں منظر میں۔ آنکھیں مشتاق ہیں۔  
 آنکھیں دیکھی ہیں (۱۱۔ محاورہ) صحبت اٹھاتی ہے۔ نہایت پائی ہے۔  
 آنکھیں دیوار ہو جانا (۱۱۔ محاورہ) کچھ نہ سوچنا۔ کچھ دکھائی نہ دینا۔  
 آنکھیں ڈبٹھانا (۱۱۔ محاورہ) آنکھوں میں آنسو آنا۔  
 آنکھیں ڈگر ڈگر کرنا (۱۱۔ محاورہ) آنکھوں سے ناتواقی ظاہر ہونا۔ ضعف بقا  
 اور کمزوری کا اظہار۔  
 آنکھیں دھلنا (۱۱۔ محاورہ) مائل نظارہ ہونا۔ نظارہ کرنا۔  
 آنکھیں ڈھونڈتی ہیں (۱۱۔ محاورہ) آنکھیں دیکھنا چاہتی ہیں۔ دیکھنے کا  
 بے حد اشتیاق ہے۔  
 آنکھیں رکھنا (۱۱۔ محاورہ) تمیز رکھنا۔ تجربہ کار ہونا۔ جاہل اور پرکھ رکھنا۔  
 آنکھیں رگڑنا۔ کسی چیز پر آنکھیں زور زور سے ملنا۔  
 آنکھیں رو رو کے (لال) خون کبوتر کرنا (۱۱۔ محاورہ) بہت رونا جس  
 سے آنکھیں سرخ ہو جائیں۔  
 آنکھیں روشن کرنا (۱۱۔ محاورہ) کسی چیز، عزیز یا بزرگ کے دیدار سے  
 آنکھوں کو تازگی دینا (۲) اندھے کی آنکھوں کو علاج سے بینا کرنا۔  
 آنکھیں روشن ہونا (۱۱۔ مثل) آنکھیں کھلنا۔ آنکھوں میں روشنی ہونا۔ آنکھوں  
 میں بینائی ہونا۔ آنکھوں میں تازگی و طراوت آنا۔  
 آنکھیں زمین سے لگ جانا (۱۱۔ محاورہ) نہایت ندامت حاصل ہونا۔  
 شرم کے مارے آنکھ اٹھ نہ سکتا۔  
 آنکھیں سفید ہونا (۱۱۔ محاورہ) حد درجہ انتظار کرنا (۲) آنکھیں پٹم  
 ہونا۔ اندھا ہونا۔  
 آنکھیں سی کھل گئیں (۱۱۔ مثل) آنکھوں میں طراوت اور تازگی آگئی۔  
 کسی عمدہ چیز کے مل جانے یا نظر آنے پر حیرانی ظاہر کرنے کے لیے یا کسی  
 چیز کی حقیقت معلوم ہو جانے کی جگہ۔  
 آنکھیں سینا (۱۱۔ محاورہ) پلک سے پلک سی دینا (۲) کسی چیز پر ہر وقت  
 لگاتے رہنا۔  
 آنکھیں سینکنا۔ پوٹلی بنا کر آنکھوں پر لگانا (۲) حسینوں کی دید بازی کرنا۔  
 آنکھیں فرش راہ کرنا۔ قدموں کے نیچے آنکھیں بچھا۔ تعظیم و تواضع سے  
 پیش آنا۔  
 آنکھیں قدموں پر ملنا۔ آنکھیں قدموں تلے پھانا (۱۱۔ محاورہ) کمال  
 اخلاص و محبت سے پیش آنا۔ بہت تواضع اور تکریم کرنا۔  
 آنکھیں کھڑوانا (۱۱۔ محاورہ) آنکھوں میں نیند بھرنا۔ نیند کا شمار ہونا (۲) آنکھیں  
 کھلنا (۳) دھونیں کی وجہ سے آنکھوں میں ہلی خارش ہونا۔  
 آنکھیں کور ہو جانا (۱۱۔ محاورہ) اندھا ہو جانا۔  
 آنکھیں کھل جانا (۱۱۔ محاورہ) جاگ اٹھنا (۲) منبہ ہونا۔ ہوشیار ہو جانا۔



آنکھیں نہ کھولنا (۱۱۔ محاورہ) (۱۱) چشم ڈاکرنا۔ شرم حجاب یا نفرت کے باعث آنکھیں کھول کر کسی چیز کو نہ دیکھنا (۲۱) ہوش میں نہ آنا (۳۱) بیماری کے سبب غفلت میں پڑا رہنا۔

آنکھیں نہ ملانا (۱۱۔ محاورہ) (۱۱) شرمانا۔ آنکھ سامنے نہ کرنا (۲۱) متوجہ نہ ہونا۔ بات نہ پوچھنا۔

آنکھیں نیلی پیلی کرنا (۱۱۔ محاورہ) غصہ کرنا۔ چین بچیں ہونا۔ تیوری چڑھانا۔ آنکھیں ہونا (۱۱۔ محاورہ) (۱۱) سبق حاصل ہونا (۲۱) حواس درست ہونا۔ سمجھ آنا۔ ہوش آنا۔ عقل آنا۔

آنکھیں ہوئیں چار دل میں آیا پیار۔ آنکھیں ہوئیں ادٹ دل میں آئی کھوٹ (۱۱)۔ مثل اسانے محبت کرنا اور پیچھے بالکل بھول جانا۔ آنکھیں ہیں یا بھینس کے چوتڑے (۱۱)۔ مثل ادیکھ کر کام نہ کرنا۔ بے توجہی سے کام کرنا۔

آنکھیں (آں۔ گن) (۱۰)۔ اندھا گھر کے اندر کا صحن۔ انگنائی۔ آنکھی (آں۔ گھی) (۱۰)۔ س۔ مٹا [مٹا] مہین کپڑے کی منڈھی ہوتی جھلنی جس سے میدا بھانتے ہیں۔

آنکی (آں۔ گی) (۱۰)۔ مٹا [انگیا۔ چولی۔

آنند (۱۔ نند) (۱۰)۔ صفا [شادمانی۔ روحانی خوشی۔ راحت۔ آرام۔ چین۔ آنند بدھاوا (۱۰)۔ مٹا [مبارک بادی۔ خوشی کا گیت۔ خوشی کا نیک۔ بدھائی۔ شادیاں۔

آنند رہنا (مص۔ مرکب) خوش رہنا۔ مگن رہنا۔ آنند کرنا (مص۔ مرکب) خوشی منانا۔ چین کرنا۔

آنند کے تازہ بجاتا (۱۱۔ محاورہ) بے فکری سے اوقات بسر کرنا۔ عیش و عشرت سے گزارنا۔

آنند منگل (۱۔ نند) (۱۱) خوشی۔ عیش و عشرت۔ ہنسی مذاق (۲۱) آرام۔ راحت۔

آنند ہوتا (۱۱۔ محاورہ) (۱۱) خوش ہونا۔ مگن ہونا (۲) سیر ہونا۔ آندری (آں۔ نند) (دی) (۱۰)۔ مٹا [خوشی۔ سکھی۔ شادمانی۔

آنندی پرش (۱۰)۔ مٹا [ہنس بکھ۔ خوش مزاج۔ ظریف۔ آنو (آں) (۱۰)۔ مٹا [ایک قسم کا چکنا سفید لیس دار مادہ۔ جو پیش میں پاخانہ کے ساتھ آتا ہے۔

آنو آتا (۱۱۔ محاورہ) آنو کا اجابت میں نکلنا۔

آنو پڑنا (۱۱۔ محاورہ) پیٹ میں آنو کا پیدا ہونا پیش ہو جانا۔ آنو کے لٹھے نکلے۔ آنو کے لٹھے میں اٹھی (۱۱)۔ مثل اے محل قراوت چھانٹنے یا اچھو ہو جانے پر کہتے ہیں۔

آنول (آں۔ دل) (۱۰)۔ مٹا [وہ جھلی جو بچے کی پیدائش کے وقت اس کے ساتھ لگی ہوتی ہے۔

آنول تال۔ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کی ناف انتڑی کی طرح بڑھی ہوتی ہوتی ہے۔ دانی اسے اسی وقت کاٹ ڈالتی ہے۔ اس کے اخیر میں ایک ٹکیا بھی لگی ہوتی ہوتی ہے۔ اس کل ہیئت مجموعی کا نام آنول تال ہے۔

حقیقت کھلنا۔ عبرت ہونا۔ (۳۱) حیران ہو جانا۔

آنکھیں کھلنا (۱۱۔ محاورہ) جاگنا۔ بیدار ہونا (۲) حقیقت واضح ہونا (۳) جنم لینا۔ ہوش سنبھالنا۔ (۳۱) ہنگامہ بگاہ جانا۔

آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جانا (۱۱۔ محاورہ) (۱۱) سکتے کی حالت میں دم نکل جانا۔ (۲۱) حیران ہو جانا۔ دم بخود ہو جانا۔

آنکھیں کھلی ہونا (۱۱۔ محاورہ) (۱۱) پوری آنکھیں بند نہ ہونا (۲۱) زندہ ہونا۔ صحیح سلامت ہونا (۳۱) ہوشیار ہونا۔ چوکس ہونا۔

آنکھیں کھولنا (۱۱۔ محاورہ) چشم ڈاکرنا۔ جاگنا۔ ہوشیار ہونا (۲) عبرت پکڑنا (۳۱) پیدا ہونا۔

آنکھیں کھولنا (۱۱۔ محاورہ) اندھا ہونا۔ بے بصر ہونا۔ بینائی زائل کرنا۔ آنکھیں کیا پھوٹ گئی ہیں؟ نظر نہیں آتا؟ غفلت یا بے پردائی سے کام کرنے والے سے کہا جاتا ہے۔

آنکھیں گدی میں ہونا (۱۱۔ محاورہ) (۱۱) گدی کے پیچھے آنکھیں ہونا۔ سامنے کی چیز دکھائی نہ دینا۔ (۲۱) خورد بینی کے نشہ میں اندھا ہونا۔ اچھا بُرا نہ دیکھنا۔ سمجھے بوجھے تغیر کوئی کام کر بیٹھنا۔ عالم شباب کے باعث حرکات ناشائستہ میں اندھا ہونا۔ مستی کے سبب نیک و بد کا دھیان نہ کرنا۔

آنکھیں گرم کرنا (۱۱۔ محاورہ) غصے سے دیکھنا۔ گھورنا۔ دید بازی کرنا۔ آنکھیں گر جانا (۱۱۔ محاورہ) کسی چیز پر نظر گر جانا۔ کسی چیز کو برابر کے جانا۔ گھوڑا

بمیدوں کی طرح دیکھنا۔ آنکھیں گلابی ہونا (۱۱۔ محاورہ) آنکھیں سرخ ہونا۔ آنکھوں میں سرور آنا۔ آنکھوں میں نشہ ظاہر ہونا۔

آنکھیں لال کرنا (۱۱۔ محاورہ) غصے سے نیلا پیرا ہونا۔ رور و کر آنکھیں سرخ کرنا۔ آنکھیں لگائے رہنا (۱۱۔ محاورہ) برابر دیکھتے رہنا۔ نظر جمی ہونا۔

آنکھیں لگنا (۱۱)۔ مٹگی بندھنا۔ انتظار کرنا۔ راہ دیکھنا (۲) عشق ہونا۔ محبت ہونا۔

آنکھیں مانگنا (۱۱۔ محاورہ) آنکھوں کی روشنی چاہنا۔ بینائی مانگنا۔ بصارت کا طالب ہونا۔

آنکھیں مٹکانا (۱۱۔ محاورہ) آنکھیں گھانا۔ نخرے کرنا۔ آنکھیں پنجانا۔

آنکھیں ملنا (۱۱) آنکھوں کو ہاتھ سے دگر کرنا۔ آنکھوں پر ہاتھ پھیر کر نیند کا خمار دور کرنا۔ آنکھیں کھولنے کی تدبیر کرنا (۲) حسن عقیدت یا فرط محبت کے باعث کسی چیز سے آنکھیں گھسنا۔

آنکھیں منرتے کیا دیہے (۱۱)۔ مثل آنکھ بند ہوتے یعنی مرتے دیر نہیں لگتی۔ زندگی کا کیا بھر دوس ہے۔

آنکھیں موٹد لینا (موٹدنا) (۱۱۔ محاورہ) آنکھیں بند کر لینا (۲) مرجانا (۳) بے خبر ہونا۔

آنکھیں نکالنا (۱۱۔ محاورہ) انا راض ہونا۔ غصے ہونا۔ لال پیرا ہونا۔ ڈرانا۔ ڈانڈنا (۲) خیر یا چھری کی نوک سے آنکھوں کو یا ہر نکال ڈالنا۔ اندھا کرنا۔

آنکھیں نہ اٹھانا (۱۱۔ محاورہ) آنکھیں سامنے نہ کرنا۔ شرم یا حیا سے آنکھیں اونچی نہ کرنا۔ شرمانا۔



آنول پتی (آں۔ دل۔ بیت۔ تی) [ہ۔ ا۔ مٹ] ایک قسم کی سلائی جس میں پتی کی طرح دونوں طرف ترچھے ٹانگے مارے جاتے ہیں۔  
آنول کٹا (آں۔ دل۔ گٹ۔ جٹا) [ہ۔ ا۔ مذ] آنولے کا سوکھا ہوا پھل۔  
آنولے کا ڈال میں سوکھا ہوا پھل۔

آنولہ (آں۔ ولہ) [ہ۔ ا۔ مذ] ایک کیسلا پھل۔ دیکھئے آملہ۔  
آنولہ سار گندھک (آں۔ مٹ) اصاف کی ہونی گندھک جس کا رنگ آنولے کے رنگ سے مشابہ ہوتا ہے۔  
آنولے کا کھانا بڑے کا کھانا پچھے مزہ آیا (آں۔ مٹ) ناگوار نصیحت کا نتیجہ بعد میں معلوم ہوتا ہے۔

آنہ (آ۔ نہ) [ہ۔ ا۔ مذ] پرانے روپے کا سولھواں حصہ پرانے چار پیسے پرانا سکہ جو چار پیسوں کے برابر ہوتا تھا۔ آنا۔

آنہ پانی (آ۔ مذ) کوڑی کوڑی۔ پورا پورا  
آنہ پانی کا حساب کرنا (آ۔ محاورہ) کفایت شعاری کرنا۔ کجوسی کرنا۔  
(۲) فرض ادا کرنا۔

آنی (آ۔ نی) [ت۔ ا۔ مٹ] دودھ سے مکھن نکالنے کا آلہ۔ مٹھانی۔  
مدھانی۔

آنی بانی (آ۔ ہ۔ مٹ) چھیڑ چھاڑ۔ ہنسی مذاق۔  
آنی جانی (آ۔ ہ۔ صف) بے ثبات۔ ناپائدار۔ قافی۔

## آ۔ و

آوا (آ۔ وا) [ہ۔ ا۔ مذ] کمد کی بھٹی۔ کمدوں کے برتن پکانے کا گڑھا۔  
پنزاہ۔ بھٹا۔

آوا ترنا۔ برتنوں کا پک کر بھٹی سے نکلنا۔  
آوا بگڑنا۔ آوے کا آوا بگڑنا (آں۔ مٹ) تمام برتنوں کا بگڑنا (۲) خاندان کا خاندان بگڑنا۔ سارے خاندان کا برائیوں میں مبتلا ہو جانا۔  
آوا چڑھنا۔ بھٹی میں برتنوں کا پکنے کے واسطے رکھا جانا۔

آوے کا آوا خراب ہے (آں۔ مٹ) سارا خاندان خراب ہے  
آوے میں نانہ کھو گئی (آں۔ مٹ) بددیانتی کر کے معصوم بننے کی کوشش۔  
آوا جانی (آ۔ ہ۔ مٹ) آدورفت۔ آنا جانا۔

آوا جانی لگا رکھی ہے (آں۔ مٹ) بے موقع اور بلا ضرورت آدورفت۔  
آوادانی (آ۔ ا۔ مٹ) (۱) بستی۔ آبادی (۲) رونق۔ گہما گہمی۔ چہل پہل (۳) بونی جوئی زمین۔

آوارہ (آ۔ وار۔ جہ) [ف۔ ا۔ مذ] روزنامہ جمع خرچ۔  
آوارگی (آ۔ وار۔ گی) [ف۔ ا۔ مٹ] (۱) ہجرت۔ پریشانی۔ پرالنگی۔  
خرابی (۲) بد معاشی۔ شہدین۔ گمراہی۔

آوارہ (آ۔ وا۔ رہ) [ف۔ صف] (۱) بے ہودہ۔ پریشان خراب دستہ  
(۲) ادبائش۔ بدچلن۔ شہدا۔

آوارہ پھرتا (آں۔ محاورہ) خراب دستہ پھرتا۔ بھٹکتا پھرتا۔ مارا مارا پھرتا۔  
آوارہ کرتا (آں۔ محاورہ) بدچلن بنانا۔ بگاڑنا۔ ادبائش بنانا۔ خراب کرنا۔

آوارہ گرد (آں۔ مذ) مارا مارا پھرنے والا۔ بدچلن۔

آوارہ گردی (آں۔ مٹ) بدچلنی۔ سرگردانی۔ مارا مارا پھرتا۔  
آوارہ مزاج (آں۔ مذ) لاابالی۔ بدچلن۔

آوارہ وطن (آں۔ مذ) مسافر۔ پردیسی۔

آوارہ ہونا (آں۔ محاورہ) پریشان ہونا۔ پراگندہ ہونا۔ سرگرداں ہونا۔ بدچلن ہونا۔ بدراہ ہونا۔

آواز (آ۔ وار) [ف۔ ا۔ مٹ] (۱) لفظ۔ بول۔ الپ بانگ۔ پکار۔ صدا  
(۲) غل۔ شور۔ چیخ (۳) فقیر کی صدا۔ پکار کر بچنے کی صدا (۴) کھڑکا۔ آہٹ  
دھماکا۔ (۵) راگ۔ نغمہ۔ آہنگ (۶) شہرہ۔ چیخ۔ نیک نامی کا آوازہ۔

آواز آنا (آں۔ محاورہ) لفظ سنائی دینا۔ کان میں بول پڑنا۔ کان میں بھنک آنا۔  
ندائے غیب آنا۔

آواز اٹھانا (آں۔ محاورہ) گانے میں آواز کا ادا کرنا۔ اُدبے سر لگانا۔  
آواز (اکھڑنا) اکھڑ جانا (آں۔ محاورہ) آواز بے سہری ہو جانا۔

آواز بدل جانا (آں۔ محاورہ) کسی وجہ سے آواز میں فرق آنا۔ لہجہ تبدیل ہو جانا۔  
آواز بدلنا (آں۔ مص) اصلی آواز بدل دینا۔ لہجہ تبدیل کرنا۔

آواز بڑھانا (آں۔ محاورہ) آواز بلند کرنا۔  
آواز بگڑ جانا (آں۔ محاورہ) اچھی آواز کا بگڑا ہو جانا۔

آواز بلند کرنا (آں۔ محاورہ) چلا کے بولنا۔ اونچی آواز سے پڑھنا۔  
آواز بند کر دینا (مص مرکب) خاموش کر دینا۔ چپ کر دینا۔

آواز بند ہونا۔ آواز بھاری ہونا۔ آواز بھرا آنا۔ آواز بیٹھنا۔ (۱) محلو  
آواز پڑنا۔ گلا جگر جانا۔ آواز نہ نکلنا۔ گانے یا چلانے سے آواز کا  
پھٹ جانا۔

آواز پارت (آں۔ مٹ) پاؤں کی آہٹ۔ پاؤں کی آواز۔  
آواز پر آنا (آں۔ محاورہ) پکانے کے ساتھ ہی آنا۔ سدھائے ہوئے  
پرند کا آواز سننے ہی آ جانا۔

آواز پر کان (آں۔ محاورہ) رکھنا لگانا (آں۔ محاورہ) نہایت غور سے سنا۔  
دھیان دے کر سنا۔ توجہ سے سنا۔

آواز پر کوئی لگانا (آں۔ محاورہ) دیکھے بغیر آواز پر نشانہ لگانا (۲)  
قادر اندازی۔

آواز پر لگانا (آں۔ محاورہ) جانوروں کو ایسا سدھانا کہ وہ آواز سننے ہی  
پاس چلے آتی یا جو کام کرنے کو کہا جائے کرنے لگیں۔

آواز پر (پہ) لگنا (آں۔ محاورہ) آواز پہچانا۔ آواز پر بولنا۔ آواز پر آنا۔ ہل  
جانا۔ مایوس ہو جانا۔ بولی بھننا۔

آواز پر پڑنا (آں۔ محاورہ) (۱) گلا بیٹھنا۔ آواز بھاری ہونا۔ (۲) بلانے کے لیے  
نام لے کر کسی کو پکارا جانا۔ عدالت میں کسی کے نام کی آواز بلند ہونا۔

آواز پھٹنا (آں۔ محاورہ) آواز بھاری ہونا۔ آواز کا آہنگ خراب ہو جانا۔  
آواز پھولنا (آں۔ محاورہ) آواز کا بھاری ہونا اور صاف نہ نکلنا۔

آواز سیدھا ہونا (مص مرکب) آواز نکلنا۔  
آواز کھترانا (مص مرکب) آواز کا پینا۔ آواز بھرتا۔ آواز میں لرزش ہونا۔  
آواز جانا (مص مرکب) آواز کا پینا۔



آواز جرس۔ آواز در اف۔ ۱۔ مٹا گھنٹے کی آواز قافلے کے پیچھے  
 پیچھے گھنٹے کی آواز۔  
 آواز جگر مچانا (۱۔ محاورہ) نزل کی وجہ سے آواز بیٹھ جانا۔  
 آواز وب جانا (۱۔ محاورہ) آواز کا پست ہو جانا۔  
 آواز دہندہ (۱۔ مذکر) آواز دینے والا۔ ۱۲۱ بولی بولنے والا۔ نیلام پکانے  
 والا۔ نیلام کتنہ۔  
 آواز دینا (۱۔ محاورہ) پکارنا۔ طلب کرنا۔ بلانا (۲) صدا کرنا۔  
 آواز ڈوگ میں آنا (۱۔ محاورہ) زمانہ بلوغ میں کنٹھ پھوٹنے سے آواز  
 بھاری ہو جانا۔  
 آواز سگاں کم نہ کند رزق گدارا اف۔ مثل اکتوں کے بھونکنے سے  
 گداگری کی خیرات بند نہیں ہوتی۔ یعنی بد باطن لوگوں کے باعث کسی  
 کی روزی کم نہیں ہوتی۔  
 آواز سنانا (۱۔ محاورہ) اپنی آواز دوسرے کے کان تک پہنچانا۔  
 آواز سننا۔ آواز سنائی (پڑنا) دینا (۱۔ محاورہ) کانوں میں آواز پہنچانا۔  
 آواز سے آواز ملنا (۱۔ محاورہ) (۱) سُر سے سُر ملنا (۲) ایک آواز کا دوسری  
 آواز سے مشابہ ہونا۔  
 آواز سے سکون لینا (۱۔ محاورہ) غور میں اور عوام بعض جانوروں کی آوازوں  
 سے فال لیتے ہیں۔  
 آواز صاف (ہو جانا) ہوتا (۱۔ محاورہ) گلا صاف ہو جانا۔ آواز کا بھاری پن  
 زائل ہو جانا۔ درست آواز نکلنا۔  
 آواز صوف۔ صوف کی آواز۔ مسلمانوں کے اعتقاد کے مطابق صوف ایک باجے  
 یا بگل کی مانند ہے۔ خدائے تعالیٰ کے حکم سے حضرت اسماعیل (فرشتہ) جس  
 وقت اس میں پھونک لگائیں، ہر چیز فنا ہو جاتے گی اور قیامت  
 آجائے گی۔  
 آواز غیب اف۔ ع۔ مٹا الہام کی آواز۔ ہاتف کی آواز۔ آواز جو عالم  
 غیب سے آئے۔  
 آواز قدم اف۔ ۱۔ مٹا پاؤں کی آہٹ۔  
 آواز کا اتار چڑھاؤ۔ آواز کا نیچا اونچا ہونا۔  
 آواز کا پاٹ۔ آواز کی رسائی۔ آواز کی حد۔  
 آواز کا پاٹ نہ ملنا۔ (۱۔ محاورہ) آواز کا بہت بلند ہونا۔  
 آواز کرنا (۱۔ محاورہ) (۱) پکارنا۔ آواز دینا (۲) بندوق چھوڑنا۔ توپ داغنا  
 (۳) چیخنا (۴) فقیر کا صدا دینا۔  
 آواز کستا (۱۔ محاورہ) اتان کی آواز لگانا۔  
 آواز (کھلنا) کھل جانا (۱۔ محاورہ) آواز صاف ہونا۔ آواز میں سے خشونت  
 کا دور ہونا۔  
 آواز کی اٹھان (۱۔ مٹا) آواز کی ابتدا۔ گاتے وقت شعر کا بلند آواز سے  
 شروع کرنا اور نیچے سُر میں آواز ہونا۔  
 آواز گرنا (۱۔ محاورہ) آواز کا ہلکا ہونا۔ نیچے سُر میں آواز ہونا۔  
 آواز گریب۔ رونے کی آواز۔  
 آواز گوش آشنا ہونا (۱۔ محاورہ) آواز کا پہلے سے سنا ہوا ہونا۔ آواز کی

پہچان ہونا۔  
 آواز گوش زد ہونا (۱۔ محاورہ) آواز سنائی پڑنا۔  
 آواز گونجنا (مص مرکب) دیر تک کسی بند مکان یا گنبد میں آواز کا اثر  
 باقی رہنا۔  
 آواز لڑنا (۱۔ محاورہ) آواز ملنا۔ آواز کا ٹپا کھانا۔ آواز میں آواز ملنا۔ ہم آہنگ  
 ہو جانا۔ ایک سُر پر پہنچنا۔  
 آواز لگانا (۱۔ محاورہ) (۱) آواز دینا۔ پکارنا (۲) پکار کے چیخنا۔ (۳) صدا دینا۔  
 مانگنا۔ بھیک مانگنا (۴) اگانا۔ اتان لگانا۔  
 آواز ملنا (۱۔ محاورہ) باہم آواز ملا کر لگانا۔  
 آواز میں آواز ملانا (۱۔ محاورہ) بول سے بول ملانا ہم آہنگ ہونا۔ سُر  
 میں برابر آجانا۔ سُر سے سُر ملانا۔  
 آواز میں پتی لگ جانا (۱۔ محاورہ) کسی سبب سے آواز کھر کھرانے لگانا۔  
 آواز میں پیچ دینا (۱۔ محاورہ) اتان لینے وقت خوبصورتی کے ساتھ آواز لگانا  
 آواز میں چھریاں (کٹاریاں) بھری ہیں (۱۔ مثل) بہت موثر اور دردناک  
 آواز ہے۔  
 آواز میں گھٹکا ہونا (۱۔ محاورہ) آواز میں بہت ہی پر اثر اور پسندیدہ  
 کیفیت ہونا۔  
 آواز میں لوج ہونا (۱۔ محاورہ) آواز میں نرمی اور نہایت ہونا۔  
 آواز میں نمک ہونا۔ آواز میں درد ہونا۔ سوز ہونا۔  
 آواز نکالنا (۱۔ محاورہ) (۱) بولنا۔ منہ سے بات نکالنا (۲) رونا۔ چیخنا (۳) گانا  
 شروع کرنا۔  
 آواز نکلنا (۱۔ محاورہ) (۱) صدا آنا (۲) منہ سے بات نکلنا۔  
 آواز نہیں چلتی۔ آواز کام نہیں دیتی۔  
 آواز ہوتا (۱۔ محاورہ) کسی چیز سے آواز نکلنا۔  
 آوازہ (آ۔ وارزہ) اف۔ ۱۔ مذکر (۱) شہرہ۔ ناموری۔ غلغلہ۔ انواہ۔ دھوا  
 (۲) غل۔ شور (۳) طعنے (۴) کسی چیز کے گونگنے کی آواز۔ صدا۔ نر اقا۔  
 (۵) گوز۔ پاد۔ بھڑکا۔  
 آوازہ بلند ہونا (۱۔ محاورہ) (۱) مشہور ہونا۔ بڑا نام ہونا۔ ناموری ہونا۔ دھوم  
 مچنا۔ (۲) شور پیدا ہونا۔  
 آوازہ پہنچنا (۱۔ محاورہ) شہرت پہنچنا۔  
 آوازہ پھیلنا (۱۔ محاورہ) شہرت ہونا۔  
 آوازہ پھینکنا۔ آواز سے پھینکنا (۱۔ محاورہ) فقرہ کنا۔ طعنے دینا۔ آوازہ کنا۔  
 آوازہ توڑنا۔ بولی کھولی۔ طعنے دینا۔ طعن کشین۔  
 آوازہ ستانا (۱۔ محاورہ) طعنے دینا۔ بولی کھولی مارتا (۲) پادنا۔  
 آوازہ لڑنا (۱۔ محاورہ) (۱) پھسکارنا۔ چٹھارنا (۲) بندوق یا توپ چھوڑنا  
 داغنا (۳) کسی چیز کو توڑنا۔ اوپر سے دے مارنا۔ پٹک دینا (۴) طعنے دینا  
 (۵) طنز کرنا۔ کھٹھا مارنا۔  
 آوازہ کستا (۱۔ محاورہ) طنز کرنا۔ چھیڑنا۔ فقرہ چست کرنا۔  
 آوازہ مارتا (۱۔ محاورہ) (۱) طعنے دینا۔ چھیڑنا۔ خانی کرنا (۲) آواز ستانا۔  
 آواز سے ستنا (۱۔ محاورہ) طعن و کشین ستنا۔











پیروں کے سامنے بھوت کی کیا اصل ہے۔

آٹے تو کیا آٹے (۱- مثل) آنا نہ آنے کے برابر ہوا۔  
آٹے حواس جانا (۱- محاورہ) ہوش جانا۔ حواس نکھڑنا۔  
آٹے دن تابع نعل (۱- ہر روز۔ رت۔ ہمیشہ۔ بار بار۔

آٹے ڈلو کے دسیرے (۱- مثل) جو آدمی بے کار ادھر ادھر مارا پھیرے  
اس کی بابت بولتے ہیں۔

آٹے کا تو اپنے پاؤں سے جاتے گا کس کے پاؤں سے (۱- مثل)  
دشمن کو اس کے پاؤں سے داپس نہیں جانے دوں گا۔ زندہ نہ چھوڑوں گا  
آٹے کا کتا تو پلٹے گا (۱- مثل) بغیر دوردھوپ کے کچھ حاصل  
نہیں ہوتا۔

آٹے گئے (۱- صف) (۱- آنے جانے والے) ۱۲۱ مسافر۔

آٹے گئے کا سودا (۱- مثل) مرنے کے لیے بالکل ہی تیار ہونا۔

آٹے نہ آئے برابر (۱- مقولہ) آنا ایک جیسا ہے۔

آئین (آ۔ عین) (۱- مذ) (۱- قاعدہ۔ دستور العقل۔ قانون۔ ضابطہ۔  
ملک کا بنیادی قانون۔ دستور اساسی۔ رواج۔

آئین جاری کرنا (۱- مص) مرکب قانون نافذ کرنا۔ دستور اساسی جاری کرنا۔

آئین دیوانی (۱- مذ) (۱- عین دین کا قانون۔ وہ قانون جو مالی معاملات  
سے متعلق ہو۔

آئین فوج داری (۱- مذ) (۱- وہ قانون جس میں فساد اور لڑائی جھگڑے  
کی دفعات اور سزاؤں کا بیان ہو۔

آئین لشکری (۱- مذ) (۱- فوج کے نظم و نسق کا قانون۔

آئین مال (۱- مذ) (۱- قواعد سال گزاری۔ رسوم سرکاری۔ قانون خراج۔

آئین ملکی (۱- مذ) (۱- کسی ملک کا بنیادی قانون یا دستور اساسی۔

آئین بائیس (آ۔ ایس۔ با۔ ایس) (۱- اناب شباب۔ لغویاتیں۔ انٹ شٹ۔  
وہ بات جس کا کوئی سرپر نہ ہو۔

آئین بائیس شائیں (۱- مثل) (۱- ٹالم ٹول پہانے (۲) فضول باتیں۔

آئین توجائیں کہاں۔ غصے کے ماسے آپے سے باہر ہو جانا۔

آئینی پائنتی (۱- ۱۰۵) (۱- مٹ) (۱- سر ہانے اور پاؤں کی طرف۔

آئینہ (آ۔ ای۔ نہ) (۱- مذ) (۱- منہ دیکھنے کا شیشہ۔ درپن۔ (۲) حیران  
ششدر (۳) روشن۔ ظاہر (۴) صاف۔ اُجلا۔

آئینہ الٹا دکھاتا (۱- محاورہ) نظر بد کا اثر دور کرنے کے لیے ٹوٹکے  
کے طور پر الٹا شیشہ دکھاتا۔

آئینہ اندھا (ہو جانا) ہونا (۱- محاورہ) آئینہ دھندلا ہو جانا کہ عکس  
دکھائی نہ دے۔

آئینہ باطن (۱- ع۔ صف) (۱- صاف دل۔ روشن ضمیر۔ نیک دل۔

آئینہ بنا دینا (۱- محاورہ) حیران کر دینا (۲) فلمی کر کے یا ناچ کر چمکا دینا۔

آئینہ بن جانا (۱- محاورہ) (۱) منجیر ہو جانا۔ ششدر ہونا (۲) صاف و  
شفاف ہو جانا۔ چمک دار ہو جانا۔

آئینہ بندی کرنا (۱- محاورہ) شیشہ وغیرہ سے مکان سجانا۔ آرائش کرنا۔

آئینہ تمثال (۱- صف) (۱- آئینے کی طرح صاف شفاف۔

آئینہ جڑنا (۱- مص) مرکب اچھوٹے میں آئینہ لگانا۔

آئینہ خانہ (۱- مذ) (۱- وہ مکان جس میں چاروں طرف آئینے لگے ہوں۔

آئینہ دار (۱- مذ) (۱- وہ شخص کے پاس آئینہ ہو۔ ۱۲۱ نانی۔ حجام۔ سنگار کرانے  
والا۔ (۳) عیب یا خوبی ظاہر کرنے والا۔

آئینہ داری (۱- مذ) (۱- مٹ) (۱- آئینہ دکھانے کی خدمت۔ خدمت گاری۔  
اطاعت۔

آئینہ دکھاتا (۱- محاورہ) (۱) شیشہ دکھانا۔ آئینہ داری کرنا۔ (۲) عیب و  
ہنر ظاہر کرنا۔

آئینہ دیکھنا (۱- محاورہ) (۱) آئینے میں اپنی شکل دیکھنا۔

آئینہ رخسار (۱- صف) (۱- وہ شخص جس کے رخسار آئینے کی طرح چمکے ہوں۔

آئینہ رخ (۱- صف) (۱- آئینہ کی طرح شفاف چہرہ رکھنے والا۔

آئینہ ساز (۱- مذ) (۱- شیشے بنانے والا۔ آئینہ گر۔

آئینہ سازی (۱- مذ) (۱- مٹ) (۱- آئینہ گری۔ آئینے بنانے کا کام۔

آئینہ سامنے سے نہ بٹنا (۱- محاورہ) ہر وقت بناؤ سنگار میں لگے رہنا۔

آئینہ سکندری (۱- مذ) (۱- وہ ہے سے بنا ہوا آئینہ جس کی بابت کہتے ہیں  
سکندر نے ایجاد کیا تھا۔

آئینہ سہا (۱- صف) (۱- آئینہ جیسی پیشانی رکھنے والا۔ مراد معشوق۔ ہے  
آئینہ صفر میں دیکھنا۔ ماہ صفر کا چاند دیکھ کر آئینہ دیکھنا مبارک سمجھا جاتا  
آئینہ کا جوہر (۱- صف) (۱- صاف) (۱- آئینہ۔ آئینے کی چمک۔

آئینہ کر دینا (۱- محاورہ) (۱) بالکل صاف کر دینا۔ چمکا دینا۔ (۲) ظاہر کر دینا۔  
آئینہ گر (۱- مذ) (۱- آئینہ بنانے والا۔

آئینہ گری (۱- مذ) (۱- مٹ) (۱- آئینہ بنانے کا کام۔ آئینہ سازی۔

آئینہ لے کر منہ تو دیکھو (۱- مثل) (۱- جب کوئی شخص کسی ایسی بات کا دعویٰ  
یا ارادہ کرے جس کا وہ اہل نہ تو اس کے لیے کہتا ہے  
آئینہ میں منہ تو دیکھو۔ آئینہ میں صورت تو دیکھو۔ آئینہ لے کر  
منہ تو دیکھو۔ (۱- مثل) (۱- ذرا اپنی شکل تو ملاحظہ کرو۔ تم یہ کام نہ کر سکو گے۔  
آئینہ ہونا) (۱) ظاہر ہونا۔ کھل جانا (۲) صاف شفاف ہونا۔

آئینے میں بال (۱) آجانا (۱) اُڑ جانا (۱- محاورہ) آئینے میں خفیف ساختہ نمودار ہونا۔  
آئینی (آ۔ ای۔ نی) (۱- صف) (۱- دستور اساسی کے مطابق۔ آئین  
کے مطابق۔

آئیے (آ۔ ای۔ یے) (۱- فعل) (۱- تشریف لائیے۔ قدم رنجہ فرمائیے۔

## آسی

آسی (آ۔ یا۔ سی) (۱- ۱۰۵) (۱- مٹ) (۱) دایہ بچوں کو دودھ پلانے والی (۲) [ن] (۱)  
کلمہ استفہام۔ کیا؟ [۱۳] [۱۳] [۱۳] آگیا (۲) حاضر ہوا (۳) بلانے کے جواب میں  
آنا مصدر کا ماضی مطلق۔

آسی بندہ آئی روزی، گیا بندہ گئی روزی (۱- مثل) (۱) آدمی کا رزق اس  
کے ساتھ ہے۔

آسی رمضان بھاگا شیطان (۱- مثل) (۱) نیکی کے آنے پر بدی چلی جاتی ہے۔



نہ ٹھہرنا بہتر خیال کیا ہے۔  
 آیت مطلق (ع. مٹ) وہ آیت جس پر قطعی ٹھہرنا پڑے جس کے آگے گول دائرے کے سوا کوئی علامت نہ ہو۔  
 آیت الکرسی (ع. مٹ) قرآن مجید کی سب سے لمبی آیت سورہ البقرہ پارہ تمیز۔  
 آیت نازل ہونا۔ خدا کی طرف سے اس کے رسول پر آیت آنا۔  
 آیت وحدیث ہے (ع. مٹ) قرآن پاک کی آیت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد (۲) وہ بات جس میں شک کی گنجائش نہ ہو۔ بالکل حق۔  
 آیوڈو فارم (Iodoform) (آ. یو. ڈو. فارم) (انگ. ۱۰. مٹ) آند رنگ کی ایک بدبودار مرکب جو زخم پر چھڑکی جاتی ہے۔  
 آیوڈین (Iodine) (آ. یو. ڈین) (انگ. ۱۰. مٹ) ایک کیمیادی عنصر جو دواؤں میں استعمال کیا جاتا ہے۔  
 آیور ویدک (۱-۵. مٹ) ہندی طریقہ علاج۔  
 آیہ (آ. یہ) (ع. ۱۰. مٹ) آیت۔  
 آیہ رحمت۔ قرآن مجید کی وہ آیت جس میں خدا کی رحمتوں کا ذکر ہے۔

آیا سمجھو (جانو) (۱۱- محاورہ) ابھی آیا۔ آیا کر آیا۔ دیر نہیں کروں گا۔  
 آیا کٹنا کھا گیا تو بیٹھی ڈھول بجا ۱۱۔ مثل ابے فکر اور غافل عورت کے حلقہ کہتے ہیں۔  
 آیا گری (۱۱- مٹ) آیا کا پیشہ۔ دانی پنا۔  
 آیا گیا (۱۱- مذ) آنے جلنے والا۔ (۲۱) مہمان۔ مسافر۔ (۳۱) بھولا۔ بھرا۔  
 آیا گیا ہونا (۱۱- محاورہ) بھول جانا۔ فراموش ہو جانا۔  
 آیات (آ. یات) (ع. ۱۰. مٹ) آیت کی جمع (۱۲) اوقات۔ قرآن میں سے ایک قطعے کا نام جو دائرے کی شکل کا ہوتا ہے۔ (۳۱) نشانیاں۔  
 آیات متشابہات (ع. مٹ) قرآن کی وہ آیتیں جن کے معنی صاف اور واضح نہ ہو۔  
 آیات محکمات (ع. مٹ) وہ قرآنی آیات جن میں تاویل کی ضرورت نہیں آیت (آ. یات) (ع. ۱۰. مٹ) [۱۱] نشان (۳۱) فقرہ قرآن یا تورات یا انجیل (۳۱) مجت ظاہری۔  
 آیت آتا۔ آسمان سے آیت نازل ہونا۔  
 آیت اترنا (۱۱- محاورہ) آیت نازل ہونا۔  
 آیت سجدہ۔ قرآن پاک کی وہ آیت جسے پڑھنے اور سننے سے سجد کرنا لازم ہو جاتا ہے۔  
 آیت لا (۱۱- مٹ) وہ آیت جس پر لا لکھا ہوتا ہے۔ قاریوں نے ایسی آیت پر



# اب

آب - [ع-ا-ند] باپ - والد - جمع : آباء -

جمع : آباء

آب و جد - باپ دادا - خاندان کے بزرگ - پُرکھے - جمع : آباؤ اجداد  
جمع : آباؤ اجداد -

آب - [ہ] [ا] اس وقت - اس گھڑی - آج کل (۲) اس م - اس زمانہ میں  
(۳) اسی وقت - فوراً جھٹ بیٹ (۴) آئندہ - آگے کو - پھر - پھر بھی (۵)  
فقوڑی دیر پہلے (۶) اس حالت میں - اس مرحلے پر (۷) اس وقت - تب -  
اب آئے - ابھی آتے ہیں - ذرا سی دیر میں آنے والے ہیں -

اب اب کر کے - تھوڑے دنوں سے - چند روز سے - حال میں -  
اب اب کرنا (محاوہ) ٹال مٹول کرنا - وعدہ خلفی کرنا - آج کل کرنا -  
اب ادھر یا ادھر - (محاوہ) اب فیصلہ ہو جانا چاہئے بات کو ختم کرنا چاہئے  
اب اللہ ہی اللہ ہے - سب سہاے ٹوٹ گئے - اب کوئی امید نہیں -  
اب ایسا بھی کیا - یہ بات نہیں ہو سکتی - یہ ناممکن ہے -

اب بتاؤ (بتائیے) اب بولو - اب کہو - (محاوہ) (قابل کرنے کے لیے)  
اب کوئی راہ نہیں - مان جاؤ - اب کیا کریں (۲) حیرت و بے چارگی  
کے اظہار کے لیے) اب کیا کیا جائے - کوئی چارہ نہیں رہا -  
اب بھی (۱) اس وقت بھی - اس حال یا اس صورت میں بھی (۲) نس پر بھی  
پھر بھی - تاہم -

اب بھی کچھ نہیں کیا - (محاوہ) اب بھی وقت ہے - اس وقت بھی اصلاح  
و درستی ہو سکتی ہے -

اب بھی میرا وہ تیرے زندہ پر بھاری ہے [مثل] باوجود گئی گزری  
حالت کے میں تم سے طاقتور ہوں - تمہارا مقابلہ کر سکتا ہوں -

اب پچھتائے کیا ہوتے جب چڑیاں جگ گتیں کھیت [مثل] موقع  
ہاتھ سے نکل گیا تو پچھتائے سے کیا حاصل - نقصان ہو جانے کے  
بعد پشیمان ہونے کا کیا فائدہ -

اب تب - جلد بہانہ ٹال مٹول - اس وقت - اس وقت - بہت جلد -  
اب تب لگنا (ہونا) مرنے کا وقت قریب آنا - جاں بلب ہونا -  
اب تک - اب تک - اس گھڑی تک - اس وقت تک - بھی  
تک - بنور -

اب تو - (۱) اس کے بعد، آئندہ - (۲) ان حالات میں - اس صورت میں -  
(۳) آج کل - اس وقت - اس دفعہ (۴) آخر کار - بدرجہ مجبوری -  
اب جا کے (جا کر) اتنے دن پیچھے - بہت دیر بعد -

اب جب میں - آن کی آن میں - کوئی دن میں - امروز و فردا میں - بہت جلد -  
اب رنگ لائی گلہری [مثل] اب اصل حقیقت ظاہر ہوئی - اب  
گزشتہ ظاہر ہوئے -

اب سے - اس وقت سے - آئندہ سے -

اب ستونتی ہو کر بیٹھی لوٹ کھاپا سمنسار [مثل] تمام دنیا کو لوٹ کر  
پرہیزگار بن جانا - نوسو چوسے کھاکے بی حج کو چلی -

اب سے آئے کھر سے آئے - [مثل] جو کچھ نادانستگی میں کر چکے  
وہ کر چکے - اب ایسا نہ کریں گے - تو یہ ہے -

اب سے دور (دور پار) خدانہ کرے - خدا پھر ایسا موقع نہ دکھائے -  
اب کا - اس وقت کا - اس زمانے کا - موجودہ حال کا - اس مرتبہ کا -  
اب کہاں جانا ہے - قابو میں آجانے پر کتے ہیں - پکڑ لیا ہے -  
جانے نہیں پاتے گا -

اب کھاتی تو کھاتی - اب کھاؤں تو رام دہانی [مثل] اب جو کچھ  
ہوا سو ہوا - آئندہ ایسا نہیں ہوگا - اس دفعہ چوک ہو گئی - آئندہ نہ ہوگی  
اب کی بات اب کے ساتھ جب کی بات جب کے ساتھ - [مثل]  
پہلے جو کچھ تھا - وہ گزر گیا - اب جو رنگ زلملے کا ہے - اس کے موافق  
کرنا چاہئے -

اب کی نیچے تو کھر گھر نیچے - [مثل] قمار بازوں کی اصطلاح میں جب  
جو سر کی گوٹ زد میں ہوتی ہے اور دوسرے شخص کے ہاتھ میں پانسہ  
جاتا ہے تو کہتے ہیں - اب کی مرتبہ بچ جائے تو پھر بھر خانے میں جائے گی  
کوئی مزاحمت نہ کر سکے - بچی ہو جائے -

اب کے - اس دفعہ - اس مرتبہ - آئندہ زمانہ میں - 'اب کا' کی جمع -  
اب کیا پوچھنا ہے (محاوہ) اب مزے ہیں - اب پوری آزادی ہے -  
اب کیا تھا - دیر ہی کیا تھی - فوراً -

اب کیا ہوتا ہے - وقت اور نکل گیا - اب کوئی چارہ کار نہیں -  
اب نہ تب - نہ اس وقت - نہ پھر کبھی - کبھی نہیں -  
اب وہ پانی ملتان بہ گیا - جب کوئی موقع ہاتھ سے جاتا ہے یا کسی کام  
کا وقت گزر جائے تو یہ کہتے ہیں - موقع جا چکا ہے -

آب - [ع-ا-ند] سبزہ - گھاس -

آبا - (ا-با) [ع-ا-ند] باپ

آبا عن جد - باپ دادا سے - قدیم سے -

آبا (اب - با) [ا-ر-ا-ند] باپ - جہم دینے والا - خاندان کے بزرگ (۲)  
تعظیم کے لیے جیسے چچا آبا - خالو آبا -

آبا جان - آبا جانی - آبا جی - آبا حضور - آبا میاں - بچے اپنے باپ کو  
ان لفظوں سے پکارتے ہیں -

آبا - (ا-با) [ع-ا-ند] [مثل] انکار - نفرت - پرہیز - اختلاف - نافرمانی -

آبا کرنا - انکار کرنا -

آبا بیل - (ا-با-بیل) [ع-ا-ند] [مثل] ایک پھوٹا سا سیاہ رنگ کا پرندہ جس کا  
سینہ سفید ہوتا ہے - اندھیری جگہوں پر رہتی ہے -

آبا بلیا - (ا-با-بیل) [ا-ر-ا-ند] [مثل] آبا بیل سے ملتا جلتا ایک قسم کا کوتر







س	ع	ف	ص	ق	ر	ش	ت	ث	خ	ذ
۹۰	۸۰	۷۰	۶۰	۱۰۰	۲۰۰	۳۰۰	۴۰۰	۵۰۰	۶۰۰	۷۰۰
صنظع										

۱۰۰۰ ۹۰۰ ۸۰۰

انجاء - (أب - جار) [ع - ۱ - مذ] بحر کی جمع - بہت سے سمندر۔  
 انجرات (أب - نخ - رات) [ع - ۱ - مذ] انجڑہ کی جمع - بخارات - بھاپیں۔  
 انجڑہ - (أب - رخ - رہ) [ع - ۱ - مذ] بخار - بخور کی جمع - بخارات بھاپیں۔  
 ڈھونپیں - جمع انجرات۔  
 انجڑے اٹھنا - بھاپیں اٹھنا - ڈھواں اٹھنا۔  
 انجڑے چڑھنا - بھاپ کا اُپر چڑھنا - ڈھواں اُپر اٹھنا۔  
 انجڑے دماغ کو چڑھنا - دماغ میں گرمی کا اثر کرنا - سودانی ہو جانا۔  
 انجیل - (أب - نجل) [ع - ۱ - صفت] بہت بھیل - نہایت کنجوس - مہاپیچر۔  
 ابد - (أ - بد) [ع - ۱ - ممت] ہمیشگی - وہ زمانہ جس کی انتہا نہ ہو۔  
 ابدال آباد - ہمیشہ - دوام۔  
 ابداء - (أ - ب - دن) [ع] ہمیشہ کے لیے - ابد تک - قطعاً۔  
 ابداء - (أب - دا) [ع - ۱ - مذ] پیدا کرنا - وجود میں لانا - ظاہر کرنا۔  
 ابداء ابد - (أب - دا - ا - بد) [ع] ہمیشہ ہمیشہ - قیامت تک۔  
 ابداع - (أب - دا - ع) [ع - ۱ - ممت] اختراع - ایجاد - نئی چیز نکالنا۔  
 ابدال - (أب - دال) [ع - ۱ - مذ] اہل تصوف کے نزدیک اولیاء اللہ کا وہ گروہ جس کے سپرد دنیا کا انتظام ہے - اولیاء اللہ کے دس طبقات میں سے پانچواں طبقہ (۲) افغانوں کے ایک جگے کا مورث اعلیٰ۔  
 ابدالی - (أب - ذ - لی) [ع - ۱ - مذ] افغانوں کے ایک قبیلے سے منسوب۔  
 ابدان - (أب - دان) [ع - ۱ - مذ] بدن کی جمع - بہت سے جسم۔  
 ابدھت - (أب - دھوت) [ع - ۱ - ہ] سدھ جوگی - ہندو فقیروں کا ایک گروہ جو واجب الوجود کے سوا کسی کو نہیں مانتا اور نہ کسی خاص ناعد کے سے خدا کی پرستش کرتا ہے۔  
 ابدی - (أب - دی) [ع - ۱ - صفت] دائمی - جاودانی - غیر فانی - سرمدی۔  
 ابدیت - (أب - دی - بیت) [ع - ۱ - ممت] ہمیشگی - بقائے دوام۔  
 ابر - (أب - مذ) (۱) بادل - گھٹا - بدلی (۲) جو ہر شمشیر اور وہ نشان جو ہتھیاروں وغیرہ پر تیزاب کے ذریعہ ڈالتے ہیں۔  
 ابر اٹھنا - بادل اُٹنا - آسمان پر بادل چھانا۔  
 ابرا ذری - (أب - ذ - ف) [ع - ۱ - مذ] بہار کا بادل جو برساتا کم ہے اور گر جتا زیادہ ہے۔  
 ابر باران - (أب - مذ) برسنے والا بادل۔  
 ابر بہار - موسم بہار کا بادل۔  
 ابر بہمن - شمسی مہینے بہمن کا بادل۔  
 ابر چھٹنا - بادلوں کا ٹکڑے ہو کر منتشر ہو جانا۔  
 ابر تصویر - کاغذ پر ابر کی شکل۔  
 ابر تنک - ہلکا سا ابر۔  
 ابر تیرہ - کالی گھٹا - سیاہ بادل۔  
 ابر تیغ - تلوار میں جو ہروں کے مثل زرنکاری خطوط کا سلسلہ۔

ابر چھٹنا - ابر گھٹنا - گھٹا کا کھل جانا - مطلع صاف ہونا۔  
 ابر دریا بار - بہت برسنے والا بادل۔  
 ابر رحمت - رحمت کا بادل - وہ بادل جس کی بارش سے مخلوق کا بھلا ہو۔  
 ابر سیہ تاب - کالی گھٹا۔  
 ابر غلیظ - گہرا بادل - کالی گھٹا۔  
 ابر قبلہ - وہ بادل جو کچھم کی طرف سے اُٹھے۔  
 ابر کا لکڑہ - ابر کا ٹکڑہ۔  
 ابر گرم - (۱) بخشش کا بادل (۲) بادل کی طرح سخاوت - فیاض - سخی۔  
 ابر کو دیکھ کر گھڑے پھوڑنا [مثل] موبہم اُمید پر موجودہ چیز بھی کھو بیٹھنا۔  
 ابر کو ہسار - ابر کو ہساری - وہ بادل جو پہاڑ کی طرف سے اُٹھے۔  
 ابر گوہر (گہر) بار - موٹی برس آنے والا بادل - ابر نیساں۔  
 ابر گھڑنا - بادل کا اُٹھنا - گھٹا چھانا۔  
 ابر محیط - چاروں طرف چھایا ہوا بادل - ہر طرف پھیلی ہوئی گھٹا۔  
 ابر مردہ - اسفنج یا اسفنج۔  
 ابر نیساں - شمسی بیٹنے نیساں میں (جو کہ ستمبر کے مطابق ہوتا ہے) برسنے والا بادل - مشہور ہے کہ اس سے سیسی میں موتی - کیلے میں کافور - بانس میں مندرجن اور سانپ میں زہر بنتا ہے۔  
 ابر و باد - آندھی اور پانی۔  
 ابرا - اترہ - (أب - را - آب - رہ) [ع - ۱ - مذ] دوہرے کٹرے کی اُپری برت۔  
 ابرار - (أب - رار) [ع - ۱ - مذ] بُر کی جمع - نیلکار - پرہیزگار لوگ - اولیاء اللہ۔  
 ابرام - (أب - رام) [ع - ۱ - مذ] آئینہ کرنا - طول کرنا - بچیدگی - التماس کیسیگی کسی کام کا مضبوط کرنا۔  
 ابرش - (ع - صفت - مذ) چٹکرا - سیاہ و سفید - ابلق - وہ گھوڑا جس میں سُرخ اور سفید رنگ ہوں۔  
 ابرص - (أب - رض) [ع - ۱ - صفت] سفید کوڑھ کا بیمار - کوڑھی۔  
 ابرق - ابرک - (أب - رق) [ع - ۱ - صفت] (أب - رک) [ع - ۱ - صفت] دو سر ہندی - ابرق - (ممت) ایک قسم کی چمکیلی دھات۔  
 ابرن - ابرہن - (أب - رن) [ع - ۱ - مذ] گھٹا۔  
 ابرو - (أب - رو) [ع - ۱ - ممت] آنکھوں کے اوپر والے ہلالی شکل کے بال - بھوئی - جمع - ابرو اں۔  
 ابرو پر بل پڑنا - ابرو پر سکن آنا (پڑنا) (مماورہ) خفا ہونا - نیوری چڑھانا۔  
 ابرو پر نیل نہ آنا - ذرا بھی صدفے کا اثر نہ ہونا - کوئی افسوس نہ ہونا۔  
 ابرو تاننا - غصے میں بھنویں اُپر چڑھانا۔  
 ابرو کمان - وہ شخص جس کے ابرو کمان کی طرح ہوں - خوبصورت عورت۔  
 ابرو کھینچ جانا - بھنویں تن جانا - غصہ ہونا۔  
 ابرو کے خم کھٹنا - غصہ اُتر جانا۔  
 ابرو میں چین آنا - ابرو میں بل آنا۔  
 ابرو ہلانا - ابرو کو جنبش دینا - ابرو سے اشارہ کرنا۔  
 ابرو سے پیوستہ - وہ بھنویں جو ایک دوسرے سے ملی ہوئی ہوں۔



ابرئے نلک - ہلال - پہلی رات کا چاند۔  
 ابرہہ - (ع - مذ) یمن کا حبشی گورنر جس نے چھٹی صدی عیسوی کے نصف  
 اول میں ماقبوں سے خانہ کعبہ پر حملہ کیا تھا لیکن ابا بنیوں کے کٹر بھینکنے سے اس کی  
 ساری فوج ختم ہو گئی۔ یہ واقعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے  
 کچھ عرصہ پہلے ہوا۔  
 ابری - (آب - ری) [ف - ا - مٹ] ایک قسم کا رنگدار کاغذ جس پر ابر سے  
 نشان بنے ہوتے ہیں اور اسے کتابوں کی جلدوں پر لگاتے ہیں۔  
 ابری تلوار - تلوار جس میں ابر کی صورت کے جوہر ہوں۔  
 ابریشم - (آب - ری شیم) [ف - ا - مذ] کچا ریشم۔  
 ابریشمینہ - (آب - رش - می - نہ) [ف - صفت] ریشم کی چیز۔  
 ابریتی - (آب - ریتی) [ع - ا - مذ] (۱) چھانگل - صراحی - پانی پینے کا لٹا۔ پانی  
 کا ایک ٹونٹی اور دستہ وار برتن (۲) چھیلی تلوار - جمع : ابا ریتی۔  
 اَبَسَا - (اُ - بس - نا) [ہ - مص] گلنا سڑنا - کھانے کی چیز میں سڑنے کے  
 آثار پیدا ہو جانا۔ ذائقے میں فرق آ جانا۔  
 اَبْصَارٌ - (آب - صا) [ع - ا - مذ] بصر کی جمع - آنکھیں - نظریں  
 اَبْصَارٌ - (آب - صا) [ع - ا - مذ] بصر کی جمع - بصیرت - دانائی۔  
 اَبْطَالٌ - (آب - طال) بطل کی جمع - بہادر لوگ - بڑے انسان - ہیرو۔  
 اَبْطَالٌ - (آب - طال) [ع - ا - مذ] باطل کرنا - جھوٹا کرنا - غلط قرار دینا۔  
 اَبْغَاوٌ - (آب - غا) [ع - ا - مذ] بعد کی جمع - دوریاں - فاصلے - کسی چیز کی پیمائش  
 یا وزن کی حد یعنی لمبائی - چوڑائی - موٹائی - گہرائی - حجم - رقبہ وغیرہ۔  
 اَبْعَادٌ ثلاثہ - تین بعد یعنی لمبائی و چوڑائی اور گہرائی۔  
 اَبْكَارٌ - (آب - کار) [ع - ا - مٹ] جمع بکر کی - کنواری لڑکیاں - اچھوتے  
 اور نادار مضامین۔  
 اَبْكَارٌ - (آب - کار) [ع - ا - مٹ] مہربانی - عنایت - نوجہ - کرم - احسان  
 اَبْكَانِيٌّ - (آب - کا - ای) [ہ - ا - مٹ] تھے - تسلی - طبیعت کا مالش کرنا۔  
 اَبْكَانِيٌّ اَنَا - مثلی ہونا - جی مالش کرنا - قے آنا۔  
 اَبْكَانِيٌّ لَنَا - بار بار قے آنا - مثلی ہونا۔  
 اَبْكَانَا - (آب - نا) [ق - مص] اُبھرنا - اُبھٹنا - اُدرا نا - غوطہ کھا کر اُدرا نا۔  
 اَبْلَ اَنَا - (آب - انا) [ہ - مص] کسی سیال چیز کا جوش کھانا - جوش مارنا۔  
 (۲) سوجنا - آشوب ہو جانا۔  
 اَبْلُ پَرْنَا - (محادہ) بھا بھلا کھنا - خفا ہونا (۲) باہر نکل آنا (۳) پھوٹ پڑنا  
 ظاہر ہو جانا۔  
 اَبْلَا - (آب - لا) [س - ا - مٹ] کمزور عورت - نازک عورت - کامنی۔  
 اَبْلَا پَرِي - نازک اندام - خوبصورت عورت۔  
 اَبْلَا بِلِي - (آب - لب - لی) [ق - صفت] (۱) بہت طاقتور - نہایت قوی۔  
 (۲) دکنی بادشاہ علی عادل شاہ کا لقب۔  
 اَبْلَاغٌ - (آب - لاغ) [ع - ا - مذ] پہنچانا - بھیجنا (۲) تبلیغ - اشاعت  
 اَبْلُ (پڑنا) چلنا - (ہ - مص) (۱) بہت خفا ہونا (۲) کم ظرفی سے کچھ کہہ  
 بیٹھنا - اوجھے پن سے ہید نہ چھپا سکنا (۳) کثرت سے ہونا۔  
 (۴) کسی سیال شے کا اَبْلُ جانا۔

اَبْلُ جانا - (آب - نا) [ہ - مص] جوش کھا جانا - جھلک پڑنا۔  
 اَبْلَقٌ - (آب - نق) [ع - صفت] (۱) دوزنگا چنگر اخصوصاً سیاہ و سفید۔  
 (۲) دوزنگا گھوڑا (۳) کوڑھی۔  
 اَبْلَقٌ اَيَّامٌ - اَبْلَقٌ لَيْلٌ و نهار - رات دن۔  
 اَبْلَقٌ چشتم - خوبصورت آنکھوں والا۔  
 اَبْلَقٌ روزگار - رات دن۔  
 اَبْلَقًا - اَبْلَقَةٌ - (آب - ل - قا) (آب - ل - قہ) [اُ - ا - مذ] مینا سبوتا ہلکا  
 ایک پزند جس کے پُرسیاہ اور پوٹا سفید ہوتا ہے۔  
 اَبْلَنَا - (آب - نا) [ہ - مص] (۱) کھولنا - جوش کھانا - جوش کھا کر باہر نکل  
 آنا (۲) دولت یا اولاد پر مغرور ہونا - جھلک پڑنا - ناروں سے باہر  
 نکل جانا (۳) ظاہر ہونا عیاں ہونا (۴) کم ظرفی دکھانا (۵) غصہ میں  
 آنا (۶) سوجنا - پھولنا۔  
 اَبْلَكَةٌ - (آب - لہ) [ف - صفت] نادان - بیوقوف - احمق - جمع ابلہاں  
 اَبْلَكَةٌ فَرِيْبٌ (صفت) دھوکا باز - مکار - بے وقوف کو دھوکا دینے والا۔  
 ابلہ فریبی - ابلہ طرازی - دغا - مکر - عیاری (۲) بہکانا - سبز باغ دکھانا  
 (۳) بے وقوف بنانا۔  
 اَبْلَهِيٌّ - (آب - ل - ہی) [ف - ا - مٹ] حماقت - سامگی - بیوقوفی - احمق پن۔  
 اَبْلَيْسٌ - (آب - لیس) [ع - ا - مذ] (۱) خدا کی رحمت سے نا امید۔  
 (۲) شیطان (۳) خبیث - پلید (۴) شریر - سرکش - فساد کی جھنگڑا  
 ابلیس کا پیشاب - ابلیس کا جانا - شیطان کا نطفہ - بد ذات  
 اَبْلَيْسِيَّتٌ - (ع - مٹ - صفت) سرکش - شیطنت - فتنہ انگیزی۔  
 اَبْنٌ - (ع - ا - مذ] بیٹا - فرزند - پسر - پتر - جمع : ابناء  
 اَبْنُ الْاَخِ - (ع) بھائی کا بیٹا - بھتیجا۔  
 اَبْنُ الْاُخْتِ - (آب - نل - اخت) بہن کا بیٹا - بھانجا۔  
 اَبْنُ اَسْبَلٍ - مسافر - راہی (فتہ) جو شخص مال تو رکھتا ہو مگر اس پر قابض نہ ہو  
 اَبْنُ الْوَقْتِ - زمانہ ساز - قابوچی - وہ شخص جو مقتضائے وقت کام کرنا ہو  
 اَبْنُ الْغَرَضِ - (آب - نل - غرض) غرض کا بندہ - مطلبی۔  
 اَبْنُ مَرْيَمَ - بی بی مریم کے بیٹے حضرت عیسیٰ علیہ السلام  
 اَبْنُ مَلْحَمَ - (ع - کینت) حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا قاتل۔  
 اَبْنَاعٌ - (آب - نا) [ع - ا - مذ] ابن کی جمع - بیٹے۔  
 ابنائے جنس - ہم جنس - ایک ہی جنس کے۔  
 ابنائے جہاں - افراد انسانی - اولاد آدم جواز رئے انسان بھائی بھائی ہیں  
 ابنائے زمانہ - ابنائے وقت - زمانے کے لوگ - زمانہ ساز لوگ۔  
 ابنائے وطن - ابل وطن - دیس کے لوگ۔  
 اَبْنَةٌ - (آب - نہ) [ع - مٹ] ایک مرض جس میں اغلام کرنے کی خواہش ہوتی ہے  
 اَبْنِيَّتٌ (آب - نیت) [ع - مٹ] بیٹا ہونا - فرزندگی - بیٹا ہونے کی  
 حیثیت۔  
 اَبُو - (آب - بو) [اُ - ا - مذ] پیار سے باپ کو کہتے ہیں۔  
 اَبُو - (آب - بو) [ع - ا - مذ] (۱) باپ - پدر (۲) صاحب - مالک۔  
 اَبُو الْاَبَا - (آب - ابا) مورث اعلیٰ - جد اعلیٰ (۲) بزرگ خاندان (۳) سرخیل



ابھی تم (بچے) صابز اڑے ہو۔ (مجاورہ) ابھی تم نا تجربہ کار ہو۔ ابھی عقل نہیں آئی۔  
 ابھی گھٹی کا دودھ نہیں سوکھا۔ [امثل] کسی کے لڑکپن۔ نادانی اور نا تجربہ کاری ظاہر کرنے پر کہتے ہیں۔ ابھی نادان بچے ہو۔  
 ابھی دلی دُور ہے۔ [امثل] ابھی مقصد پورا ہوتا نظر نہیں آتا۔ ابھی بہت وقت پڑا ہے۔ اس مقام پر بوتے ہیں جہاں کسی بات کو بہت زمانہ باقی ہو۔ (بیزد بچھے ہنوز دلی دُور است)  
 ابھی دودھ کے دانت نہیں ٹوٹے [امثل] ابھی بچے ہو۔ نا تجربہ کار ہو۔ ابھی دیکھا گیا ہے۔ (مجاورہ) نا تجربہ کار ہیں۔ دُنیا کا تجربہ نہیں۔  
 ابھی سویرا ہے [مثل] ابھی کچھ حرج نہیں ہوا ہے۔ ابھی کچھ نہیں گیا ہے۔ ابھی سے۔ (۱) اسی وقت سے (۲) پیشتر سے قبل از وقت (۳) اس عمر میں۔  
 ابھی سیر میں سے پونی بھی نہیں کتی۔ [امثل] ابھی کام شروع ہی ہوا ہے ابھی بہت تھوڑا کام ہوا ہے۔ بہت کام باقی ہے۔  
 ابھی کچا برتن ہے۔ ابھی کچی لکڑی ہے۔ کسن اور نا تجربہ کار ہے۔ ابھی تجربہ نہیں ہے۔  
 ابھی کچھ نہیں بگڑا ہے (گیا ہے) ابھی وقت ہے۔ اب بھی کچھ ہو سکتا ہے۔  
 ابھی کچھ گھڑے پانی بھرنے [امثل] ابھی بہت مشکل کام باقی ہے۔ ابھی کل کی بات ہے۔ تھوڑے زمانہ کا واقعہ ہے۔ تھوڑی مدت گزری ابھی کیا ہے (مجاورہ) ابھی کیا ہوا ہے۔ معاملہ ختم نہیں ہو گیا۔ اُنڈے اس سے زیادہ ہوگا۔  
 ابھی کے دن ہوئے (مجاورہ) ابھی وقت ہے۔ اب بھی کچھ ہو سکتا ہے۔ ابھی منہ سے دودھ ٹپکتا ہے۔ [امثل] ابھی لڑکپن ہے۔  
 ابھی منہ کی رال نہیں جھڑی۔ ابھی نا تجربہ کاری کا عالم ہے۔  
 ابھی ہونٹوں کا دودھ نہیں سوکھا۔ ابھی بالکل بچے ہو۔ نادان اور نا سمجھ ہو۔  
 ابھیاس۔ (س۔ مذ) کام کو بار بار کرنا (۲) روحانی ریاضت (۳) عادت یا مہارت پیدا کرنا۔  
 ابی دبی۔ (اب۔ بی۔ دب۔ بی) [۵-۱-مٹ] گلی ڈنڈا کھیلنے میں جب گلی کو اچھالتے ہیں اور ڈنڈے پر روکتے ہیں تو ضرب اول کو ابی اور دوسری کو دبی کہتے ہیں۔  
 اَبے (ا۔ بے) [۵-۱-ارے۔ او۔ اینے سے بہت چھوٹی عمر یا کم دبے والے کو مخاطب کرنے کا ایک طریقہ۔  
 اَبے تیسے کرنا۔ بد تہذیبی سے پیش آنا۔ بیہودگی کرنا۔ بازاری بول چال۔  
 اَبیات۔ (اَب۔ یات) [ع۔ ف۔ ۱-مذ] بیت کی جمع۔ اشعار (۲) بہت سے گھر۔  
 اَبیر۔ (ا۔ بیر) [۵-۱-مذ] ابرک کا برادہ جو ہولی میں خوشی کے وقت ہندو آپس میں ایک دوسرے پر چھڑکتے ہیں۔  
 اَبیض۔ (اَب۔ بیض) [ع۔ صف] اُجلا۔ سفید۔

امام۔ (۴) حضرت آدم۔  
 ابوالانبیاء۔ (اَب۔ اَن۔ بیا) [ع۔ کنیت] حضرت آدم علیہ السلام  
 ابوالبشر۔ انسان کا باپ۔ حضرت آدم علیہ السلام۔  
 ابوالحسن۔ (اَب۔ اَل۔ حَسَن) [ع۔ کنیت] حضرت علیؓ کی کنیت  
 ابوالخیر۔ (اَب۔ اَل۔ خَیْر) [ع۔ کنیت] مشہور فارسی شاعر ابو سعید ابوالخیر۔  
 ابوالقاسم۔ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیت۔  
 ابوالہول۔ ایک خیالی جانور جس کا چہرہ مثل عورت کے اور جسم شیر کی مانند ہے۔  
 ابوبکر۔ مسلمانوں کے خلیفہ اول کی کنیت۔  
 ابوتراب۔ مٹی کا باپ۔ حضرت علیؓ کی کنیت۔  
 ابوجہل۔ (ع۔ کنیت) ابوجہل عمر بن ہشام مخزومی کی کنیت۔ اسلام دشمنی کی پر مسلمانوں نے اسے ابوجہل کہنا شروع کیا۔  
 ابوحنیفہ۔ (ع۔ کنیت) امام اعظم حضرت نعمان بن ثابت علیہ الرحمۃ کی کنیت۔  
 فقہ حنفیہ کے امام۔  
 ابوذر۔ (ع۔ کنیت) جناب بن سناوہ العفاری مشہور صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیت۔  
 ابوطالب۔ (ع۔ کنیت) آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا۔ جنھوں نے حضورؐ کی پرورش کی۔ حضرت علیؓ کے والد محترم۔  
 ابولہب۔ (ع۔ کنیت) حضورؐ کے چچا۔ مگر اسلام کے بدترین دشمن۔  
 ابوعلی سینا مشہور طبیب حسین بن عبداللہ کی کنیت۔ کتاب شفا کا مصنف۔  
 ابواب۔ (اَب۔ وَاَب) [ع۔ ۱-مذ] (۱) باب کی جمع۔ کتاب کے حصے (۲) دروازے۔  
 ابھار۔ (ا۔ بھار) [۵-۱-مذ] (۱) اُدبجائی جو کسی چیز کے پھولنے یا ابھرنے سے ظاہر ہو۔ اٹھان۔ غمو (۲) ظہور (۳) بڑھنے کا عمل۔ پستان  
 ابھارنا۔ (ا۔ بھا۔ ر۔ نا) [۵-مض] (۱) اُکسانا۔ تحریک کرنا (۲) سہارا دینا۔ اُونچا اٹھانا۔ اُونچا کرنا (۳) بھگالے جانا (۴) بہکانا۔ درخلانا (۵) ترانا۔ ڈوبنے کو سنبھالنا (۶) فروغ دینا (۷) باہر کرنا۔ اُوپر لانا۔  
 ابھاگ۔ (اَب۔ ہا۔ گ) بد قسمت۔ بد نصیب۔  
 ابھاگن۔ بد نصیب عورت۔  
 ابہام۔ (اَب۔ اہم) [ع۔ ۱-مذ] (۱) اُنگوٹھا (۲) صاف بیان نہ کرنا۔ گول مول بات کہنا (۳) ادب میں ایک صنف کا نام  
 ابھرن۔ (اَبھ۔ رن) [ق] (۱) زیور (۲) لباس (۳) آرائش۔  
 ابھرتا۔ (اَبھ۔ رتا) [۵-مس] (۱) اُدبجائی ہونا۔ اُوپر آنا (۲) پھوٹنا۔ پودا نکلنا (۳) جوان ہونا۔ قد نکالنا۔ بڑھنا (۴) ترنا۔ غوطہ کھا کر نکلنا (۵) چلتا ہونا۔  
 رنوجیکر ہونا۔ چل دینا (۶) ظاہر ہونا (۷) الگ ہونا۔ جدا ہونا۔  
 ابھروان۔ (اَبھ۔ وان) [ع۔ صف] ابھرتا ہوا۔ اُکھیرا ہوا۔  
 ابھلاک (اَبھ۔ لاک) [ق۔ ۱-مذ] خواہش۔ آرزو (۲) فرض (۳) لذت۔ مزا  
 ابھمان۔ (اَبھ۔ مان) [۵-۱-مذ] غرور۔ گھمنڈ۔ تکبر (۲) خود داری۔  
 ابھی۔ (اَبھی) [۵] (۱) فی الحال (۲) فوراً۔ اس وقت (۳) تھوڑی دیر پہلے (۴) ذرا سی دیر بعد (۵) اتنی جلدی (۶) ہنوز۔ اب تک۔  
 ابھی ابھی۔ اسی وقت۔ فوراً۔ اسی دم (۲) ذرا دیر پہلے۔



# ا- پ

آپاٹ - (ا.پاپ) [ہ-صف] بے گناہ - معصوم  
 آیا دھی - (ا.پا.دھی) [ہ-صف] غلام - فسادی بنا انصاف -  
 آپا دھیانی - (س.ند) معلم - استاد (۲) دیدوں کا پڑھنے والا (۳) برہمنوں  
 کی ایک قسم -  
 آبار - (س.صف) ناقابل عبور (۲) بہت زیادہ بے حد شمار  
 آپاڑ - (ا.پاڑ) [ہ-ا.مذ] (۱) تیز دو اور خیرہ سے بدن کی کھال اڈنا (۲) آبلہ پڑنا  
 (۳) اکھاڑنا - ادھیڑنا -  
 آپاڑنا - (ا.پاڑنا) [ہ-مص] اکھاڑنا - زمین سے درخت یا بوڑا الگ کرنا -  
 درختوں کو نوجیا کھسوٹنا (۳) بگاڑنا - (۳) کاجل و خیرہ کا تیار کرنا -  
 آپالو - (Apollo) (ا.پا.لو) [یو-ا.مذ] یونانی دیو مالایں روشنی  
 جوانی - موسیقی اور مردانہ حسن کا دیوتا  
 آپانج - (ا.پا.ہج) [ہ-صف] (۱) ٹولا لنگڑا - لنگھا - چلنے پھرنے سے معذور  
 (۲) سُست - نیکا - ناکارہ -  
 آپائنٹ منٹ - (Appointment) (ا.پا.نٹ منٹ)  
 [انگ-ا.مذ] تقرر - تعین -  
 آپائے - (ا.پا.اے) [س-ا.مذ] تدبیر - ترکیب - منصوبہ -  
 آپائن - (ا.پا.ن) [ہ-ا.مذ] پیدائش - نسل - کنبہ - پیداوار - وصول شدہ معاملہ -  
 آپائن - (ا.پا.ن) [ہ-ا.مذ] دیکھنے - اُٹھنا -  
 آپیننا - (ا.پا.ننا) [ق-مص] (۱) بلند ہونا (۲) بگڑنا - غصے میں آنا -  
 آپنچ - (ا.پا.نچ) [ہ-ا.مذ] (۱) اگنا - نمو - اُبھار - (۲) نئی بات - ایجاد -  
 اختراع -  
 آپنچ کی لینا - (معاورہ) نئی بات نکالنا - ایجاد کرنا (۲) نئی تان لگانا (۳)  
 جودت طبع دکھانا - جدت پیدا کرنا - شیخی دکھانا -  
 آپنہارا (ا.پنہارا) (ا.پا.نہارا) (ا.پا.جان-ہا-را) [ق-ا.مذ]  
 خالق - پیدا کرنے والا - خدا -  
 آپنجاؤ - (ا.پا.جاؤ) [ہ-صف] زرخیز جس میں پیداوار اچھی ہو -  
 آپنچنا - (ا.پا.نچنا) [ہ-مص] پیدا ہونا - اُٹنا -  
 آپنچ - (ا.پا.نچ) [ق] ظاہر - وجود - نمو -  
 آپنجان ہاری - (ا.پا.نجان-ہاری) [ق-ا.مذ] اُبھرنے والی - اُٹھنے والی -  
 آپنچاؤنا - (ا.پا.چاؤنا) [ق-مص] آباد کرنا -  
 آپنچیری - (ا.پا.چیری) [ق-ا.مذ] حور - پری - خوبصورت عورت - آپسرا  
 آپنیش - (ا.پا.نیش) [ہ-ا.مذ] (۱) نصیحت - مشورہ - نیک صلاح - نمائش  
 (۲) تعلیم - وعظ - (۳) تجویز - ہدایت -  
 آپنیشک - [ہ-ا.مذ] ناصح - استاد و وعظ - لیکچرار -  
 آپنہ - (ا.پا.نہ) [س-ا.مذ] پاپ - قصور - جرم (۲) بھول - چوک -  
 آپنہ دھی - (ا.پا.نہ-دھی) [س-صف] پاپی - ملزم -  
 آپنہ (Upper) [انگ-صف] (۱) بلند - اعلیٰ - (۲) اُوپر کا -  
 بالائی -

اپرنٹس (Apprentice) (ا.پا.رن-ٹس) [انگ-ا.مذ] ملازمت  
 کا امیدوار (۲) نو آموز (۳) بغیر اجرت یا کم اجرت پر کام سیکھنے والا -  
 آپریشن - (Operation) [انگ-مذ] علاج کے لیے جسم کے کسی  
 حصے کو کاٹنا - فاسد مادہ نکلنے کے لیے چیر بھاڑ کرنا - عمل جراحی -  
 اپریل - (April) (ا.پا.ریل) [انگ-ا.مذ] انگریزی سال کا چوتھا  
 پہلی اپریل کو دوسرے کو احمق  
 اپریل فول (April Fool) پہلے اپریل کو دوسرے کو احمق  
 بنانے کی رسم -  
 آپرٹنا (اپرٹنا) (ا.پا.رٹنا) [ق-مص] پہنچنا - رسائی ہونا -  
 آپرٹنا - (ہ-مص) اُکھڑنا - نشان پڑنا -  
 آپس - (ا.پا.س) [ق] (۱) حکم (۲) اپنا - اپنے - آپ  
 آپستا - (ا.پا.ستا) [ق-مص] آپ سے  
 آپسرا - (ا.پا.سرا) [س-ا.مذ] (۱) جنت کی پری (۲) زنبیوں کی  
 ایک قسم - اندر کی سمجھ میں نہ آنے والی پری - طوائف (۳) خوبصورت عورت -  
 آپسے - (ا.پا.سے) [ق-مص] "آپ سے" کا بگاڑ - مراد از خود -  
 آپسکار - (ا.پا.سکار) [س-ا.مذ] مہربانی - غنائیت - توجہ - احسان -  
 آپلا - (ا.پا.لا) [ہ-ا.مذ] (۱) کڈنا - گوبر - ایندھن کے لیے گوبر کے کھائے  
 ہوئے رٹے (۲) تھپانی (۳) بد قطع - بد نما -  
 آپلا پاتھنا (تھاپنا) (مص) اپنے بنانا - گوبر جمع کر کے اپنے گھڑنا -  
 آپلانی (Apply) (ا.پا.لا-ای) [انگ-مص] درخواست کرنا - عرضی دینا -  
 اپلی - (ا.پا.لی) [ہ-ا.مذ] چھوٹا آپلا - کنڈی -  
 اپلی کیشن (Application) (ا.پا.لی-کے-شن) [انگ-ا.مذ]  
 درخواست - عرضی -  
 آپن - (ا.پا.ن) [ق-مص] اپنے سے متعلق - اپنا پن - خود -  
 آپننا - (ا.پا.ننا) [ہ-مص] (۱) میرا - ہمارا (۲) ذاتی - سچ کا خاص (۳) تمہارا  
 (۴) رشتہ کا - کنبہ کا - بھائی برادر - اولاد - بیگانہ (۵) ہمدرد - دوست  
 (۶) مقبوضہ - مملوکہ - زرخیز -  
 اپنا آپا - اپنا نفس - اپنا دل - اپنی جان -  
 اپنا اپنا - جدا جدا - انگ انگ - ہر ایک کا -  
 اپنا اپنا پر اپنا پر اپنا - [امثل] عزیز سے لاکھ لکڑی ہو پھر بھی عزیز ہے او  
 غیر کتنا ہی دم بھرے لیکن عزیز کے برابر نہیں ہو سکتا -  
 اپنا اپنا جی - اپنی اپنی طبیعت یا رائے -  
 اپنا اپنا (راستہ) رشتہ لینا - اپنی اپنی طرف چلے جانا - اپنی اپنی مرضی کرنا -  
 اپنا اپنا کرنا اپنا اپنا بھرنا [امثل] جو جیسا کرے گا ویسا بھرے گا -  
 اپنا اپنا کمانا اپنا اپنا کھانا - اپنی قوت بازو سے پیدا کر کے گزار دکرنا (۲)  
 ہر شخص اپنی جگہ مختار ہے - آزاد ہے -  
 اپنا اپنا گھولو اپنا اپنا سو - اپنے کام کے لیے اپنی گرہ سے صرف کرو -  
 پرانی چیز میں حصہ نہ لگاؤ -  
 اپنا اپنا لینا ہے - [امثل] اپنی اپنی قسمت ہے -  
 اپنا اپنا مذاق - ہر شخص کا اپنا اپنا سٹون اور خواہش انگ انگ ہوتی ہے -  
 اپنا اپنا مقدر - اپنا اپنا مقسوم - اپنا اپنا نصیب - اپنا اپنا نصیبہ - ہر



شخص کی قسمت الگ الگ ہے۔

اپنا اپنا ہی ہے پر اپا پر اپا ہی ہے۔ [ایشل] عزیز عزیز ہی ہے۔ غیر غیر ہے۔ (۲) اپنی چیز پر پورا اختیار ہوتا ہے غیر کی چیز پر کیا اختیار۔ اپنا اُو سیدھا کرنا۔ اپنا مطلب نکالنا۔ اپنا کام بنانا۔ کسی کو اجنبی بنا کر اپنا کام نکال لینا۔ اپنا اُو کہیں نہیں گیا۔ ہمارا مطلب ہر حال میں نکل ہی آئے گا۔ (۲) کوئی نفع اٹھانے یا نقصان ہم اپنے نئے سیدھے کر ہی لیں گے (۳) ہمارا کام تو ہو کر ہے گا۔ اپنا بالا اور پر اپنا ڈھینگر۔ اپنا پوت پر اپنا ڈھینگر۔ ایک ہی بات پر اپنے بچے کو نادان کہہ کر چھوڑ دینا مگر دوسرے کے بچے کو برا بھلا کہنا۔

اپنا بس چلنا۔ اپنا قابو ہونا۔

اپنا بنا لینا۔ موافق کر لینا۔ اپنے ساتھ ملا لینا۔ دوست بنا لینا۔ اپنا بنا نا۔ (محاورہ) طرف دار بنانا۔ دوست بنانا (۲) رشتہ جوڑنا کسی چیز کو اپنی ملکیت قرار دینا (۳) فریقتہ بنانا۔ دلدادہ بنانا۔ اپنا بوجھ ڈالنا۔ اپنا بار دوسرے کے سر ڈالنا۔ اپنا پھلا چاہنا۔ اپنے ہی فائدے کا خواہاں ہونا۔ اپنا بھی خدا ہے۔ جب کسی طرف سے مایوسی ہو تو کہتے ہیں یعنی اگر فلاں نے یا تم نے مدد نہیں کی تو خیر خدا ہمارا کام کر دے گا۔

اپنا (بیگانہ) پر اپنا۔ بیگانہ و بیگانہ۔ عزیز وغیرہ۔

اپنا پن۔ اپنا نیت۔ یگانگت۔

اپنا پیٹ تو کتابھی پالتا ہے۔ [ایشل] اُس شخص کے متعلق کہتے ہیں جو اپنی تن پروری کرے اور دوسروں کی خبر نہ لے۔ اپنا پیٹ کاٹ کر قرض اُتارنا۔ [ایشل] بھوکا رہ کر اور پیسہ بچا کر قرض ادا کرنا۔

اپنا پیٹ مارنا۔ (محاورہ) اپنی خواہش کو مٹانا۔ اپنے نفس کو دبا دینا۔ (۲) ایشا کرنا۔

اپنا پیسہ (سونا) کھوٹا پر کھنے والے کا کیا دوش۔ [ایشل] اپنی ہی اولاد لائق نہیں تو دوسرے کی کیا خطا۔

اپنا تن پہلے ڈھانکو دوسرے کو ننگا کھچے کہنا۔ [ایشل] اپنی بُرائیاں تو پہلے دُور کر لو پھر دوسرے کو بُرا کہنا۔

اپنا تو شہ پہلے بھر وسہ۔ [ایشل] اپنا بند و بست خود کرنا۔ دوسرے کے بھروسے پر نہ رہنا چاہیے۔

اپنا ٹھکانہ (گھرنا) کر لینا۔ اپنے گزارے کی تدبیر کرنا۔ اپنے لئے کوئی جگہ تلاش کرنا۔ اپنے رہنے کی جگہ پیدا کرنا۔

اپنا ٹھیک نہیں اور کانیٹک نہیں۔ [ایشل] بیوقوف اور نا سمجھ شخص کے متعلق کہتے ہیں کہ نہ اپنی عقل ہے نہ دوسرے کی رائے پسند آتی ہے۔

اپنا ٹینٹ نہ نہارے اور کی بھلی دیکھے۔ [ایشل] اپنے بڑے بڑے غیبوں کو نہیں دیکھتے لیکن دوسروں کی ذرا سی خطا کو بھی معاف نہیں کرتے۔

اپنا (اپنے) جو سرد کھانا۔ (محاورہ) (۱) اپنا ہنر ظاہر کرنا (۲) اپنے غیبوں کو ظاہر کرنا۔

اپنا جی۔ اپنی طبیعت یا خواہش۔

اپنا حساب کر لو۔ (محاورہ) اپنا معاملہ صاف کر لو۔ اپنا لین دین بچکا لو۔

(۲) نوکری چھوڑ دو۔

اپنا خون پینا (محاورہ) رنج و غم سہنا۔ بیچ و تاب کھانا۔ ناگوار بات چہرہ کرنا۔ تاؤ کھانا مگر کچھ نہ کہنا۔

اپنا دل۔ اپنی خواہش یا نیت یا مرضی۔

اپنا دیکھئے پر اپنا کیجئے۔ [ایشل] قرض دے کر دشمنی مول لو۔

اپنا رکھ پر اپنا چکھ۔ [ایشل] اپنی چیز حفاظت سے رکھنا اور دوسرے کی ہرپ کر جانا۔ اپنا سامنے لو۔ اپنے کام سے لگو۔ جاؤ چلے جاؤ۔

اپنا (ہی) رونا رونا۔ اپنا دکھ درد بیان کرنا۔ دل کا رنج ظاہر کرنا۔ اپنا ہی درد بیان کرتے رہنا۔

اپنا سا۔ مقابل۔ خود جیسا۔

اپنا سا جانتا ہے۔ دوسرے کو اپنا جیسا خیال کرنا۔

اپنا سا حال دوسروں کا بھی جانو۔ (مقولہ) دوسروں کی تکلیف کا بھی خیال کھو۔ اپنا سامنے لے کر لے کے رہ جانا۔ (محاورہ) خفیف و نادم ہونا۔

سوال پورا نہ ہونے کی شرم سے چپ رہ جانا۔ شرمندگی اٹھانا۔ بات کا جواب نہ بن پڑنا۔

اپنا سیتا دیکھ کے۔ (محاورہ) اپنی فکر کر کے۔ اپنا انتظام کر کے۔

اپنا سیتا کرنا۔ اپنے لیے کوئی فکر یا تدبیر کرنا۔ اپنے لیے آرام کی صورت پیدا کرنا۔ اپنا سر۔ (روزمرہ) کچھ نہیں۔ خاک نہیں۔ ذرا بھی نہیں۔

اپنا سر پٹو۔ (محاورہ) اپنے کیے کا خمیازہ بھگتو۔ اپنی کرنی پر شیمان جو۔

اپنا سر کھاؤ۔ (محاورہ) جو مرضی ہو کر دو۔ بات نہیں سنتے تو تم جانو اور تمھارا کام۔ اپنا سلام ہے (محاورہ) ہم تو ڈر بھاگتے ہیں جلتے ہیں۔ پر ریز کرتے ہیں معاف کھو

اپنا سمجھو۔ (محاورہ) تکلف نہ کرو۔ مغائرت کو دخل نہ دو۔

اپنا سوپ مجھے دے تو ہاتھوں چھوڑو۔ [ایشل] اپنا چھاج مجھے دے دے اور تو اپنا غلہ اپنے ہاتھوں سے پھٹک لے۔ اپنی چیز دے کر خود محتاج ہونا۔

اپنا سو جھنا کرنا۔ (محاورہ) اپنی فکر کرنا۔ حاقبت اندیشی کرنا۔

اپنا قلدہ شجرہ رکھ چھوڑیے۔ اپنا قلدہ شجرہ سنبھالو۔ اپنا کام خود سمجھو۔ اب آپ کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں رہا۔

اپنا کام کرو۔ (محاورہ) اپنے کام میں لگو۔ ہٹو۔ سرکو۔ پرے ہو۔

اپنا کتا باند ضومہم بھیک سے باز آئے۔ [ایشل] ہم فائدے سے درگزرے۔ ہمیں نقصان نہ پہنچائے۔ نفع نہ پہنچاؤ تو دکھ بھی نہ دو۔

اپنا کر لینا۔ (۱) قبضے میں لے آنا۔ مال مار لینا (۲) دوست بنا لینا۔ موافق بنا لینا۔

اپنا کرنا اپنا بھرتا۔ (محاورہ) انسان جو کچھ کرتا ہے۔ اس کی سزا یا جسنا پاتا ہے۔

اپنا کہا کرنا۔ (محاورہ) اپنی رائے پر چلنا۔ کسی کی سنانا۔

اپنا کھانا اپنا ہفتا۔ (محاورہ) کسی کا دست نگر نہ ہونا۔

اپنا کیا آگے آیا۔ [ایشل] بڑے فعل کا خمیازہ بھگتنا پڑا۔

اپنا کیا یانا۔ (محاورہ) اپنے فعل کی سزا بھگتنا۔ کیفر کردار کو پہنچنا۔

اپنا گوشت کھانا۔ (محاورہ) مجبوری کے عالم میں غصہ آنا۔

اپنا کھٹنا کھو لیے آپ ہی لاجوں مرے۔ (کہادت) اپنا عجیب ظاہر کیجئے



اور آپ ہی شرمندگی اٹھایے۔

اپنا گھر بھرنے (محاورہ) کسی کی دولت کو رفتہ رفتہ اپنے قبضہ میں لانا۔

اپنا گھر جاننا (محاورہ) مغائرت کو دور کر کے اپنا گھر بھرنے۔

اپنا گھر بھر، پر اپنا گھر بھوک کا ڈر۔ [امثال] اپنے گھر میں آدمی کو جو اختیار اور آزادی ہوتی ہے وہ غیر کے گھر میں کماں۔

اپنا گھر دور سے سوجھتا ہے۔ [امثال] اپنے مطلب پر سب سے پہلے نظر جاتی ہے۔

اپنا گھر دیکھنا۔ (محاورہ) اپنے فائدے پر نظر رکھنا۔

اپنا لال گنوا کے درو مانگے بھیک۔ [امثال] اپنی دولت لٹا کر دوسروں کا محتاج ہونا۔

اپنا لہو پینا۔ (محاورہ) رنج و غم سہنا۔ سچ و ناب کھانا۔

اپنا لینا کیا پر اپنا دینا کیا۔ [امثال] نہ اپنا قرض لینا نہ دوسرے کا قرض دینا۔

اپنا مارے گا تو پھر چھاؤں میں بٹھائے گا۔ [امثال] بڑا لاکھ دکھ دے پھر بھی اُس کو رنج آ ہی جاتا ہے۔

اپنا مال اپنی چھاتی تلے۔ اپنی چیز کی خود ہی پوری پوری صفحہ صحت ہو سکتی ہے۔ بال عرب پیش عرب۔

اپنا مال جائے آپ ہی چور کھلائے۔ [امثال] نقصان بھی اپنا ہو اور الزام بھی اپنے پر آئے۔

اپنا مرن جگت کی ہنسی۔ [امثال] خود برباد ہونا اور دوسروں کو اپنے آپ پر ہنسانا۔

اپنا مطلب نکالنا۔ اپنی غرض حاصل کرنا۔ اپنا کام بنانا۔

اپنا مکان کوٹ سمان۔ [امثال] اپنا گھر قلعے کی طرح ہونا ہے۔ ہر شخص اپنے گھر میں اپنے آپ کو محفوظ سمجھتا ہے۔

اپنا منہ بنو آ۔ بتو ایسے۔ قابلیت پیدا کرو۔ مرتبہ حاصل کرو۔

اپنا منہ دھو رکھو۔ تم اس چیز کے لائق نہیں۔ یہ کام تمہارے بس کا نہیں اس خیال سے درگزر کرو۔ یہ کام تم سے نہ ہوگا۔

اپنا منہ لے کے رہ جانا (محاورہ) دیکھنے اپنا سامنے لے کے رہ جانا شرمندہ ہونا۔

اپنا نام بدل ڈالیں۔ ضرور ایسا ہی ہوگا۔ اگر ایسا نہ ہو تو ہم اپنا نام بدل ڈالیں۔ شرط اور دعویٰ کے موقع پر کہتے ہیں۔

اپنا منگر پر اپنا ڈھینگر۔ [امثال] دیکھیے اپنا بالا اور کا ڈھینگر۔

اپنا ہاتھ اپنے سر پر۔ کوئی دالی وارث نہیں جو کچھ ہے وہ آپ ہی کا ہے۔

اپنا ہاتھ لٹو ڈالوں۔ کتنا ہوں کہ ایسا ضرور ہوگا۔

اپنا مارا اور مرنی کا مارا کون کتنا ہے۔ [امثال] جواری اپنا نقصان اور جوڑ سے مار کھلنے والا کسی کو نہیں بتاتا۔ اپنی خواری اور ذلت پر پردہ ڈالتا ہے۔

اپنا ہونا۔ دوست ہونا۔ یگانہ بننا۔

اپنا نا۔ (آپ۔ نا۔ نا) (ہ۔ مہص) اپنا کرنا۔ اپنی ملکیت بنانا۔ اپنی طرف کرنا۔

اپنا نیت۔ (آپ۔ نا۔ نا۔ بیت) (ہ۔ صیف) (۱) یگانگت۔ عزیزداری۔ قرابت (۲) واحد معاملہ (۳) گنہ۔

اپنا پٹے سائنٹس (Appendicitis) [انگ۔ ۱۔ مذ] دیکھیے انتہاب زائدہ۔

آپنشد۔ (آپ۔ ن۔ شد) (ہ۔ ۱۔ مت) ہندوؤں کی مذہبی کتابیں جن میں ویدوں کا انتخاب درج ہے۔

اپنوں پر آ گیا۔ (محاورہ) ہرگز نہ ماننا۔ ضد چڑھ گئی ہے۔

اپنی۔ (آپ۔ نی) (ہ۔ ۱۔ ص) اپنا کی تائید۔ ذاتی۔ اپنی آبرو اپنے ہاتھ۔ [امثال] انسان وہ کام ہی نہ کرے جس سے عزت میں فرق آئے۔

اپنی آگ میں آپ جلنا۔ رشک و حسد اور غصے سے آپ ہی بھینکنا۔ کسی کو خوشحال دیکھ کر رنجیدہ ہونا۔

اپنی آنکھ میں۔ اپنی نظر میں۔ اپنی آنکھ کا شہتر نظر نہیں آتا دوسرے کی آنکھ کا تنکا نظر آ جاتا ہے۔ [مثال] اپنے بڑے عیبوں پر نظر نہیں جاتی اور دوسرے کا معمولی تصور بڑا بن جاتا ہے۔

اپنی اپنی بولیاں بولنا۔ ہر ایک کا الگ رائے ظاہر کرنا۔ اپنے اپنے مطلب کی کہنا۔

اپنی اپنی پڑنا۔ نفسی نفسی ہونا۔ اپنا ہی اپنا خیال ہونا۔ آپا دھاپی ہونا۔ اپنی اپنی ڈقلی اپنا اپنا راگ۔ [مثال] ہر شخص الگ الگ راڈ پر ہے۔

اپنی اپنی سب بھگت لیں گے جس پر جیسی پڑے گی وہ نباہ لے گا۔

اپنی اپنی (سمجھ ہے) طبیعت ہے۔ اپنی اپنی عقل ہے جس کی سمجھ میں جسے بھی آجائے اپنی اپنی مرضی ہے۔

اپنی اپنی قسمت۔ اپنا اپنا نصیب۔

اپنی اپنی کھال میں مست ہونا۔ [امثال] دوسروں سے الگ ٹھنک ہو کر اپنا ٹھاٹھ قائم رکھنا۔ سب سے علیحدہ رہنا۔ جماعت سے انحراف کرنا۔ خود رانی۔

اپنی اپنی (کہنا) گانا۔ اپنی اپنی رائے کا اظہار کرنا۔ اپنا مطلب ظاہر کرنا۔

اپنی اپنی گور اپنی اپنی منزل۔ [امثال] کوئی کسی کا ساتھ نہیں دیتا۔ ہر ایک کے نیک و بد اعمال اس کی اپنی ذات سے تعلق رکھتے ہیں۔

اپنی اڑھائی اڑھائی کی مسجد الگ بنانا۔ [مثال] دوسروں سے الگ ٹھنک ہو کر اپنا ٹھاٹھ قائم رکھنا۔ سب سے علیحدہ رہنا۔ جماعت سے انحراف کرنا۔ خود رانی۔

اپنی اصل (اصالت) پر آ جانا۔ اپنی ذات کے موافق کوئی کام کرنا۔ سچ تو م کا کوئی برا کام کرنا۔

اپنی اور تیری جان ایک کمر دوں گا۔ نہایت غصہ میں کہنا کہ تجھے مار ڈالوں گا اور اپنے آپ کو بھی ہلاک کر لوں گا۔

اپنی اولاد سے پائے۔ (محو۔ محاورہ) بددعا۔ کوسنا ظالم کو اس کے ظلم کا بدلہ اس کی اولاد سے لے۔

اپنی اڑی دیکھو۔ (محاورہ) نظر نہ لگاؤ۔ ٹو کو نہیں جب کوئی بے ساختہ کسی کے حسن کی تعریف کرے تو اس خیال سے کہ نظر لگ جائے۔ عجز میں یہ فقرہ کہتی ہیں۔

اپنی ایسی تپسی کرا لینا۔ (محاورہ) اپنا ہی کچھ بگاڑ لینا۔ کسی کو نقصان پہنچانے کے بدلے میں اپنا نقصان کر لینا۔

اپنی ایسی تپسی میں جلنے۔ اپنا سر کھانے۔ بھاڑ میں جلنے۔ کچھ بھی ہو ہمیں کیا غرض۔



اپنی چھاپچھ کو کوئی کھٹنا نہیں کہتا۔ [امثال] اپنی چیز کو سب اچھا بتاتے ہیں۔  
 اپنے کام میں کوئی عجیب نظر نہیں آتا۔  
 اپنی خبر لینا۔ اپنے گریبان میں منہ ڈالنا۔ اپنے حال کو دیکھنا۔  
 اپنی خبر نہیں۔ بالکل بے خود ہیں۔  
 اپنی خوشی کا۔ خود رائے۔ ضدی۔  
 اپنی دفعہ۔ اپنا نمبر آنے پر۔ اپنی بار۔  
 اپنی ڈاڑھی کتے کے پیشاب سے منڈوا ڈالیں۔ [امثال] کام نہ ہو تو  
 جو چاہے کر لینا۔ شرط اور دعویٰ کے طور پر کہتے ہیں۔  
 اپنی ڈیڑھ اینٹ کی مسجد الگ بنانا۔ [امثال] سب سے الگ ہو کر رہنا  
 کسی کی رائے نہ ماننا۔ اپنی ہی رائے پر قائم رہنا۔  
 اپنی ذات سے اچھے ہیں۔ (مخاورہ) اپنے دم سے اچھے ہیں۔  
 اپنی رادھا کو یاد کرو۔ (مخاورہ) اپنا کام کرو۔ جاؤ ہم سے تم سے کچھ واسطہ  
 نہیں۔ اپنا راستہ بکرو۔  
 اپنی ران کھولنا۔ (مخاورہ) اپنا پوشیدہ عیب ظاہر کرنا۔  
 اپنی راہ (پکڑنا) لگنا۔ اپنی راہ لینا۔ اپنے کام میں مصروف رہنا۔  
 اپنی راہ (لو) لے۔ اپنا کام کرو۔ دوسرے کے معاملے میں دخل نہ دو۔  
 اپنی سُدھ نہ رہنا۔ (مخاورہ) بے خبری کے عالم میں رہنا۔  
 اپنی سی۔ مقدر بھر۔ تابعدا مکان۔ اپنی مرضی کے مطابق۔  
 اپنی سی بہت (کرنی) کی۔ تابعدا کوشش کرنی۔ اپنی طرف سے پوری  
 سعی کرنی۔  
 اپنی سی کر چلنا۔ اپنی سی کر دیکھنا۔ اپنی سی کر گزرتا۔ اپنا کام کر جانا جیسی  
 ہو سکے بسر کر جانا۔ حتی المقدور کوشش کرنا۔  
 اپنی سی بنا ہنا۔ اپنے امکان بھر و استعداد کا بڑا ڈکڑنا۔  
 اپنی طرف خیال کرنا۔ دھیان کرنا۔ دیکھنا۔ اپنے مرتبے عزت اور بڑائی  
 کا لحاظ رکھنا۔  
 اپنی طرف سے۔ آپ ہی۔ اپنے ذہن سے۔ اپنی طبیعت سے۔  
 اپنی طرف کھینچنا۔ اپنی طرف مائل کرنا۔  
 اپنی عقل اور پرانی دولت بہت بڑی معلوم ہوتی ہے [امثال] ہر شخص  
 اپنی عقل اور دوسرے کی دولت کو بہت زیادہ خیال کرتا ہے۔  
 اپنی عمر سے مرنا۔ (مخاورہ) عمر طبعی کو پہنچ کر مرنا۔  
 اپنی غرض کا آشنا ہونا۔ (مخاورہ) خود غرض ہونا۔ اپنا مطلب نکالتے تک  
 یار ہونا۔  
 اپنی غرض کو۔ (مخاورہ) اپنے مطلب کی خاطر۔  
 اپنی غرض کو گدھے چراتے ہیں۔ [امثال] غرض مند کو ذلیل سے ذلیل کام  
 بھی کرنا پڑتا ہے۔  
 اپنی غرض کو گدھے کو بھی باپ بناتے ہیں۔ [امثال] غرض مند آدمی کو ذلیل  
 سے ذلیل انسان کی بھی خوشامد کرنا پڑتی ہے۔  
 اپنی قدر آپ ہی نہ جانی۔ (۱) خود ہی اپنے آپ کو ذلیل کرایا (۲) اپنی حیثیت  
 کا خیال نہ کیا۔  
 اپنی قسمت کا لے اترنا۔ اپنی روزی اپنے ساتھ لانا۔

اپنی بات (عزت) اپنے ہاتھ [امثال] اپنا ذوق اپنے ہاتھ میں ہے۔  
 اپنی بات اپنے ہاتھوں کھونا۔ (مخاورہ) خود ہی کوئی ایسا فعل کرنا جس  
 سے اپنی عزت اور توفیر میں فرق آجائے۔  
 اپنی بات پر (آجانا) آنا۔ اپنے کسے پر اڑ جانا۔ ضد کرنا۔  
 اپنی بات کا ایک ہے۔ پکا ہے۔ پورا ہے۔ (مخاورہ) بات کا پکا ہے  
 راسخ القول ہے۔ عہد کا نبہنے والا ہے۔  
 اپنی باقی نہ چھوڑنا۔ اپنے ہنڈکنڈے نہ چھوڑنا۔ [مثال] اپنی حرکت  
 سے باز آنا۔  
 اپنی بساط کو دیکھو۔ (مخاورہ) اپنی حیثیت دیکھو۔ اس قابلیت پر  
 دعویٰ کرنا درست نہیں۔  
 اپنی بساط سے بڑھ کر کام کرنا۔ (مخاورہ) اپنی طاقت سے بڑھ کر  
 کام کرنا۔  
 اپنی بکنا اور کسی کی نہ سننا۔ (مخاورہ) اپنی بات کے جانا اور دوسرے  
 کی نہ سننا۔  
 اپنی بلا اور کے سردھنا۔ اپنی مصیبت دوسرے کے سر ڈالنا۔  
 اپنی بلا سے۔ ہم کو کچھ پرواہ نہیں۔  
 اپنی بھوک کھانا اپنی نیند سونا۔ [امثال] آزادی سے زندگی بسر کرنا۔  
 کسی کا مطیع نہ ہونا۔  
 اپنی بڑی ہے۔ (مخاورہ) اپنی ہی فکر ہے۔  
 اپنی بڑی اپنے ہاتھ ہے۔ [امثال] اپنی عزت اپنے ہاتھ میں ہوتی ہے۔  
 اپنی پیٹھ نہیں دکھائی دیتی۔ [امثال] اپنا عیب اپنے آپ کو نظر نہیں آتا۔  
 اپنی پیڑ پرانی باتیں۔ [امثال] اپنی مصیبت تو مصیبت ہے دوسرے  
 کی مصیبت نہیں۔  
 اپنی تقدیر کو رونا۔ اپنی قسمت کی شکایت کرنا۔  
 اپنی ٹانگ (ران) کھولے آپ ہی لاجوں مرے۔ [مثال] اپنی بُرائی یا  
 تکلیف بیان کرنے سے اپنی ہی بے عزتی ہوتی ہے (یزید کی اپنا کھٹنا کھولنے)  
 اپنی ٹکی رکائے جانا۔ اپنے ہی مطلب کی کہے جانا۔  
 اپنی جان پر کھیلنا۔ (مخاورہ) جان جو کھوں کا کام کرنا۔ جان دینے کو  
 تیار رہنا۔  
 اپنی جان سب کو پیاری ہوتی ہے۔ اپنی جان بچانے کی سب کوشش  
 کرتے ہیں۔ خطرہ کے کام سے ہر ایک جان چراتا ہے۔  
 اپنی جان کو رونا۔ (مخاورہ) شکوے، شکایتیں کرنا۔  
 اپنی جگہ۔ اپنے عوض۔ اپنے بدلے میں۔  
 اپنی جمانا۔ (مخاورہ) اپنا اثر بٹھانے کی کوشش کرنا۔  
 اپنی جوانی سے پائے۔ (بددعا) جوانی میں مرجائے۔  
 اپنی چال سے نہ چوکنا۔ اپنے کرنوت سے باز نہ آنا۔  
 اپنی چلم بھرنے کو میرا جھوٹا جلاتے ہو۔ [امثال] اپنے تھوڑے سے  
 ناندے کے لئے مجھ غریب کا اتنا بڑا نقصان کرتے ہیں۔  
 اپنی چھاتی پر ہاتھ دھر کے دیکھو۔ اپنا سا حال دوسروں کو بھی جانو۔ دوسرے  
 کے دکھ کو بھی دکھ سمجھو۔ انصاف کرو۔



اپنے اُدبرے لینا۔ اپنے اُدپر اوڑھ لینا۔ کسی کی بُرائی یا قصور کو اپنے ذمے لینا۔

اپنے بچنے کے دانت سب کو معلوم ہوتے ہیں۔ [مثل] والدین یا عزیز اپنی اولاد یا اپنے عزیز کی عمر اور اخلاق و عادات کو خوب جانتے ہیں اپنے بچے کو ایسا ماروں کہ پڑوسن کی چھاتی پھٹے۔ [امثال] کسی کے دکھانے کو اپنا نقصان کرنا۔

اپنے بس۔ اپنے اختیار۔

اپنے بھاویں۔ اپنے نزدیک۔ اپنے حسابوں۔

اپنے بیروں کو کبچرا کھٹے نہیں بتاتا۔ [امثال] اپنی چیز کو کوئی خراب نہیں کہتا۔

اپنے پاؤں پر کھڑا ہونا۔ کسی امداد کے بغیر اپنا کام خود چلانا۔ خود کفیل ہونا۔

اپنے پاؤں چلنا۔ اپنے پاؤں سے چلنا۔ بغیر سہارے کے پیدل چلنا۔

اپنے پاؤں میں آپ کلہاڑی مارنا۔ [امثال] اپنا بُرا آپ کرنا۔ خود ہی اپنا نقصان کر لینا۔

اپنے پر۔ اپنی ذات پر۔

اپنے پرانے کی ٹھوکریں کھانا۔ عزیزوں اور غیروں سے دکھ اٹھانا۔

بگائوں اور بیگائوں میں ذلیل ہونا۔

اپنے پرانے کی سمجھ۔ یگانے بیگانے کی پرکھ۔

اپنے پوت کنوارے پھر میں۔ پڑوسن کے پھرے۔ [مثل] اپنے کنواروں

کی تو فکر نہیں۔ پڑوسن کے بچوں کی شادی کی فکر ہے (۲) عزیز محروم

رہیں اور دوسرے فائدے اٹھائیں۔

اپنے پیر کو بان۔ واسطہ دلانے کی جگہ کہتے ہیں۔ تجھے اپنے مرشد یا بڑے کی

تسم ہے۔

اپنے ننگ رکھنا۔ (محاورہ) راز رکھنا۔ پردہ فاش نہ کرنا۔ کسی سے نہ کہنا۔

اپنے نہیں۔ آپ کو۔ اپنی ذات کو۔ اپنے کو۔

اپنے نہیں لیے دیتے رہنا۔ خود داری کا لحاظ رکھنا۔ منانت سے کام لینا۔

اپنے جامے سے باہر ہونا۔ چھو لانا سمانا۔ نہایت خوش ہونا۔ خوشی یا غصے

میں قابو سے باہر ہونا۔ آپے میں نہ رہنا۔

اپنے جامے سے (باہر) نکل جانا۔ بے خود ہو جانا۔

اپنے جھونپڑے کی خیر مانگو۔ اپنے قدح کی خیر منادو۔ [مثل] تمہیں دوسروں

کی کیا پڑی ہے۔ اپنی بہتری کی کوشش کرو۔

اپنے چلتے۔ مقدور رہو۔ حتی الوسع۔

اپنے حال پر رہنا۔ بدستور سابق رہنا۔ اپنی حالت تبدیل نہ کرنا۔

اپنے حال میں مست ہیں۔ (محاورہ) جس طرح بھی گزر رہی ہے اس میں خوش ہیں۔

اپنے حال میں نہ رہنا۔ (محاورہ) اپنی حیثیت میں نہ رہنا۔ بے خود ہو جانا۔

اپنے حساب (حسابوں)۔ اپنی دانست میں۔ اپنے نزدیک۔

اپنے حق میں کانٹے بونا۔ اپنے حق میں زہر کرنا۔ اپنے لیے بُرائی کرنا۔

کام کرنا جس سے خود کو نقصان پہنچے۔

اپنے خدا کو مان۔ خدا کا خیال کر کے بات کر۔ خدا کا واسطہ دینے کو کہتے ہیں۔

اپنے دام کھینٹے پر کھنٹے ڈالے کا کیا دوس۔ [مثل] اپنی چیز میں بُرائی ہو

تو برائی نکالنے والے ہو کیا الزام۔

اپنے دل پر ہاتھ (دھرو) دھرو دیکھو۔ اپنی حالت کا اندازہ کرو۔ پھر کسی سے کچھ کہنا۔

اپنے دل کے (بادشا) مختار ہیں۔ جو چاہیں سو کریں۔ کسی کے پابند نہیں۔

اپنے دم سے اچھے ہیں۔ اپنی ذات سے بھلے ہیں خود اچھے ہیں۔

اپنے دنوں کو پورا کرنا۔ تنگی ترشی سے بسر کرنا۔ موت کا انتظار کرنا۔

اپنے دنوں کو رونا۔ (۱) اپنی قسمت اور مصیبت پر افسوس کرنا۔ (۲) اپنی

بد نصیبی کا بیان کرنا۔

اپنے دہی کو کون کھنا کہتا ہے۔ [مثل] اپنی چیز کو کوئی بھی بُرا نہیں بتاتا۔

اپنے ڈھائی چانول الگ گلانا یا ڈھائی چانولوں کی کھچڑی الگ بکاتا۔

سب کی رائے سے الگ رائے رکھنا۔ کسی کے کئے پر عمل نہ کرنا۔ اپنی

ڈیڑھ اینٹ کی مسجد الگ بنانا۔

اپنے ڈھب کا۔ (محاورہ) اپنے رنگ کا، اپنی روش کا۔ اپنے مطلب کے موافق۔

اپنے رنگ میں رنگنا۔ اپنے جیسا کر لینا۔ اپنا ہم مشرب بنا لینا۔

اپنے زور میں آپ آرہنا۔ (محاورہ) ایسی بے موقع زور آزمائی کرنا کہ آدمی خود ہی

گر پڑے (۲) کوئی ایسا کام کر بیٹھنا جو نقصان پہنچائے۔

اپنے ساتھ لپیٹنا۔ (محاورہ) اپنے ساتھ دوسروں کو بھی شامل کرنا۔

اپنے ساتھ لے ڈوبنا۔ (محاورہ) اپنے ساتھ تباہی میں ڈالنا۔ اپنے ساتھ دوسرے

کو نقصان پہنچانا۔

اپنے سائے سے وحشت کرنا۔ (محاورہ) حد سے زیادہ وہمی ہونا۔

اپنے سائے سے وحشت ہونا۔ (محاورہ) اپنے آپ سے بھی خوف کے مارے

گھرانے لگنا۔ بہت زیادہ وہمی ہونا۔

اپنے سایہ سے بچنا۔ (محاورہ) ملنے سے پرہیز کرنا۔ دوسروں سے بہت بدگنا۔

بے صدا احتیاط کرنا۔

اپنے سر آفت (بلا) لینا۔ اپنے سر مصیبت لینا۔ اپنے اذیت نکیف گوارا کرنا

کوئی مشکل کام کو اپنے ذمے لینا۔

اپنے سر اوڑھ لینا۔ (محاورہ) بُرائی یا قصور کو اپنے ذمے لینا۔

اپنے سر پر کھینا۔ (محاورہ) ہر قسم کی تکلیف جھینا۔ جان بھینسی پر رکھنا۔

اپنے سر (لے) لینا۔ (محاورہ) اپنے ذمے لینا۔

اپنے سے بہتر خدا۔ [امثال] اس شخص کے متعلق کہتے ہیں جو اپنے برابر

کسی کو نہ سمجھے۔

اپنے فرض سے ادا ہونا۔ (محاورہ) جو بات اپنے ذمے واجب ہو اسے

پورا کرنا۔ بیٹی کی شادی سے فارغ ہونا۔

اپنے کام سے کام۔ (محاورہ) اپنے مطلب سے مطلب۔ اپنی مرض سے مرض ہے۔

اپنے کام سے کام رکھتے ہیں۔ (محاورہ) اپنے کام میں مصروف رہتے ہیں۔

کسی طرف متوجہ نہیں ہوتے۔ اپنے مطلب سے مطلب رکھتے ہیں۔

اپنے کام کا نہیں۔ (محاورہ) ہمارے مطلب کا نہیں۔

اپنے کو۔ (محاورہ) اپنی ذات کو، اپنے تئیں

اپنے کو اپنے کا پاس ہونا۔ (محاورہ) دوستوں اور عزیزوں کو ایک

دوسرے کا خیال ہونا۔



اپنی قسمت (تقدیر) کو رونا۔ (معاورہ) اپنی بد نصیبی کی شکایت کرنا۔  
 بے بسی کی حالت میں بسر کرنا۔  
 اپنی کر کے نہ رکھنا۔ (۱) حفاظت سے نہ رکھنا (۲) عورت کو اپنا موافق نہ بنالینا (۳) احتیاط سے نہ برتنا۔  
 اپنی کرنی۔ اپنی حرکت۔ اپنی مرضی کا کام۔ اپنے کرتوت۔  
 اپنی کرنی اپنی بھرنی۔ [مثلاً] جو جیسا کرے گا ویسا پائے گا۔  
 اپنی کرنی پارا آرنی۔ [مثلاً] اپنے ہی اعمال اپنے کام آتے ہیں۔ اپنی ہی محنت سے پورا پڑتا ہے۔  
 اپنی کرنی پروان کیا ہندو کیا مسلمان۔ [اپنے اعمال اپنے کام آئیں گے چاہے کوئی ہندو ہو یا مسلمان ہو۔]  
 اپنی کرنی کرنا۔ اپنی ضد پر اڑا رہنا۔ جو ٹھان لینا وہی کر گزرنے۔  
 اپنی کھلی میں مست ہونا۔ اپنی کھال میں مست ہونا۔ اپنے حال میں خوش ہونا غریبی میں مگن رہنا۔  
 اپنی کھال میں مست ہونا۔ مگن ہونا۔ (معاورہ) اپنی تھوڑی حیثیت میں بھی خوش رہنا۔  
 اپنی کہنا اور کی نہ سُننا۔ خود ہی کہے جانا۔ دوسرے کی بات کی طرف خیال نہ کرنا۔  
 اپنی کہنا نہ اور کی سُننا۔ اپنا خیال نہ ظاہر کرنا اور نہ دوسرے کی بات سُننا۔  
 اپنی کہی کرنا۔ (معاورہ) اپنی ضد پر اڑے رہنا۔  
 اپنی کہی نہ اور کی سُننی۔ چٹ پٹ مر گئے کچھ کہنے سُننے بھی نہ پائے۔  
 اپنی پھڑی الگ پکانا۔ (معاورہ) جھنجھٹ سے بچنا۔ الگ ہو جانا۔  
 اپنی گانا۔ صرف اپنی کہنا۔ اپنی ہی بات کا گیت گانا۔  
 اپنی گانٹھ نہ ہو پیسہ تو پرایا آسرا کیسا۔ [مثلاً] وقت پر اپنی جیب کا پیسہ ہی کام آتا ہے دوسرے کی گرہ کا کام نہیں آتا۔  
 اپنی گرہ کا۔ اپنی جیب کا۔ اپنی ذات کا۔ اپنے پئے کا۔  
 اپنی گرہ کا اسے کہا جاتا ہے۔ ہمارا کیا ہرج ہوتا ہے۔ ہمارا کیا نقصان ہوتا ہے۔  
 اپنی گرہ (گانٹھ) نہ ہو پیسہ، پرایا آسرا کیسا [مثلاً] اپنے بھروسے پر ہی کام ہو سکتا ہے دوسرے کے بھروسے پر نہیں۔  
 اپنی گڑیا سنوار دینا۔ اپنے مقدّر کے مطابق بیٹی کا بیاہ کر دینا۔  
 اپنی گل میں کٹا بھی شیر ہوتا ہے۔ [مثلاً] اپنے گھر پر کزدور کو بھی حوصلہ ہوتا ہے حمایت کے بھروسے پر بزدل بھی بہادر بن جاتا ہے۔  
 اپنی گول کا یار۔ اپنی غرض کا یار۔ مطلبی دوست۔ مطلب پرست۔  
 اپنی گول کو (معاورہ) اپنے مطلب کے لیے۔ اپنی غرض کے لیے۔  
 اپنی گول گانٹھنا۔ چاہوسی سے اپنا کام نکالنا۔  
 اپنی لینا۔ (معاورہ) تغافل برتنا۔ من مانی کرنا۔  
 اپنی مانی منوانا۔ (معاورہ) قائل کرنا۔ اپنی بات دوسروں سے منوانا۔  
 اپنی مراد کو پہنچ جانا۔ مقصد پورا ہو جانا۔  
 اپنی مصلحت ہر شخص خوب جانتا ہے۔ ہر آدمی اپنی ضرورت اور موقع کو خود ہی ٹھیک سمجھ سکتا ہے۔

اپنی موت مرنا۔ (معاورہ) طبعی موت مرنا۔  
 اپنی موچھ منڈا ڈالیں۔ اگر ایسا نہ ہوگا تو ہم اپنی موچھیں منڈا دیں گے دھڑکی چھوڑ دیں گے۔  
 اپنی ناک چوٹی میں گرفتار۔ اپنے بناؤ سنگار میں مصروف۔  
 اپنی ناک کٹی نوکٹی پرائی بدشگونئی تو ہو گئی۔ [مثلاً] اپنی بدنامی اور ذلت ہو کر بھی دوسرے کو اگر تھوڑا نقصان پہنچ جائے تو خوش ہونا۔  
 اپنی نیلڑنا۔ (معاورہ) اپنی فکر کرنا۔ اپنی دھن میں رہنا۔  
 اپنی نظر میں۔ اپنی جانچ میں۔ اپنے اندازے میں۔  
 اپنی نوبت سجانا۔ (معاورہ) علم بسر کرنا۔ وقت گزارنا۔  
 اپنی نیند سونا اپنی بھوک کھانا۔ اپنی نیند سونا اپنی نیند اٹھنا۔ آزادی سے زندگی بسر کرنا جب جی چاہے سو رہنا۔ جب دل میں آئے کھا لینا۔ چین سے علم کاٹنا۔ بے فکر اور بے غم رہنا۔  
 اپنی والی۔ جہاں تک ہو سکے۔ حتی المقدور (۲) ہرٹ۔ ضد۔  
 اپنی والی پر آنا۔ (۱) کسی بات پر اڑ جانا۔ اپنی بات کی طرح کرنا (۲) اپنی لیاقت اور حیثیت کا اظہار کرنا۔  
 اپنی ہانکنا۔ (معاورہ) اپنی بات ہی کہے جانا دوسرے کی نہ سُننا۔  
 اپنی ہائی اوروں پر (چھائی) گنوائی۔ [مثلاً] اپنی سبکی اور خفقت دوسروں پر ڈال دینا۔ اپنا الزام دوسروں پر تھوپنا۔  
 اپنے۔ (آپ۔ نے) [۵۔ ض] [۱۱] عزیز۔ یگانے (۲) مملوک (۳) خاص۔ خود (۴) اپنے دم کے۔ اپنے تعلق کے۔  
 اپنے آپ۔ خود ہی۔ اپنی ذات سے۔  
 اپنے آپ سے گزر جانا۔ بے حد مغرور ہونا۔ غصے یا غرور میں بدحواس ہو جانا۔  
 اپنے آپ کو۔ آپ کو۔ اپنی ذات سے۔  
 اپنے آپ کو کچھ سمجھنا۔ (معاورہ) اپنے آپ کو لائق فائق سمجھنا (۲) خوش فہمی کا شکار ہونا۔ خود کو بڑا سمجھنا۔  
 اپنے آپ کو کھینچنا۔ الگ تھلگ رہنا۔ غرور کرنا۔ اپنے آپ کو بڑا سمجھنا۔  
 اپنے آپ کو کیا سمجھتے ہو، اپنی کس بات پر نازاں ہو کس بات پر مغرور ہو اپنے آپ میں آنا۔ (معاورہ) ہوش میں آنا۔ حواس میں آنا۔ غصہ دور کرنا۔  
 اپنے اپنے سے گزرنا (نکل جانا) اعتدال سے بڑھنا۔ حد سے نکل جانا۔  
 جانے سے باہر ہونا۔ اپنی ہستی کو بھول جانا۔  
 اپنے آگے پائے۔ (معاورہ) بددعا۔ خدا سمجھے۔  
 اپنے آگے کسی کو نہیں گنتے۔ اپنے برابر کسی کو نہیں سمجھتے۔ خود پسند اور مغرور بن جانا۔  
 اپنے اپنے حال میں مست ہیں۔ کسی کو کسی کی فکر نہیں۔ ہر شخص اپنے حال میں مگن ہے۔  
 اپنے اپنے گھر سب بادشاہ ہیں۔ اپنے اپنے گھر کا شخص کو اختیار ہے۔  
 اپنے اپنے گھر کے سب مالک ہیں۔ اپنے گھر چینی بھی شیر ہے۔  
 اپنے اختیار میں نہ ہونا۔ مجبور ہونا۔ اپنے بس میں نہ ہونا۔  
 اپنے اللہ سے پائے۔ (بددعا) خدا سمجھے۔ خدا اس کی سزا دے۔



اپنے منہ سے دھتائیائی۔ [مثل] اپنی تعریف آپ کرنا۔ اپنی امارت اور فضل و کمال کا دعویٰ کرنا۔ اپنے منہ میاں مٹھو۔ اپنے منہ سے کہنا۔ (معاورہ) خود کہنا۔ تشریح کو بالائے طاق رکھ کر کہنا (۲) منہ پھوڑ کر کہنا۔

اپنے منہ میاں مٹھو بننا [مثل] اپنی تعریف خود کرنا۔ اپنی بڑائی آپ کرنا۔ اپنے موتی سوروں کے آگے نہ پھینکو۔ (معاورہ) بے قدروں کو اپنا ہنر نہ سکھاؤ۔

اپنے میں۔ اپنے بدن میں۔ اپنے جسم میں۔

اپنے میں آنا۔ (معاورہ) ہوش میں آنا۔

اپنے نام کا ایک ہی نکلنا۔ بے مثل ہونا۔

اپنے نام کا ایک ہے۔ (معاورہ) آفت کا پرکالہ ہے۔ بڑا ضدی ہے۔

اپنے نام کا پاس ہے۔ (معاورہ) اپنی عزت کا لحاظ ہے۔

اپنے نزدیک۔ (معاورہ) اپنے حساب میں۔ اپنی دانست میں۔

اپنے نصیبوں کو رونا۔ (معاورہ) اپنی بد نصیبی کی شکایت کرنا۔ بُری تقدیر کا گلہ شکوہ کرنا۔

اپنے نین گنوا کے در در مانگے بھیک۔ [مثل] اپنی دولت برباد کر کے دوسروں کے آگے ہاتھ پھیلا نا۔ اپنی چیز کھڑ کر دوسروں کے گھر سے مانگتے پھرنا۔

اپنے نینا مجھے دے تو گھوم پھر کر دیکھ۔ [مثل] اپنی آنکھیں میرے حوالے کر اور دیکھیں مارتا پھر (۲) دوسرے کا نقصان کر کے اپنے فائدے چاہنا۔

اپنے وقت کا (ارسطو) افلاطون ہے۔ بڑا دان ہے۔ بہت عقلمند ہے۔

اپنے وقت کا حاکم ہے۔

اپنے وقت کا لال کھکڑ۔ [مثل] بے وقوف مگر عقل کا دعویٰ۔

اپنے ہاتھ کا۔ (۱) اپنے آپ کرنے کا (۲) اپنے ہاتھ کا لکھا، بنایا یا کیا ہوا۔

اپنے ہاتھ کٹا لیتا۔ (معاورہ) قول یا تحریر دے کر بے بس ہو جانا۔

اپنے ہاتھ کرنا۔ (معاورہ) قبضے میں کرنا۔ موہ لینا۔

اپنے ہاتھ کے بل بل جائیے جیسا من ہو دیا کھائیے۔ [مثل] جب کوئی کام اپنے ہاتھ سے بن رہے تو اس وقت فخر یہ کہتے ہیں۔

اپنے ہاتھ ہے۔ اپنے اختیار میں ہے۔ اپنے اختیار سے ہے۔

اپنے ہاتھوں۔ اپنے آپ۔ بالارادہ۔ اپنے ہی فعلوں سے۔ آپ سے۔

دبیدہ و دانستہ۔

اپنے ہاتھوں اپنی قبر کھودنا۔ کنواں کھودنا۔ کانٹے بونا۔ (معاورہ) اپنی موت کا آپ سامان کرنا۔ خود مصیبت میں پھینسا۔ خود برباد ہونا خود بلا میں گرفتار ہونا۔

اپنے ہاتھوں خراب ہونا۔ اپنی تباہی خود لانا۔

اپنے ہاتھوں کانٹے بونا۔ اپنی بربادی کے سامان خود پیدا کرنا۔

اپنے ہی تک رکھنا۔ دوسرے سے نہ کہنا۔ اپنے ہی جی میں رکھنا۔

اپنے کو گھالم گھولا اور کی بار کو ٹال مٹولا۔ [مثل] اپنی غرض کا بہت خیال رکھنا اور گھل مل جانا اور دوسرے کے کام کے وقت ٹال مٹول کرنا۔

اپنے کے کا ہے (معاورہ) بڑا ضدی ہے۔ جو جی میں آتا ہے وہی کرتا ہے۔

اپنے کیے پر پھینکانا۔ (معاورہ) خود ہی کوئی فعل کر کے پشیمان ہونا۔

اپنے کے کا علاج نہیں۔ اپنے کئے کا کیا علاج۔ (معاورہ) اپنی کی ہوئی غلطی یا بُرائی کا نتیجہ بھگتنا پڑتا ہے۔

اپنے کئے کو پانا۔ اپنے کئے کا مزہ چکھنا۔ (معاورہ) جیسا کرنا ویسا بھرنا

جزا و سزا حسب اعمال ملنا۔

اپنے کئے کو رونا۔ (معاورہ) غلطی کر کے پشیمان ہونا۔

اپنے کئے کی سزا پانا۔ (معاورہ) جیسا کیا ہے اس کے بدلے میں سزا پانا۔ بد فعلی کی سزا پانا۔

اپنے کئے کی لاج ہونا۔ (معاورہ) اپنے قول کا لحاظ ہونا۔

اپنے گریبان میں منہ (ڈالنا) ڈال کر دیکھنا۔ (معاورہ) اپنے عیب دیکھنا

اپنے کئے پر گردن نہی کرنا

اپنے گھر آئے ہوئے کتے کو نہیں دھنکارتے۔ [مثل] مہمان کیسا ہی کم حیثیت ہو اس سے بڑا بڑا ذ نہیں کرنا چاہیے۔

اپنے گھر بار کا ہونا۔ (معاورہ) شادی شدہ ہونا۔ بیوی بچوں والا ہونا۔

اپنے گھر پر چیونٹی بھی شہر ہوتی ہے۔ [امثال] اپنے مکان میں ہر ایک دلیر ہوتا ہے۔ اپنے دروازے پر کتا بھی شیر ہوتا ہے۔

اپنے گھر خوش رہو۔ (معاورہ) ہم سے کچھ تعلق نہیں۔ اپنا کام کرو۔

اپنے گھر سے خوش۔ بے نیاز بخوش حال۔ یعنی۔

اپنے گھر کو آتا کس کو بُرا لگتا ہے۔ (معاورہ) آتا ہوا مال سب کو اچھا معلوم ہوتا ہے۔ اپنا نفع کسی کو بُرا معلوم نہیں ہوتا۔

اپنے گھر کی راہ لو۔ (معاورہ) چلے جاؤ۔ جاؤ۔ بے ہو جاؤ۔

اپنے لکھے کو رونا۔ (معاورہ) اپنی قسمت کا گلہ شکوہ کرنا۔

اپنے لگے تو بیٹھ میں اور کسے لگے تو بھیت میں۔ [امثال] اپنی تکلیف کو

تکلیف سمجھنا مگر دوسرے کے دکھ کی پروا نہ کرنا۔

اپنے مے بن سو رگ نہیں ہلتا۔ [مثل] اپنی کوشش کے بغیر کامیابی نہیں ہوتی۔

اپنے مے کے آگے کچھ نہیں سوچنا۔ [مثل] اپنے فائدے اپنی نفسیاتی

خواہش اور اپنی زبان کے ذائقے کے آگے نیک اور بد اور جائز و

نا جائز کی تمیز نہیں رہتی۔

اپنے مطلب کا۔ خود غرض۔ مطلبی۔

اپنے مطلب کی کہنا۔ اپنے فائدے کی بات کہنا۔

اپنے مطلب کے ہیں۔ خود غرض ہیں۔ اپنی غرض کے آشنا ہیں۔

اپنے مطلب کے بار۔ غرض آشنا (دیکھیے اپنے گوں کے بار)

اپنے من سے جانتے ہوئے من کی بات۔ [امثال] اپنی تکلیف اور دکھ

سے دوسرے کی تکلیف اور دکھ کو سمجھنا چاہئے۔

اپنے منہ پر طمانچے مارنا۔ (معاورہ) اپنے کیے پر پشیمان ہونا۔

اپنے منہ پر جاؤ۔ (معاورہ) اپنی طرف دیکھو۔ اپنی شرافت کا خیال کرو۔



اپنے ہی تن کا پھوڑا ستاتا ہے۔ [مثل] عزیزوں قریبوں ہی سے تکلیف

پہنچتی ہے۔  
اپنے ہی گھر سے آگ لگی جسے۔ اپنوں نے ہی فساد برپا کیا ہے۔  
اپوزیشن - (Opposition) (انگ - مٹ) حزب اختلاف۔  
مخالف پارٹی۔

اچھاڑ - اچھاڑہ - (اچھاڑ - اچھاڑا) [ہند - ۱-۵] پیٹ پھولنا۔  
اچھاڑا - (اچھاڑ - را) [ہ - صف] پھولا ہوا۔ معدہ بھرا ہوا۔ غور سے پھولا ہوا۔  
اچھاڑانا - (اچھاڑ - رانا) [ہ - مص] پیٹ بھرنے سے پریشانی اور تکلیف میں ہونا۔  
اچھاڑ جانا - (اچھاڑ - جانا) [ا - مص] (۱) پیٹ پھولنا۔ اتنا کھانا کھا لینا کہ  
سانس پھولنے لگے (۲) مغرور ہوجانا۔

اچھڑنا - (اچھڑنا) [ہ - مص] (۱) پھولنا۔ ہوا بھڑنا۔ نفع ہونا (۲) موٹا ہونا۔ تیار  
ہونا (۳) مغرور ہونا۔ علم و ہنر یا دولت پر نازاں ہونا۔  
اچھل - (ہ - صف) بے تڑوہ درخت جسے پھل نہ لگے (۲) بانجھ عورت۔  
اچھن جانا - (اچھن - جانا) [ہ - مص] ابل جانا۔ جوش آجاتا۔  
اچھنا - (اچھن - نا) [ہ - مص] (۱) ابلنا۔ اٹھنا۔ آبخ یا گرمی سے پھین کے  
ساتھ اوپر اٹھنا (۲) اٹھنا۔

اچی - (اچی) [ہ - صف] (۱) چمک دار (۲) میان سے باہر نکلی ہوئی شمشیر۔  
سان پر چڑھی ہوئی تلوار۔

اپیل - (Appeal) (ا - پیل) [انگ - ۱ - ہند] چھوٹے حاکم کے  
فیصلے کے خلاف بڑے حاکم کے پاس درخواست کرنا۔ مترادف۔  
اپیل بحال ہونا۔ اپیل کا منظور ہونا۔

اپیل (خارج) مسترد ہونا۔ اپیل کا نام منظور ہونا۔  
اپیل داخل کرنا۔ اپیل کرنا۔ حاکم بالا کے پاس مقدمہ لے جانا۔  
اپیل گزار - (Appellant) اپیل داخل کرنے والا۔

اپیل متخالف - ایک دوسرے کے خلاف اپیل۔  
اپیلانٹ (Appellant) (اچی - لائٹ) [انگ - ۱ - ہند] اپیل کرنے والا۔

اُتار - (اُتار) [ہ - ۱ - ہند] (۱) اُترنا۔ نشیب (۲) رُو (۳) کمی۔ تنزل گھٹاؤ  
(۴) طغیانی میں کمی (۵) کسی چیز کا اثر زائل کرنا (۶) صدقہ (۷) جادو کا توڑ  
(۸) جذر۔ بھاشا۔

اُتار چڑھاؤ - (۱) اُدیخ - نیچ - نشیب و فراز۔ مدو جزر۔ جوار بھاشا۔ بلند و پست (۲)  
کمی بیشی گھٹاؤ بٹھاؤ (۳) عروج و زوال۔ نفع و شکست (۴) چھل فریب جوڑ توڑ  
اُتار چڑھاؤ (تباہی) (معاورہ) فریب دینا۔ دھوکا دینا۔ دم دینا۔  
اُتار چڑھاؤ کی باتیں (معاورہ) فریب کی باتیں۔ چالیں۔  
اُتار لی ہوئی کیا کرے گا کوئی۔ [مثلاً] بے جیسا سے کچھ بعید نہیں بے شرم  
سب کچھ کر سکتا ہے۔

اُتار لینا - (معاورہ) جگہ دینا۔ ٹھہر لینا (۲) ننگا کر دینا۔ چھین لینا۔ لے لینا  
(۳) بھاڑ ڈالنا (۴) نقل کر لینا (۵) کاٹ ڈالنا۔ توڑ ڈالنا (۶) گرانہ  
معزول کرنا (۷) گھٹنا۔ مٹا دینا۔

اُتار ہونا - (معاورہ) نشہ اُترنا۔ کسی چیز کی کمی یا گراؤ کی طرف آنا۔  
اُتارا - (اُتارا) [ہ - ۱ - ہند] (۱) ڈیرہ ڈالنے یا ٹمکنے کا نام (۲) اُترنے کی جگہ  
پڑاؤ مقام (۳) ندی پار کرنے کی حالت (۴) صدقہ (۵) گھاٹ۔  
اُتارا اُتارنا - (معاورہ) صدقہ اُتارنا۔

اُتارا جانا - [ق] مارا جانا۔  
اُتارا ہونا - (معاورہ) قیام ہونا (۲) قبر میں اُتارنا (۳) قربان کیا جانا (۴)  
دریا کے پار اُترنا۔ آمادہ ہونا۔ ٹل جانا۔

اُتارنا - (اُتارنا) [ہ - مص] (۱) اُدیخ جگہ سے نیچے جگہ لانا (۲) دریا کے پار اُترنا  
لے جانا (۳) بدن سے لباس جدا کرنا (۴) نثار کرنا۔ وارنا (۵) چربہ  
کھینچنا۔ (۶) نقل کرنا (۷) کاٹنا۔ جدا جدا کرنا (۸) ٹھہرانا۔ جگہ دینا  
(۹) گرانہ۔ ذلیل اور حقیر کرنا (۱۰) معزول کرنا (۱۱) ننگنا۔ صلی سے نیچے

اُتارنا (۱۲) نازل کرنا (۱۳) مسمار کرنا۔ ڈھانا (۱۴) مٹانا۔ اڑانا (۱۵)  
گھٹانا۔ کم کرنا (۱۶) داخل کرنا۔ پہنچانا (۱۷) پورا کرنا (۱۸) کپڑے وغیرہ  
کے واسطے قطع کرنا (۱۹) تیار کرنا۔ تان چیزوں کے لیے جو کسی چیز پر چڑھا  
کر تیار کی جاتی ہیں (۲۰) کسی عضو کا اس کی اصلی جگہ سے اکھاڑنا (۲۱)  
پیوست کرنا (۲۲) ادا کرنا (۲۳) نوہن نشین کرنا (۲۴) مونڈنا۔

اُتارو - (اُتارو) [ق - ۱ - ہند] پار لے جانے والا۔ (۲) ماہر۔ طاق  
اُتارے ہونا - [ہ - مص] (۱) سواروں کا گھوڑوں سے اتر کر تلواروں سے لڑنا  
متوجہ و مستعد ہونا۔ لڑنے کو اتر پڑنا۔ پیچھے پڑ جانا (۲) صدقے اُترنا۔

اُتاق - (اُتاق) [ت - ۱ - ہند] خیمہ۔ ڈیرہ۔ مکان۔ گھر۔ خانہ۔  
اُتاقہ - (اُتاقہ) [ت - ۱ - ہند] کھنی۔ طرہ۔ سما کا پر۔  
اُتالی - (اُتالی) [ق - صف] بے تاب۔ بے چین۔ بے قرار۔  
اُتالینق - (اُتالینق) [ت - ۱ - ہند] اُستاد۔ ادب سکھانے والا۔ تربیت  
سکھانے والا۔ سدھانے والا۔

اُتالینقی - (اُتالینقی) [ت - ۱ - ہند] [مثلاً] اسنادی۔ معتمدی۔ علم سکھانے کا کام۔  
اُتاؤل - (اُتاؤل) [ہ - صف] جلدی جلدی۔  
اُتاؤللا - (اُتاؤللا) [ہ - صف] جلدی جلدی۔ بے چین۔ بے قرار۔

اُتارک - (۱) نازکوں کا باپ (۲) غازی مصطفیٰ کمال پاشا کا لقب۔  
اُتاپتا - (اُتاپتا) [ہ - ۱ - ہند] نشانی۔ علامت۔ شراخ (۲) موقع محل۔  
(۳) متعلقات جو پہلی بوجھنے میں مدد دیں۔

## ا - ت

اُت - [س - ۱ - ہند] نہایت۔ از حد۔ بے انتہا۔ حد سے زیادہ۔ شدید۔

اُت چیل - [ق - صف] نہایت تیز۔  
اُت کوئل - [ہ - ۵ - ہند] (موسیقی) وہ مضر جوشدھ مضر سے دو درجے نیچے ہو۔  
اُت کا بھلا نہ برسات کی بھلی نہ ڈھپ۔ اُت کا بھلا نہ بولنا اُت کی بھلی  
نہ چُپ۔ [مثلاً] ہر چیز کی زیادتی بُری اور نقصان دہ ہوتی ہے۔

اُتا - (اُتا) [ت - ۱ - ہند] باپ۔ والد۔ بزرگ۔ پیر۔ شیخ (۲) آقا۔  
اُتابک - (۱) بزرگ باپ (۲) شاہانہ خطاب۔ شیراز کے نرک بادشاہوں  
کا لقب۔

اُتارک - (۱) نازکوں کا باپ (۲) غازی مصطفیٰ کمال پاشا کا لقب۔  
اُتاپتا - (اُتاپتا) [ہ - ۱ - ہند] نشانی۔ علامت۔ شراخ (۲) موقع محل۔  
(۳) متعلقات جو پہلی بوجھنے میں مدد دیں۔



آتا و لا و ہنا مویج کی تانت - [مثل] بہت ہی جلدی کرنے والا لاناڑی آدمی۔  
 آتا و لا سو با و لا - [مثل] بے سوچے سمجھے جلدی سے کام کرنے والا دیوانہ ہونا ہے  
 آتا و لی - (اُت۔ تا۔ و۔ لی) [ہ۔ ا۔ مٹ] (۱) جلدی عجلت۔ کجلد بازی (۲) چیخل پن۔  
 (۳) آتا و لا کی تانیت۔  
 آتائی - (ا۔ تا۔ ای) [ہ۔ صف] بے اُستاد۔ جس نے کسی فن یا علم کو باقاعدہ حاصل نہ کیا ہو یا وہ اس کا آبائی پیشہ نہ ہو۔  
 اتباع - (ا۔ ت۔ ب۔ ع) [ع۔ ا۔ مذ] پیروی کرنا۔ تقلید (۲) اطاعت فرمانبرداری۔  
 اُتین - (اُت۔ پن) [ہ۔ ا۔ مٹ] (۱) پیدائش۔ نسل۔ کنبہ (۲) پیداوار۔ وصول شدہ معاملہ۔  
 اُتھا و - (ا۔ ت۔ ح۔ و) [ع۔ ا۔ مذ] (۱) یگانگت۔ ملاپ۔ دوستی۔ ایجا۔ (۲) محبت۔ اخلاص (۳) میل جول (۴) باہمی موانعت  
 اتحادی - (ا۔ ت۔ ن۔ ج۔ دی) [ع۔ صف و۔ ا۔ مذ] (۱) اتحاد سے متعلق (۲) ساتھی رفیق۔ دوست۔ حلیف (۳) باہمی معاہدہ سے وابستہ معاہدہ معاہدین۔  
 اُتھاف - (ا۔ ت۔ ح۔ ف) [ع۔ ا۔ مذ] تخفہ دینا۔ ارمغان۔ سوغات۔  
 اُتر - (اُت۔ تر) [س۔ ا۔ مذ] (۱) شمال (۲) جواب (۳) ایک ویدک گیت۔ اُتر جاؤ کہ دکھن، وہی کرم کے کچھن۔ [ہ۔ مثل] جہاں بھی جاؤ قسمت اپنے ساتھ ہے۔  
 اُتر میمانسا - دیدانت فلسفے کی ایک مشہور کتاب  
 اُترا - (اُت۔ تا) [ہ۔ صف] (۱) اُتر ہوا۔ معزول (۲) بہن کرا ترا ہوا لباس۔ اُتر استخنے مردک نام [مثل] اُترے سے علیحدہ ہونے پر عزت نہیں رہتی۔ اُتر کھائی ہوا مائی۔ [مثل] جو چیز کھا کر حلق سے اُتاری جائے وہ مٹی کے برابر ہے۔  
 اُترا ہوا - بھٹا ہوا (۲) باسی۔ زوال پذیر۔ بوسیدہ۔  
 اُتر آنا - (اُتر۔ آنا) [ہ۔ مص] (۱) آمادہ ہونا (۲) اُپر سے نیچے آنا۔  
 اُترانا - (اُت۔ ر۔ نا) [ہ۔ مص] گھنڈ کرنا۔ غرور کرنا۔ نازاں ہونا۔  
 اُترانا - (اُت۔ ر۔ نا) [ہ۔ مص] پانی کے اُپر آنا۔ پانی کی سطح پر تیرنا۔  
 اُتر اُٹ - (اُت۔ ر۔ اُٹ) [ہ۔ ا۔ مٹ] گھنڈ۔ غرور۔ تکبر۔  
 اُترا و - (اُت۔ ر۔ و) [ہ۔ ا۔ مذ] اُتار۔ ڈھال۔  
 اُترائی - (اُت۔ ر۔ ای) [ہ۔ ا۔ مٹ] (۱) نشیب (۲) دریا سے پار ہونے کا محصل (۳) پہاڑ سے اُترنے کا کرایہ (۴) بدلہ۔ احسان کا بدلہ (ق) اُترائے پھرنا۔ (اُت۔ ر۔ ای) [ہ۔ مص] اُٹھنا۔ ناز کرتے پھرنا۔ گھنڈ کرنا۔ اُتر پڑنا۔ [ہ۔ مص] (۱) کچی کام یا کسی مصیبت پر آمادہ ہو جانا (۲) ٹھہرنا ٹھہر جانا۔  
 اُتریا پانی - دریا یا ندی کا پانی کم ہو جانا۔  
 اُترتا چاند [ہ۔ صف] آخر ماہ۔ زوال ماہ۔ اندھیرا پاگھ۔ مینے کا آخری حصہ۔  
 اُترتی - (اُت۔ تر۔ تی) [ہ۔ صف] نیچے آتی ہوئی۔ گرتی ہوئی۔ ڈھلتی ہوئی۔  
 اُترتی برسات - نکلتی برسات۔ برسات کا آخری زمانہ۔  
 اُترتی ندی کنارے ڈھانے۔ [مثل] انسان کا جب کوئی بس نہیں چلتا تو غریب کو ستاتا ہے۔

اُتر جانا - (اُت۔ تر۔ جانا) [ہ۔ مص] (۱) اُپر سے نیچے آ جانا۔ ڈھل جانا (۲) ڈبل ہو جانا (۳) ناپسند ہو جانا (۴) خراب ہو جانا۔  
 اُتر سوں - (اُت۔ تر۔ سوں) [ہ۔ ا۔ مذ] (۱) آنے والے پرسوں کے آگے کا دن (۲) گزے ہوئے پرسوں سے پہلے کا دن۔  
 اُتر کے - (اُت۔ تر۔ کے) [ہ۔ ا۔ مٹ] کھٹ کے۔ کم نیچے۔  
 اُتر گئی لوئی پھیر کیا کمرے کا کوئی - [مثل] جب بے شرمی اختیار کی تو پھر کسی کا کیا ڈر ہے۔ بے لحاظ آدمی کا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔  
 اُترن - (اُت۔ ر۔ ن) [ہ۔ ا۔ مذ] (۱) پہننے ہوئے پرنے کپڑے۔ پُرانا لباس۔ (۲) لکڑی یا پتھر کی پُری جو دروازے میں لگائی جاتی ہے۔  
 اُترن پترن - اُتارے ہوئے پرنے کپڑے۔ پُرانا لباس۔  
 اُترنا - (اُت۔ تر۔ نا) [ہ۔ مص] (۱) اُپر سے نیچے آنا (۲) گھٹنا۔ تنزل پر ہونا۔ گھٹاؤ پر ہونا (۳) بدن میں جوڑ، نس یا ہڈی کا اپنی جگہ سے ہٹ جانا (۴) آواز کا دھپا پڑنا یا بگڑنا (۵) کسی اُتر کو دُور کرنا مثلاً غصہ اُترنا۔ نشہ اُترنا۔ بھار اُترنا۔ (۶) کسی سال، ماہ یا موسم کا ختم ہونا (۷) موت سے تیار ہونے والی کوئی چیز مکمل ہونا مثلاً موزہ اُترنا۔ بخان اُترنا۔ بنیان اُترنا (۸) ایسی چیز کا تیار ہونا جو خرد وغیرہ پر تیار کی جائے (۹) نرخ کا کم ہونا (۱۰) ڈیرہ کرنا۔ ٹھہرنا (۱۱) گھٹنا۔ داخل ہونا (۱۲) بچوں کا سر جانا (۱۳) بھر آنا۔ غصہ نکالنا (۱۴) پھلوں کا پختے پر توڑا جانا (۱۵) گرم پانی یا بھیکے میں کسی چیز کا تیار کرنا۔ (۱۶) لگی بسی چیز کا الگ ہونا۔ صفائی کے ساتھ کٹنا اُدھرنا (۱۷) سلی ہونی چیز کا الگ ہونا (۱۸) نول میں ٹھہرنا (۱۹) کسی ساز کی کسن کا ڈھیلا ہو جانا جس سے اُس کی آواز ڈھیلی ہونے لگے (۲۰) جنم لینا (۲۱) سامنے آنا ظاہر ہونا (۲۲) کشتی یا لڑائی کے لیے اکھاڑے یا میدان میں آنا (۲۳) پار ہونا (۲۴) شطرنج میں کسی پیادے کا کوئی بڑا مہرہ بن جانا (۲۵) وصول ہونا (۲۶) جماعت سے فارغ ہونا (۲۷) آگ پر چڑھائی جانے والی چیز کا پک کر تیار ہونا (مخادرہ) اُتر کر من سے اُترنا۔ چہرہ اُترنا (۲۸) سوار ہونا اور چڑھنا کی ضد (۲۹) بد رنگ ہونا۔ ماند پڑنا (۳۰) پورا ہونا۔ بیباق ہونا (۳۱) عکس کھینچنا۔ نقل اتارنا۔  
 اُترنگ - (اُت۔ ر۔ نگ) [ہ۔ ا۔ مذ] وہ لکڑی جو دروازے کی اُپر کی طرف چوکھٹ میں لگائی جاتی ہے۔ اُترنگا نصیح ہے۔  
 اُتر وانا - (اُت۔ تر۔ و۔ نا) [ہ۔ مص] کسی دوسرے سے کوئی چیز اُتارنے میں مدد دینا۔  
 اُتر وائی - [ا۔ مٹ] اُتارنے کی اُجرت (۲) استقبال۔  
 اُتر می پھیل - (اُت۔ ر۔ می) [ہ۔ ا۔ مذ] اُتر پھلا۔ ہٹ۔ بہیڑا اور اُملہ کا ٹرکب۔  
 اُتری جوانی - (ا۔ مٹ) ڈھلا ہوا شباب۔  
 اُتری کمان - وہ کمان جس کا چلہ چڑھا ہوا نہ ہو۔  
 اُتری ہوئی - (اُت۔ ر۔ می) [ہ۔ ا۔ مذ] [ہ۔ صف] چھوٹی ہوئی۔ استعمال کی ہوئی۔  
 اُتری ہوئی پاپوش - (۱) پُرانا جوتا (۲) بے عزت۔ حقیر آدمی یا عورت (۳) نظروں سے گری ہوئی بے قدر اور بے حقیقت چیز (۴) چھوٹی ہوئی عورت۔



افضل ہے۔ اس کے بعد تجارت اور نوکری تو بھیک مانگنے کے برابر ہے۔

اتم گانا مدھم بجانا۔ گانے کا درجہ اعلیٰ ہے اس کے بعد بجانے کا۔  
اتمام۔ (اٹ۔ نام) [ع۔ ا۔ مذ] (۱) تمام کرنا۔ انجام کو پہنچانا (۲) کمال تکمیل  
اتمام حجت۔ (۱) حجت کا پورا ہونا۔ فیصلہ کن بات۔ آخری دلیل۔ معاملے  
طے کرنا۔ جھگڑا مٹانا (۲) انتہائی کوشش کرنا۔

اٹنا۔ (اٹ۔ نا) [ع۔ صف] (۱) اس تدر۔ اس قسم کا۔ آنا (۲) اس درجہ  
یہاں تک۔ اس قابل (۳) بہت زیادہ (۴) بہت کم۔

اتنا بھرا کہ چھلک گیا۔ [امثل] (۱) زیادہ خیانت کرنا۔ بہت رشوت کھانا جس کا  
چھینا مشکل ہو (۲) اتنا زیادہ مذاق کرنا جو برداشت سے باہر ہو (۳) اتنا  
کھانا جو ہضم نہ ہو سکے (۴) اتنا نفع لینا جس سے بدنامی ہو۔  
اتنا پکا کہ باسی تھکا۔ [مثیل] (۱) کھانا اتنا زیادہ پکا یا کہ باسی ہو کر خراب ہو گیا  
(۲) بات اتنی بڑھی کہ بڑی فصاحت ہوئی۔

اتنا جھوٹ بولو جتنا آٹے میں نمک [امثل] جھوٹ اتنا بولو کہ نہجہ سکے  
اتنا سا۔ (ا۔ صف) تھوڑا سا۔ ذرا سا (۲) چھوٹا سا۔ ننھا سا۔  
اتنا سارا۔ (ا۔ صف) بہت سا۔ بہت سارا۔

اتنا سافتنہ۔ اتنی سی فتنی۔ (۱) مکار بچہ یا بچی (۲) چھوٹی سی یا معمولی سی بات  
جس کے باعث کوئی جھگڑا ہو۔

اتنا سا کام۔ تھوڑا سا کام۔  
اتنا سا منہ نکل آیا۔ (۱) چہرہ اتر گیا۔ نہایت ڈبلا ہو گیا (۲) شرمندہ ہو گیا۔  
اتنا کھلے جتنا پچھے۔ [امثل] لوٹ نہ مچانی چاہیے۔ خیانت یا رشوت  
اتنی نہ ہو جس کا چھپانا مشکل ہو۔

اتنا ہے۔ (محاورہ) اتنی بات ہے۔ یہ پیش نظر ہے۔  
اتنے سے اتنا کر دینا۔ (۱) چھوٹے سے بڑا کر دینا۔ بڑھانا۔ بڑا کرانا۔  
اتنے سے اتنا ہونا (۱) چھوٹے سے بڑا ہونا (۲) غریب سے مال دار ہونا۔  
اتنے کی بڑھیا نہیں جتنے کا لہنگا پھٹ گیا۔ [مثیل] اتنا فائدہ نہ ہوا  
جتنا نقصان ہو گیا۔

اتنے میں۔ اس عرصہ میں۔ اس مقدار میں۔ ناگاہ۔ اتفاق سے۔  
اتنا۔ (اٹ۔ نا) [ع۔ صف] اس تدر۔ اس درجہ۔ اُس حد تک۔  
اتنی۔ (اٹ۔ نی) [ع۔ صف] اس تدر۔

اتنی سی جان گز بھر کی زبان۔ [امثل] چھوٹا منہ بڑی بات۔ چھوٹی عمر میں  
زبان درازی۔

اتنی عقل بھی اجیرن ہوتی ہے۔ [امثل] زیادہ عقل بھی بعض اوقات  
نقصان کا باعث ہوتی ہے۔

اتنی ہی تھی۔ اسی قدر تھی۔  
اتنی ہی لکھی تھی۔ اتنی ہی عمر تھی۔

اتنی۔ (اٹ۔ نی) [ع۔ صف] اُس تدر۔  
اٹو۔ (اٹ۔ ٹو) [ف۔ ا۔ مذ] (۱) وہ آلہ جس پر نقش کرتے اور پیل بوٹے  
بناتے ہیں (۲) کشیدہ کاری۔ پیل بوٹے۔

اٹو اٹو کرنا۔ مارنے مارنے کھال ادھیڑ دینا۔ ہرزے اڑانا۔

اٹسو۔ (اٹ۔ سو) [س۔ اسذ] (۱) خوشی کا عام مظاہرہ۔ (۲) تہوار۔ جشن۔ (۳)  
غصہ۔ ناراضی۔ بے صبری۔

اتصاف۔ (اٹ۔ ت۔ صاف) [ع۔ ا۔ مذ] صفت رکھنا۔ تعریف کیا جانا۔  
اتصال۔ (اٹ۔ ت۔ صال) [ع۔ ا۔ مذ] ملاپ۔ میل۔ قرب۔ نزدیکی۔ کسی کام کا  
رکنا (۲) اصول حدیث کسی حدیث یا روایت کا سلسلہ غیر منقطع  
ہونا یا سلسلہ سند کے راویوں کا نام بنام ذکر کرنا۔

اتصال حقیقی۔ بالکل ایک جان ہونا۔ دوئی ملنا۔ ٹوٹ کر لینا (تصوف) وصل  
باللہ ہونا۔

اتفاق۔ (اٹ۔ ت۔ فاق) [ع۔ ا۔ مذ] موافقت۔ میل جول۔ اتحاد۔ محبت  
دوستی (۲) اچانک۔ دفعۃً۔ اچانکی۔ جمع : اتفاقات۔  
اتفاق بڑھنا۔ اتنی زیادہ ہونا۔ اچانک بڑھنا۔ محبت زیادہ ہونا۔  
اتفاق پڑنا۔ (محاورہ) موقع پڑنا۔ موقع ملنا۔  
اتفاق حتمی۔ اچھا موقع۔ مبارک موقع۔

اتفاق رائے۔ رائے کا متفق ہونا۔ باہمی ہم خیالی۔ رضامندی۔  
اتفاق سے۔ (۱) گلہ سے کبھی کسی موقع پر کبھی کبھی (۲) بالاتفاق (۳) اچانک  
اتفاق کرنا۔ ایک ہو جانا۔ شریک رائے ہونا۔ متفق رائے ہونا۔ مال لینا۔  
اتفاق کی بات۔ اتفاقیہ اتفاقاً۔

اتفاق ہونا۔ (محاورہ) ایک ہونا۔ متفق رائے ہونا (۲) موقع پڑنا۔ موقع ملنا۔  
اتفاقاً۔ (اٹ۔ ت۔ فاق) [ع۔ تابع فعل] اچانک۔ ناگاہ۔ یکایک۔  
اتفاقات۔ (اٹ۔ ت۔ فاق) [ع۔ ا۔ مذ] اتفاق کی جمع۔ واقعات۔  
حادثات۔ سانحات (۲) غیر متوقع۔ ناگہانی۔

اتفاقی۔ (اٹ۔ ت۔ فاق) [ع۔ صف] ایک دم۔ اچانک۔ وہ بات جو  
اتفاق سے ہو جائے۔

اتفاقی رخصت۔ (۱) غیر متوقع ضرورت پر لی جانے والی چھٹی  
(انگ) (Casual Leave)

اتفاقی ننگوفہ۔ (۱) وہ غنچہ یا شگوفہ جو خود بخود زمین سے اُگتا ہے (۲)  
خود رو گھاس کی مانند۔

اتفاقیہ۔ (اٹ۔ ت۔ فاق) [ع۔ صف] اچانک۔ اتفاق سے۔  
اتفاقی۔ (اٹ۔ ت۔ فاق) [ع۔ ا۔ مذ] پرہیزگاری۔ گناہ سے بچنا۔ پرہیز کرنا  
تقویٰ زہد۔

اتقیاء۔ (اٹ۔ تی۔ یا) [ع۔ ا۔ مذ] تقی کی جمع۔ پرہیزگار لوگ۔  
انکا۔ (اٹ۔ ت۔ کا) [ع۔ ا۔ مذ] (۱) نیچہ۔ (۲) بھروسہ کرنا۔  
انگہ۔ (اٹ۔ گ) [ت۔ ا۔ مذ] اتنا یاد دانی کا شوہر۔

اتلاف۔ (اٹ۔ لاف) [ع۔ ا۔ مذ] برابری۔ ضائع کرنا۔ تلف کرنا۔  
اتم۔ (اٹ۔ تم) [س۔ صف] (۱) سب سے اچھا۔ سب سے بڑا۔  
سب سے بھلا (۲) کامل۔ پورا۔ تمام تر۔

اتم سے اتم ملے اور ملے نیچ سے نیچ۔ پانی سے پانی ملے اور ملے کچ سے  
کچ۔ [مثیل] شریف شریف سے اور ذلیل ذلیلوں سے ملتے ہیں جو جیسا ہوتا  
ہے ویسوں سے ہی ملتا ہے۔

اتم کھیتی مدھم ہو پار لکھ جاگری بھیک دوار۔ [مثیل] کاشتکاری سب سے







کتاب ہے۔ تیری ماں کا پیٹ ٹھنڈا۔ اگر وہ کتاب ہے پھری تو کتاب ہے تیری ماں بُری۔

اٹکن بٹکن کھیلنا۔ (مجازاً) بے کار شغل اور فضول کام کرنا۔

اٹکیلی۔ (اٹ۔ کھی۔ لی) [ہ۔ ا۔ مت] (۱) خرام ناز (۲) شوخی۔ طراری چیلنا۔

اٹکیلی چال۔ (۱) ستانہ چال۔ معشوقانہ چال۔ خراماں خراماں چلنا (۲) شوخی۔ بھری ہوئی چال۔ خرام ناز۔

اٹکیلیاں کرنا۔ ناز و سخرہ کرنا۔ اٹھاپنے کی حرکتیں کرنا۔ جھوم کر چلنا۔ شوخیاں دکھانا۔ اٹکیلیوں سے چلنا۔ ناز سے چلنا۔ اتر کر چلنا۔ خراماں خراماں چلنا۔

اٹکی رہنا۔ (اٹ۔ کی۔ رہ۔ نا) [ہ۔ میص] کام بند ہونا۔ حاجت روانہ ہونا۔

اٹل۔ (ا۔ ٹل) [ہ۔ صفت] (۱) نہ ٹلنے والا۔ ناگزیر۔ قائم۔ لازوال (۲) مست۔ بے پروا۔

اٹل ہونا۔ چھٹکنا۔ سیر ہونا۔ پیٹ بھر جانا۔ نیت بھر جانا۔

اٹلس۔ (Atlas) (اٹ۔ لس) [انگ۔ ا۔ مذ] ملکوں کے نقشوں کی کتاب۔

اٹلانٹک (Atlantic)۔ بحر ادتیانوس۔

اٹم۔ (ا۔ ٹم) [ہ۔ ا۔ مذ] تودہ۔ ڈھیر۔ انبار۔

اٹم ہونا۔ انبار لگنا۔ ڈھیر لگنا (ق)۔

اٹمبڑ۔ (اٹم۔ بڑ) [س۔ ا۔ مذ] ڈھیر۔ انبار۔

اٹنا۔ (ا۔ مص) بھر جانا۔ پُر ہو جانا۔ گرد و غبار سے آلودہ ہو جانا۔ جمع ہونا۔ جم جانا۔

اٹنگ۔ (ا۔ ٹنگ) [ہ۔ صفت] وہ کپڑا جو پہننے میں اونچا یا چھوٹا ہو۔

اٹنگا۔ (ا۔ ٹن۔ گا) [ہ۔ صفت] ٹانگوں سے اونچا۔ بد قطع۔ ٹخنوں سے اونچا۔ قد سے چھوٹا کپڑا۔

اٹنگن۔ (اٹن۔ گن) [ہ۔ ا۔ مذ] ایک خاردار پودا جس کی پتیاں چھو جانے سے خارش ہونے لگتی مگر اس کے بیج دواؤں میں استعمال ہوتے ہیں۔

اٹوٹی کھٹوٹی۔ (اٹ۔ ڈا۔ ٹی۔ کھٹ۔ ڈا۔ ٹی) [ہ۔ ا۔ مت] (۱) کھاٹ کھٹوٹا (۲) اور ضابھونا۔ بدھنا بوریا۔

اٹوٹی کھٹوٹی لے کر پڑنا۔ سوگ منانا۔ غصے یا غم کے باعث چارپائی پر الگ پڑے رہنا۔

اٹوٹ۔ (ا۔ ٹوٹ) [ہ۔ صفت] (۱) نہ ٹوٹنے والا۔ مضبوط جو ٹوٹ نہ سکے (۲) لگاتار مسلسل۔

اٹوک۔ (ا۔ ٹوک) [ہ۔ صفت] بلار دک ٹوک۔

اٹھ آنا۔ (محدارہ) ایک مکان سے دوسرے مکان میں جا کر رہنا۔

اٹھ کر پانی نہ پلینا (محدارہ) سست اور کابل ہونا۔

اٹھ۔ (ا۔ ٹھ) [ہ۔ صفت] آٹھ۔

اٹھ پتیا۔ پتھر کی نقاشی جس میں آٹھ پتوں کے پھول بنائے جاتے ہیں۔

اٹھوں پھری۔ اٹھوں پھر کا۔ ہر وقت کا ہمہ وقتی (۲) نگہبان کھینٹوں کا منظر (۳) سحری کھانے بغیر روزہ۔ ہر وقت بجائی جانے والی نوبت۔

اٹھ پھلا۔ آٹھ کونے والا جس میں آٹھ گوشے ہوں۔

اٹھ ماسا۔ وہ کھیت جو اسار سے ماگھ تک آٹھ مہینے وقتاً فوقتاً جرتا جائے

اور جس میں ایک بوٹی جائے (۲) اٹھوانسا۔ وہ بچہ جو آٹھ ماہ میں پیدا ہو جائے۔

اٹھواری۔ ایک قسم کا پتھر جس میں آٹھ نالیں ہوتی ہیں۔

اٹھوارہ۔ آٹھ دن کا وقت۔

اٹھواری۔ وہ دستور جس کے مطابق آسامی جوانی کے وقت آٹھویں دن اپنا ہل بیل زمیندار کو کھیت جوتنے کے لیے دیا جاتا ہے (۲) آٹھ دن کے بعد باری آنا۔

اٹھوانس۔ آٹھ کونوں والا۔ مہشت پہلو۔ میٹھن۔

اٹھوانسا۔ (۱) وہ بچہ جو آٹھ مہینے میں پیدا ہو جائے (۲) وہ کھیت جو اسار سے ماگھ تک بار بار جوتا جاتا رہے اور جس میں ایک بوٹی جائے۔

اٹھا۔ (اٹھ۔ ٹھا) [ہ۔ ا۔ مذ] تاش کا ایک پتا جس پر کسی رنگ کے آٹھ نشان بنے ہوں۔

اٹھا۔ (اٹھا۔ ٹھا) [ہ۔ اٹھ بیٹھا۔

اٹھا بیٹھی۔ اٹھ بیٹھ۔ گھڑی اٹھنا گھڑی بیٹھنا۔

اٹھا بیٹھی رگا رکھنا۔ لگاتار اٹھنا بیٹھنا۔

اٹھا دینا۔ (۱) دے دینا۔ اٹھا کر دینا (۲) پوچھ کر دینا (۳) مجلس یا محل سے نکال دینا (۴) کاروبار بند کر دینا۔ کوئی کام چھوڑ دینا (۵) خرچ کر دینا۔ صرف میں لے آنا (۶) دیوار چن دینا (۷) پروہ اونچا کر دینا۔

اٹھا رکھنا۔ (۱) باقی رکھنا۔ روک رکھنا (۲) سینت رکھنا۔ سنبھال رکھنا (۳) موقوف رکھنا۔ ملتوی رکھنا۔

اٹھالانا۔ (۱) لے آنا۔ بیٹھے کو لے آنا۔ بلالانا (۲) خرید لانا۔

اٹھالے جانا۔ (۱) کسی چیز کو لے جانا (۲) مردہ کو لے جانا۔ لاش کو لے جانا۔

اٹھالینا۔ (۱) بلند کر لینا۔ اُدھر کر لینا (۲) تعمیر کر لینا (۳) ہاتھ میں لے لینا۔ (۴) صرف کر ڈالنا (۵) سنبھال لینا۔ برداشت کر لینا (۶) تعلق توڑ لینا۔ انگ کر لینا۔ ہٹا لینا (۷) اپنے اوپر لے لینا (۸) دینا سے اٹھا لینا۔ جان لے لینا۔ مار ڈالنا۔

اٹھا مارنا۔ زمین پر چپت کر دینا۔ غالب آنا۔ پٹخ دینا۔ پھارنا۔

اٹھارہ۔ (اٹھ۔ ٹھا۔ ر) [ہ۔ صفت] دس اور آٹھ۔

اٹھاسی (اٹھا۔ سی) [ہ۔ صفت] اسی اور آٹھ۔ سناسی کے بعد کا عدد۔

اٹھاسی وال۔ جس کی گنتی سناسی کے بعد ہو۔

اٹھان۔ (اٹھا۔ ن) [ہ۔ ا۔ مت] (۱) اٹھنا۔ اٹھنے کی حالت (۲) شروع آغاز (۳) ابھار۔ بالیدگی

اٹھانا۔ (اٹھا۔ نا) [ہ۔ میص] (۱) اُدینا کرنا (۲) اختیار کرنا (۳) صاف کرنا (۴) باہر کر دینا (۵) جان لے لینا (۶) بنانا۔ تعمیر کرنا (۷) چھوڑ دینا۔ توڑ دینا (۸) جگانا (۹) خرچ کرنا (۱۰) موقوف کرنا (۱۱) سنبھالنا۔ (۱۲) نکالنے لے جانا (۱۳) برپا کرنا۔ قائم کرنا (۱۴) حاصل کرنا (۱۵) انجام دینا (۱۶) ملتوی کرنا (۱۷) ہٹانا۔ اٹھنا (۱۸) برداشت کرنا۔ (۱۹) چھوڑ دینا۔ باقی رکھنا (۲۰) پھیلانا (۲۱) اتارنا (۲۲) کھینچنا۔ (۲۳) دور کرنا (۲۴) ابھارنا۔ بند کرنا (۲۵) لے لینا (۲۶) پکڑنا (۲۷) دے دینا (۲۸) چمانا (۲۹) قسم کھانے کے لیے ہاتھ میں لینا (۳۱) دہرانا۔ شاعر کا مصرع سن کر اسے بلند آواز سے دہرانا۔



اٹھانے (اٹھانے سے) [ہ۔ صف] نوتے اور آٹھ۔ ستانے کے بعد کا عدد۔  
 اٹھاون (اٹھنا۔ دن) [ہ۔ صف] پچاس اور آٹھ۔ ستانے کے بعد کا عدد۔  
 اٹھاؤ۔ (اٹھا۔ او (داؤ بھول) [ہ۔ ۱۔ مذ] اٹھان۔ ترقی اٹھانا مصدر کا امر  
 اٹھاؤ چڑھا۔ (معاورہ) (۱) وہ چولہا جسے ہر جگہ لے جا سکیں (۳) آدمی جو ایک جگہ  
 جم کر نہ رہے۔ خانہ بدوش۔  
 اٹھاؤ میرا مکن میں گھر سلنھالوں اپنا۔ [مثیل] بے شرم عورت کو کہتے ہیں جو سیاہ  
 ہوتے ہی شوہر کے گھر کا انتظام کرنے لگے اور میاں کو لے کر  
 اٹک ہو جائے۔

اٹھاؤنی۔ (اٹھا۔ ا۔ نی) [ہ۔ ۱۔ مٹ] (۱) نیجا۔ سوم بھول۔ ہندوؤں کی ایک رسم  
 جب مردے کی ہڈیاں گنگا میں ڈالنے کے لیے لجاتے ہیں۔  
 اٹھائیس۔ (اٹھائیس) [ہ۔ صف] بیس اور آٹھ۔ ستائیس کے بعد کا عدد۔  
 اٹھائی جائے نہ دھری جائے۔ [مثیل] مشکل۔ مصیبت (۲) ایسی بات جو  
 برداشت نہ کی جائے اور اس کا جواب بھی نہ دیا جاسکے۔

اٹھائی گرا۔ (اٹھا۔ ای۔ گی۔ رما) [ہ۔ صف] (۱) اچکا۔ آنکھ بچا کر چھوٹی چھوٹی  
 چیزیں چرایینے والا۔ جیب کترا (۲) بد معاش۔ لٹیا۔  
 اٹھ بیٹھ۔ (اٹھ۔ بیٹھ) [ہ۔ ۱۔ مٹ] (۱) اٹھا بیٹھی۔ بار بار اٹھنا بیٹھنا (۲) ایک  
 قسم کی سزا جو استاد شاگردوں کو دیا کرتے ہیں۔  
 اٹھ بیٹھنا۔ (اٹھ۔ بیٹھ۔ نا) [ہ۔ مص] (۱) جاگ اٹھنا۔ بیدار ہو جانا (۲) بیٹھنے  
 سے کھڑا ہو جانا (۳) تندرست ہو جانا۔ چنگا ہو جانا۔

اٹھتا بیٹھتا۔ (اٹھتا۔ تا۔ بیٹھتا) [ہ۔ صف] گرتا پڑتا۔ درجہ بہ درجہ  
 اٹھتا جو بن۔ (اٹھتا۔ مذ) [ہ۔ ۱۔ مذ] آغاز شباب۔ سینے کے ابھار کا زمانہ۔  
 اٹھتے۔ (اٹھتے۔ تے) [ہ۔ صف] ستر اور آٹھ۔ ستر کے بعد کا عدد۔  
 اٹھتی۔ (اٹھتی۔ تی) [ہ۔ صف] (۱) اٹھتی ہوئی۔ کھڑی ہوئی ہوئی (۲) ابھرتی ہوئی  
 (۳) ختم ہوتی ہوئی (۴) شروع ہوتی ہوئی۔

اٹھتی پیٹھ۔ (اٹھتی۔ مٹ) بازار یا باٹ جو بند ہونے کے قریب ہو (۲) اُٹھنے  
 والا میلہ (۳) چل چلاؤ۔ رخصت کا وقت۔  
 اٹھتی پیٹھ اٹھوں دن۔ [مثیل] وقت کے ہاتھ سے نہ دینا چاہئے۔ ورنہ  
 پھر موقع ہاتھ نہ آئے گا۔  
 اٹھتی جوانی۔ آغاز جوانی۔ شباب کے دن۔  
 اٹھتی جوانی میں اٹھ گیا۔ نوجوان مر گیا۔

اٹھتی کوئیل۔ (۱) نئی اور بڑھتی ہوئی نئی (۲) نوجوانی۔ نوجوان۔ نوجوان۔ شروع شباب۔  
 اٹھتے۔ (اٹھتے۔ تے) [ہ۔ صف] کھڑے ہوتے ہوئے۔  
 اٹھتے اٹھتے۔ صبح حوائج ضروریہ سے فارغ ہوتے ہوئے (۳) خورج ہو ہوا کر  
 اٹھتے بیٹھے۔ (۱) گرتے پڑنے افناں خیزاں (۲) ٹھہر ٹھہر کر بڑی وقت سے  
 (۳) ہر وقت۔ اکثر و بیشتر۔

اٹھتے جوتی بیٹھتے لات۔ [مثیل] ہر وقت بے عزتی۔ نہایت ذلت و  
 خواری کا برتاؤ۔  
 اٹھ جانا۔ (اٹھ۔ جانا) [ہ۔ مص] (۱) چلا جانا۔ رخصت ہو جانا (۲) مرجانا۔  
 (۳) خورج ہو جانا۔ (۴) جاننا رہنا۔ عمل یا حکومت بدل جانا۔  
 اٹھ رہنا۔ [ہ۔ مص] ملتوی رہنا۔

اٹھ سکتا۔ [ہ۔ مص] لیٹے سے بیٹھ سکتا۔ کھڑا ہو سکتا۔ برداشت ہو سکتا۔ منہل ہو سکتا۔  
 اٹھ کر پانی نہیں پیا جاتا۔ [مثیل] بے حد کاہلی یا نہایت ضعف اور ناتوانی  
 کے موقع پر بولتے ہیں۔

اٹھ کھڑا ہونا۔ (۱) چلنے کو تیار ہونا (۲) قائم ہونا۔ برپا ہونا (۳)  
 ابھرنے۔ دفعۃً کسی مرض کا پیدا ہونا (۴) لڑنے کو تیار ہونا۔ (۵)  
 بیماری سے صحت پانا۔

اٹھ کھیل۔ (اٹھ۔ کھیل) [ہ۔ مٹ] (۱) اٹھکھیلی۔ دل لگی۔ مذاق۔  
 اٹھلانا۔ (اٹھ۔ لانا) [ہ۔ مص] (۱) اترانا (۲) چونچلا کرنا۔ سخرہ کرنا (۳) مستی  
 دکھانا (۴) پھیرنے کے لیے جان بوجھ کر اسخان بننا۔ اغماض کرنا۔

اٹھلاہٹ۔ (اٹھ۔ لا۔ ہٹ) [ہ۔ ۱۔ مٹ] (۱) ناز۔ سخرہ۔ سخرہ (۲)  
 ٹھسک۔ ٹھسکا۔  
 اٹھلو۔ (اٹھلو۔ نو) [ہ۔ صف] ایک جگہ پر نہ رہنے والا۔ جم کر کام نہ کرنے والا۔

اٹھنا۔ (اٹھنا۔ نا) [ہ۔ مص] (۱) کھڑا ہونا۔ ایستادہ ہونا (۲) اُٹھنا ہونا بلند ہونا۔  
 ابھرنے (۳) جاگنا۔ بیدار ہونا (۴) آمادہ ہونا۔ مستعد ہونا (۵) چلنا۔ نکلنا۔  
 روانہ ہونا (۶) برپا ہونا (۷) دوکان یا مکان چھوڑنا۔ خالی کرنا شروع  
 کرنا (۸) نشوونما پانا (۹) حاصل ہونا (۱۰) اڑنا۔ پرداز کرنا۔  
 (۱۱) گھوڑی وغیرہ کا مست ہونا (۱۲) خرچ ہونا (۱۳) موقوف ہونا۔  
 (۱۴) پڑھا جانا (۱۵) نقش ہونا۔ ٹھیکہ ہونا (۱۶) زمین کا اجارہ پر ہونا۔  
 ٹھیکہ ہونا (۱۷) تربیت یافتہ ہونا (۱۸) چار کا ترشی پر آ جانا۔ کھٹا  
 ہونا (۱۹) مرنا۔ فوت ہونا (۲۰) سوار ہونا (۲۱) تمام ہونا۔ تیار ہونا۔  
 کام سمٹنا (۲۲) جیسے درد وغیرہ اٹھنا۔

اٹھنا بیٹھنا۔ نشست و برخاست رکھنا۔ صحبت رکھنا۔  
 اٹھ نہ سکتا۔ (۱) کھڑا نہ ہو سکتا (۲) برداشت نہ ہو سکتا (۳) جواب نہ بن سکتا۔  
 اٹھتی۔ (اٹھتی۔ تی) [ہ۔ ۱۔ مٹ] اٹھ آنے کا چاندی کا سکہ۔ آدھا روپیہ  
 پچاس پیسے کا سکہ۔

اٹھنے آنا۔ (اٹھنے۔ نے۔ آنا) [ہ۔ مص] آشوب کرنا۔  
 اٹھوانا۔ (اٹھنا۔ نا) [ہ۔ مص] (۱) کھڑا کر دانا۔ کسی جگہ سے نکلوانا۔  
 (۲) تعمیر کر دانا۔ (۳) خرچ کر دانا۔  
 اٹھواڑا۔ اٹھواڑا۔ (۵۔ مذ) ایک ہفتہ۔ آٹھ دن۔  
 اٹھواں۔ (۵۔ صف) اٹھا ہوا۔ ابھرا ہوا۔  
 اٹی۔ (اٹی۔ ٹی) [ہ۔ ۱۔ مٹ] اٹیرن پر لپیٹا ہوا اون یا سوت۔ لچھا۔  
 (۲) پوللا۔ گٹھا۔ گبھوں کی بالوں کا گٹھا۔ (۳) پگڑی۔

اٹیرن۔ (اٹیرن۔ ن) [ہ۔ ۱۔ مذ] (۱) سوت کی انٹی بنانے کا آلہ (۲) دبلان  
 (۳) پہلوانوں کی اصطلاح میں ایک بیچ کا نام (۴) گھوڑا پھیرنے کا ایک طریقہ  
 اٹیرن پھیرنا۔ گھوڑے کو کاوا دینے کا ایک طریقہ۔ ڈہرا کاوا۔ یہ چکر اس لچھے  
 سے مشابہ ہوتا ہے جو اٹیرن سے اترتا ہے۔  
 اٹیرن کر دینا کشتی میں داؤ بیچ جس سے آدمی چکر اٹھائے (۲) دم نہ لینے دینا۔  
 اٹیرن ہونا۔ (۱) بڑی نکل آنا۔ بہت ڈبلا ہونا (۲) گھوڑے کو چابک مار کر  
 چکر دینے کی ایک شکل۔

اٹیرنا۔ (اٹیرنا۔ نا) [ہ۔ مص] اٹیرن سے موت کی انٹی بنانا۔ سوت لپیٹنا۔



## ۱-ث

ہے۔ امامیہ۔  
**اثنان** - (اث۔ نان) [ع۔ صف] دو کا عدد۔ دوسرا۔  
**اثنین** - (اث۔ نین) [ع۔ صف] دو۔  
**اثر** - (ا۔ ثیر) [ع۔ صف] (۱) عالی۔ بلند۔ آسمان (۲) ایثار  
**اثریم** - (ا۔ ثیم) [ع۔ صف] گنہگار۔ عاصی۔ مجرم۔ غاطی۔

## ۱-ج

**اجابت** - (ا۔ جابت) [ع۔ ا۔ مٹ] (۱) جواب دینا۔ قبول دہا۔ منقولیت  
 (۲) رفع حاجت (۳) پاخانہ۔ براز۔  
**اجابت ہونا** - (محاورہ) فضلہ خارج ہونا۔ پاخانہ آنا۔  
**اجاتی** - (ا۔ جاتی) [س۔ صف] قوم سے باہر۔ قوم سے نکالا ہوا۔  
**اجارہ** - (ا۔ جارہ) [ع۔ ا۔ مذ] (۱) کسی چیز کی تجارت پر بلا شرکت غیرے  
 قبضہ (۲) اجرت پر دینا (۳) کرایہ۔ ٹھیکہ (۴) دعویٰ حکومت قبضہ  
 قابو۔ اختیار۔ جمع اجارات۔  
**اجارہ اجارہ** - ٹھیکے کا کام حراب ہوتا ہے۔  
**اجارہ باندھنا**۔ قبضے میں لانا۔ قبضہ کرنا۔ (۲) ٹھیکے پر لینا (۳) اجرت پر  
 مزدوروں کی خدمات حاصل کرنا۔  
**اجارہ دار** - (۱) وہ شخص یا ادارہ جس کو کسی چیز کی تجارت کا بلا شرکت غیرے  
 حق حاصل ہو (۲) ٹھیکہ دار (۳) کرایہ پر لینے والا۔  
**اجارہ داری** - کسی تجارت پر بلا شرکت غیرے قبضہ۔ متحمل قبضہ۔ ٹھیکیداری۔  
**اجارہ کار** - زمین یا مکان وغیرہ کو کرایہ پر دینے والا۔  
**اجارہ کرنا** - (محاورہ) (۱) ٹھیکے پر کوئی کام ٹھہرانا (۲) ذمے لینا (۳) ٹھیکہ لینا۔  
**اجارہ کیا ہے** - (محاورہ) قابو نہیں ہے۔ کچھ دعویٰ نہیں ہے۔  
**اجارے لینا**۔ ٹھیکے پر لینا۔  
**اجارے** - (ا۔ جارے) [ع۔ صف] ویران۔ غیر آباد۔ جنگل۔ آباد کی ضد۔  
**اجارے صورت** - بد صورت۔ بد نما۔  
**اجارے کا** - ویرانے کا۔  
**اجارے کرنا** - (ا۔ جارے کرنا) [ع۔ مص] (۱) ویران کرنا۔ برباد کرنا (۲) مسمار کرنا۔ ڈھانا۔  
 اینٹ سے اینٹ بجانا (۳) اکھاڑنا۔ (۴) ضائع کر دینا۔  
**اجارے والا** - (ا۔ جارے والا) [ع۔ صف] برباد کرنے والا۔ کھاؤ۔ لٹاؤ۔  
**اجازت** - (ا۔ جازت) [ع۔ ا۔ مٹ] حکم۔ ارشاد۔ پرواگی منظوری۔ کسی پر  
 کا اپنے مرید کو وظیفہ پڑھنے کا اختیار دینا۔  
**اجازت طلب** - اجازت چاہنے والا۔  
**اجازت نامہ** - وہ تحریر جس کے ذریعے کسی بات کی اجازت دی گئی ہو۔ سند۔  
 پتہ۔  
**اجازہ** - (ا۔ جازہ) [ع۔ ا۔ مذ] پروا نہ رہداری۔  
**اجاع** - (ا۔ جاع) [ت۔ ا۔ مذ] چوٹھا۔ دیکھان۔  
**اجاگر** - (ا۔ جاکر) [ع۔ صف] (۱) روشن۔ تاباں۔ درخشاں (۲) ظاہر۔ عیاں  
**اجالہ** - (ا۔ جالہ) [ع۔ ا۔ مذ] نور۔ روشنی۔ جگمگ۔

**اثاث** - (ع۔ مذ) اثاثہ کی جمع۔ سامان۔ سرمایہ۔ زیور (۲) زیادہ ہونا۔  
**اثاث البیت** - (ا۔ اثاث۔ ثل۔ بیت) [ع۔ ا۔ مذ] اسباب خاتمہ داری۔ گھر  
 کا سامان منقولہ جائداد۔  
**اثاثہ** - (ا۔ اثاثہ) [ع۔ ا۔ مذ] (۱) جمع کیا ہوا۔ جوڑا ہوا (۲) سرمایہ۔ اسباب  
 کپڑا لٹا وغیرہ۔ سامان جو جمع کیا ہوا ہو۔ جمع: اثاث  
**اثارت** - (ا۔ اثارت) [ع۔ مٹ] کسی کیفیت کا بقیہ نشان۔  
**اثالب** - (ا۔ اثالب) [ع۔ مذ] ثلب کی جمع۔ وہ مکان جو عربوں نے پہاڑوں  
 کو کھود کر بنائے تھے اور ان میں نقش و نگار کیے جاتے تھے۔  
**اثبات** - (ا۔ اثبات) [ع۔ ا۔ مذ] (۱) البطل کی ضد۔ ثبوت۔ دلیل تصدیق  
 (۲) نقش بنانا (۳) قیام۔ بجال (۴) استقامت  
**اثبات مجرم** - مجرم ثابت ہونا۔  
**اثبات کو پہنچنا** - (محاورہ) ثبوت فراہم کرنا۔ ثابت ہو جانا۔  
**اثر** - (ع۔ ا۔ مذ) (۱) سنت نبویؐ۔ حدیث کی قسموں میں سے ایک قسم (۲) تاثیر  
 (۳) نشان۔ زخم کا داغ (۴) کھنڈر (۵) کھوج (۶) نتیجہ۔ نائدہ۔ جمع: اثاث  
 اثرات (۷) آسیب کا سایہ۔  
**اثر آنا** - (محاورہ) تاثیر پیدا ہونا۔  
**اثر آنے لگنا**۔ تاثیر ہونا شروع ہو جانا۔  
**اثر آنا رنا** - (محاورہ) نشہ آنا رنا۔ آسیب دور کرنا۔  
**اثر بخشنا**۔ تاثیر پیدا کرنا۔  
**اثر پڑنا**۔ اثر ہونا۔ متاثر ہونا۔  
**اثر پزیر (پذیر)** اثر قبول کرنے والا۔  
**اثر دکھانا**۔ تاثیر پیدا کرنا۔  
**اثر ڈالنا** - (محاورہ) (۱) تاثیر پیدا کرنا (۲) زور ڈالنا۔ متاثر کرنا۔  
**اثر رکھنا** - (محاورہ) اپنی ذات میں کسی طرح کی خاصیت رکھنا (۲) با اثر ہونا۔  
 تاثیر رکھنا (۳) قابو رکھنا۔  
**اثر کرنا** - (محاورہ) خاصیت کا فعل صادر ہونا۔ تاثیر ہونا (۲) سرایت کرنا۔  
 پیٹھنا۔ گھسنا (۲) رنگ جمانا۔  
**اثر کھلنا** - (محاورہ) تاثیر ظاہر ہونا۔  
**اثر ہونا** - (محاورہ) تاثیر ہونا۔ رنگ جمانا (۲) سمجھ میں آنا۔ ذہن نشین ہونا۔  
**اثری** - (ع۔ صف) آثار قدیمہ سے متعلق۔ تاریخی۔  
**اقتال** - (ا۔ اث۔ قال) [ع۔ ا۔ مذ] تفل کی جمع۔ بوجھ۔ وزن۔  
**اٹم** - (ع۔ مذ) بکسراقل و سکون ثانی و ثالث۔ گناہ۔ معصیت۔ اخلاقی یا مذہبی مجرم۔  
**اٹمار** - (ا۔ اٹ۔ مار) [ع۔ ا۔ مذ] مٹاؤ۔ جمع۔ بھل۔ خوشے۔ میوے۔  
**اٹم** - (ا۔ اٹ۔ مٹ) [ع۔ ا۔ مذ] سرمہ کا پتھر۔  
**اٹنا** - (ا۔ اٹ۔ نا) [ع۔ وقف۔ درمیان۔ بیچ۔ دوران۔  
**اٹنے کے تجویز**۔ تحقیقات کے دوران میں۔  
**اٹنا عشر** (ا۔ اٹ۔ نا۔ ع۔ شر) [ع۔ صف] بارہ۔ اصطلاحاً بارہ امام علیہم السلام  
**اٹنا عشری** - اٹنا عشریہ۔ شیعوں مسلمانوں کا ایک فرقہ جو بارہ اماموں کو مانتا



اُجالا ہونا۔ (۱) روشنی ہونا۔ دن نکلنا (۲) لٹ جانا۔ صفیا ہوجانا۔ کچھ باقی نہ رہنا۔  
اُجالے کا پہرا۔ پھلی رات کا پہرہ جو صبح کو شروع ہوتا ہے۔  
اُجالے کا تارا۔ صبح کا ستارا۔ زہرہ۔

اُجالنا۔ (اُ-جال-نا) [ہ-مص] چمکانا۔ جلا کرنا۔ صاف کرنا۔ بکھارنا۔ زیور کا میل نکالنا۔ صیقل کرنا۔

اُجان۔ (اُ-جان) [ہ-مص] (۱) اُن جان۔ نہ جلنے والا۔ نا بکھر (۲) نہ جانا ہوا۔  
اُجانب۔ (اُ-جا-نب) [ع-ا-ند] اجنب کی جمع۔ بیگنے۔ جنبی لوگ  
اُجبار۔ (اُج-بار) [ع-ند] جبر۔ زبردستی (۲) مجبوری۔

اُجبت۔ (اُج-بت) [ع-ا-ند] اردو میں بگڑا ہوا اصل از بک ہے  
(۱) ترکوں کی ایک قوم (۲) اُجڑے۔ بے وقوف۔ اناڑی۔  
اجتماع۔ (اُج-ت-ماع) [ع-ا-ند] مجمع۔ بھیر۔ اکٹھا ہونا۔ سمٹنا۔ جمع ہونا۔  
جمع: اجتماعات۔

اجتماعِ صُدیٰ۔ اجتماعِ نقیضین۔ دو مخالف چیزوں کی یک جاتی۔  
اجتماعی۔ (اُج-ت-ماع) [ع-مص] منسوب بہ اجتماع۔ پورے طور پر۔  
مجموعی طور پر۔

اجتماعِ عیّت۔ (اُج-ت-ماع) [ع-ا-ند] (۱) ایک جگہ اکٹھا ہونا (۲) ایک نظر جس کی رو سے ملکیت انفرادی نہیں اجتماعی ہوتی چاہئے۔  
اجتناب۔ (اُج-ت-ناع) [ع-ا-ند] (۱) پہلو بچانا۔ پرہیز کرنا (۲) بچاؤ  
کنارہ۔ علیحدگی۔ پرہیز۔ گوشہ گیری۔

اجتہاد۔ (اُج-ت-ناع) [ع-ا-ند] (۱) جدوجہد۔ کوشش کرنا۔ ٹھیک  
راہ ڈھونڈنا (۲) بہت سوچنا۔ غور و خوض سے کسی مسئلہ کا حل کرنا (۳)  
ایجاد۔ نئی بات پیدا کرنا (۴) فقہ اسلامی کی اصطلاح میں قرآن و حدیث اور  
اجماع پر تیس کر کے شرعی مسائل کا اخذ کرنا۔ جمع: اجتهادات۔

اجداد۔ (اُج-داد) [ع-ا-ند] جد کی جمع۔ باپ۔ دادا۔ پُرکھے۔  
اُجد۔ (اُ-جد) [ہ-مص] (۱) گنوار۔ بے وقوف (۲) جاہل مطلقِ صُدیٰ  
اکھڑ۔

اُجدین۔ بے ہودہ پن۔ گنوار پن۔  
اُجر۔ (اُ-جر) [ع-ا-ند] نیک کام کا عوض۔ ثواب۔ بدلہ۔ پھل۔ اُجرت۔ مزدوری  
اُجر جائز۔ قانوناً جائز محنتانہ۔

اُجر غیر مستون۔ بے نقصان ثواب۔ ایسا بدلہ جس پر احسان نہ جتایا جائے۔  
اُجرا۔ (اُج-را) [ع-ا-ند] جاری کردہ شروع کرنا۔ کام چلانا۔  
اُجرائے ڈگری۔ ڈگری کا جاری کرنا

اُجرائے سمن۔ گواہ کے نام طلبی کے واسطے سمن جاری کرنا۔  
اُجرام۔ (اُج-رام) [ع-ا-ند] نجوم کی جمع۔ جسم۔ ستاروں اور اجرام ہرات کے جسم۔  
اُجرامِ فلکی۔ سورج۔ چاند۔ ستارے اور تیارے وغیرہ۔

اُجرت۔ (اُج-رت) [ع-ا-ند] مزدوری۔ کام کا عوض۔ حق الخدمت۔  
اُجرتِ خالص۔ نقد مزدوری۔ کسی کام کا عوض نقدی کی صورت میں۔  
اُجرتی۔ (اُج-رتی) [ع-مص] اُجرت پر کام کرنے والا مزدوری کا کام۔

اُجڑا۔ (اُج-ڑا) [ہ-مص] (۱) دیران۔ برباد۔ (۲) لٹا پٹا (۳) خانہ خراب۔  
اُجڑا بھڑا۔ لٹا پٹا۔ برباد شدہ۔ دیران۔

اُجڑا گھر بسا دینا۔ (۱) غیر آباد اور پریشان حال کو آباد اور مطمئن کر دینا (۲)  
زندگانی کا نکاح کر دینا۔

اُجڑا گھر بس گیا۔ (۱) گھر میں رونق ہو گئی۔ گھر میں چل پھل ہو گئی (۲) زندگی  
کا نکاح ہو گیا (۳) بے اولاد کے ماں بچہ پیدا ہونے پر کہتے ہیں۔

اُجڑ جانا۔ (اُجڑ-جانا) [ہ-مص] لٹ جانا۔ برباد ہوجانا۔ دیران ہوجانا۔  
اُجڑ گیا۔ (اُجڑ-گ-یا) [اُ-مص] اُجڑا۔ تباہ ہو گیا۔  
اُجڑنا۔ (اُ-جڑ-نا) [ہ-مص] (۱) دیران ہونا۔ (۲) تباہ ہونا (۳) اکھڑنا۔ پامال  
ہونا (۴) مٹ جانا۔ غارت ہونا۔

اُجڑی۔ (اُج-ڑی) [ہ-مص] (۱) تباہ۔ برباد (۲) تباہ ہو گئی۔ برباد ہو گئی۔  
اُجڑی بات۔ کسی بات کی بابت بیزاری اور تحقیر سے کہتے ہیں۔  
اُجڑی ٹنگری سونا دلیس۔ (مثل) دیران۔ تباہ شدہ جگہ۔

اُجڑے گاؤں سے کیا نانا۔ (مثل) جس جگہ رہنا چھوڑ دیا پھر وہاں سے کیا واسطے  
اُجڑے گھر کا بلینڈا۔ (مثل) جہاں سارا گھر تباہ ہو جائے اور ایک کتھا  
آدی رہ جائے اس کی نسبت کہتے ہیں۔

اُجڑا۔ (اُج-ڑا) [ع-ا-ند] (۱) جز کی جمع۔ حصے۔ ٹکڑے۔  
اجزائے ترکیبی۔ جن سے مل کر کوئی چیز بنی ہو۔  
اجزائے متناسبہ۔ وہ اجزا جو اجتماعی صورت میں تناسب کے لحاظ سے موزوں  
ہوں اور ان میں کسی قسم کی کمی یا زیادتی نہ پائی جائے۔

اُجساد۔ (اُج-ساد) [ع-ا-ند] لہجہ کی جمع۔ بہت سے جسم۔  
اُجسام۔ (اُج-سام) [ع-ا-ند] جسم کی جمع۔ بہت سے جسم۔ تن۔  
اُجگر۔ (اُج-گر) [ہ-مص] (۱) اژدہا۔ بہت بڑا سانپ۔ بھاری یا ہتھکڑی  
دزنی سانپ (۲) بڑی بھاری چیز۔

اُجگر کے دانا رام۔ [مثل] جو چلنے پھرنے اور کام کرنے سے مجبور ہیں  
انھیں خدا دیتا ہے۔ کابل کو بھی اللہ روزی دیتا ہے۔

اُجل۔ (اُج-ل) [ع-ا-ند] (۱) وقت (۲) موت۔ مرگ۔ قضا۔ جمع اقبال۔  
اُجل تو کہیں سر پر سوار نہیں ہے۔ موت نے تو کہیں نہیں گھیرا ہے۔  
اُجل رسیدہ (مگر فتر) وہ شخص جس کی موت آئی ہو جان بار۔ موت کے  
پھندے میں پھنسا ہوا۔

اُجل سر پر سوار ہے۔ خطرناک کام کرنے لگا ہے۔ موت کو دعوت دے رہا ہے۔  
اُجل سر پر کھڑی ہے۔ موت کا وقت بہت قریب ہے۔  
اُجل سر پر کھیلنا۔ موت کا آپہنچنا۔ ایسا کام کرنا جس میں موت کا  
اندیشہ ہو۔

اُجل طبعی۔ طبعی یا فطری موت۔ حادثے کی موت کی ضد۔  
اُجل کا پیغام آنا۔ مرنے کا وقت قریب آجانا۔ مرنے کے آثار ظاہر ہونا۔  
اُجل کا تپا پنچہ۔ اُجل کا فھنسیٹرا۔ مہلک ضرب۔ مہلک مرض۔  
اُجل کے منہ سے پھرنا۔ مہلک مرض سے نجات پانا۔ کسی بلے ناگمانی  
سے بچ جانا۔

اُجل۔ (اُ-جل) [ع-مص] بہت بزرگ۔ بڑا ذی شان۔ جلیل القند۔  
اُجلا۔ (اُج-لا) [ہ-مص] (۱) صاف ستھرا۔ سفید۔ میلان کی ضد (۲)  
دھوبی۔







اچنبھا آنا۔ اچنبھا گزرنہ۔ اچنبھا ہونا۔ حیرت ہونا۔ تعجب ہونا۔  
اچنبھا دانہ۔ ایک قسم کی مٹھائی جو خشکاش کے دانوں پر نکر کا توام چڑھا کر  
بنائی جاتی ہے۔ نقل۔ خشکاش۔

اچنبھ کی بات۔ تعجب خیز بات۔

اچنبھ میں رہنا۔ تعجب میں رہنا۔ متحیر ہوجانا۔

اچنت۔ (اچن۔ ت) [صف] بے خیالی میں۔ اچانک (۲) بے فکرہ مطلق۔  
اچوگن۔ (اچو۔ گن) [ہ۔ صف] (۱) جو نہ چوکے۔ جو خالی نہ جائے جو ٹھیک  
بیٹھے جو صحیح نتیجہ دکھائے۔

اچھا۔ (اچھ۔ چھا) [ہ۔ صف] (۱) بُرا کی ضد۔ بہتر۔ مناسب۔ ٹھیک۔ درست (۲)  
تندرست۔ بے روگ (۳) بہت خوب (۴) مبارک۔ مسود۔ نیک (۵)  
مفید۔ سزاوار۔ موافق (۶) (طنزاً) بے ڈھب۔ بُرا (۷) افضل۔ اعلیٰ۔ (۸)  
تسلی۔ اطمینان۔ دیکھا جائے گا (بُرائی کے لیے) سمجھے (۱۰) سن لیا (ناکیدیا  
تنبیہ کے لیے) (۱۱) اجازت ہے۔

اچھا بُرا۔ (۱) نیک۔ بد۔ بُرا۔ بھلا (۲) معمولی۔ جیسا ہو سکا

اچھا بھلا۔ تندرست۔ بھلا چنگا۔ بے عیب۔ سات صاف۔ پورا۔ سالم۔  
اچھاپن۔ نیکی۔ بھلائی۔

اچھا خاصا۔ (۱) اچھا بچھا۔ صحیح سالم۔ بھلا چنگا۔ تندرست بے عیب (۲) بہت  
ٹھیک۔ درست۔ جیسا چاہئے (۳) پورا (۴) نمایاں۔ سات صاف۔

اچھا رہنا۔ (معاورہ) مرضی کے موافق کام میں پڑنا۔ بڑھ کر رہنا (۲) تندرست رہنا۔  
اچھا سلوک کیا۔ (معاورہ) (۱) نیک بننا و کیا۔ (۲) (طنزاً) بہت بُرا کیا اچھا نہیں کیا۔  
اچھا کرنا۔ (معاورہ) بھلا کرنا۔ تندرست کرنا (۲) خوب کرنا۔ مناسب کرنا۔

اچھا کہنا۔ (معاورہ) (۱) تعریف کرنا۔ اچھے الفاظ سے یاد کرنا (۲) عمدہ شکر کرنا۔  
اچھا کیا خدائے بُرا کیا بند کرنے۔ [مثیل] خیر خدا کی طرف سے ہے اور  
شر انسان کی طرف سے۔

اچھا لگنا۔ (معاورہ) بھلا معلوم دینا۔ پسند خاطر ہونا۔

اچھا ہوا۔ (معاورہ) (۱) خوب ہوا۔ (۲) (طنزاً) بُرا ہوا۔

اچھا ہونا۔ (۱) تندرست ہونا (۲) مرضی کے موافق ہونا (۳) خوش خلق ہونا۔

اچھا ہی اچھا ہے۔ (معاورہ) بہتر آرام ہے۔ چین ہی چین ہے۔

اچھوں کے اچھے ہی ہوتے ہیں۔ [مثیل] نیک لوگوں کی اولاد نیک ہی ہوتی ہے  
اچھے آئے۔ (معاورہ) (۱) خوب آئے خوب وقت پر آئے (۲) (طنزاً) واہ کیا کہنا۔

اچھے اچھوں۔ (۱) بڑے بڑوں (۲) نامی گرامیوں (۳) بڑے امیروں یا زور آوروں۔

اچھے اچھے۔ (معاورہ) بڑے آدمی۔ ذی علم۔ دولت مند۔ حسین۔ اہل کمال۔  
ہمدرد آدمی۔

اچھے بُرے میں چار انگل کا فرق ہے۔ [مثیل] اچھے کام کرنے میں بُرے کام  
کرنے سے کچھ زیادہ محنت نہیں کرنی پڑتی ہے۔

اچھے جی سے۔ (معاورہ) خوشی سے۔ رضا و رغبت کے ساتھ۔ بلا آراہ۔

اچھے حالوں گزرنہ۔ (معاورہ) آرام سے بسر ہونا۔

اچھے دام۔ (۱) مناسب معقول۔ اندازہ سے زیادہ قیمت۔

اچھے دل سے۔ خوشی اور رغبت سے۔ محبت اور خلوص سے۔

اچھے دن آنا۔ (معاورہ) خوش اقبال کے دن آنا۔ نصیب جاگنا۔

اچیل۔ (اچ۔ پیل) [ہ۔ صف] (۱) چیل۔ چیلہ۔ وہ شخص جو نچلا نہ رہے۔ شوخ۔ طرار  
(۲) تیز۔ چالاک (۳) مضطرب۔ بے قرار۔

اچیلہ۔ (اچ۔ پ۔ لا) [ہ۔ صف] شوخ۔ چیلہ۔ چیل۔

اچیلپن۔ شوخی۔ ناز۔ کرشمہ۔ چیلپن۔

اچیلہٹ۔ (اچ۔ پ۔ لا۔ ہٹ) [ہ۔ صفت] (۱) شوخی۔ طراری۔ چیلپن  
بے قراری۔ اضطراب۔

اچیل۔ (اچ۔ پ۔ لی) [ہ۔ صفت] شوخ۔

اچتی۔ (اچ۔ تی) [ق] بے خیالی سے۔ نادانستہ۔

اچٹانا۔ (اچ۔ ٹا۔ نا) [ہ۔ مص] (۱) انگ کرنا۔ بھینرنا۔ نوجا (۲) چھڑا  
کرنا۔ پھینکنا۔ بزار کرنا۔ بچدہ کرنا (۳) بھڑکانا۔ بدکانہ (۴) اچھانا۔ کسی کے  
ربط میں فرق ڈالنا۔ بھکا کر ڈھکنا۔ اچھڑ دینا۔ نشانے پر نہ لگنے دینا (۶)  
اڑانا۔ دور کرنا (۷) متفرق کرنا۔

اچٹنا۔ (اچٹ۔ ٹا) [ہ۔ صف] اُدھورا۔ نام نام۔ سرسری۔ نشانے پر نہ بیٹھنے والا۔  
اچٹا سا۔ اُدھورا سا۔ نشانے پر نہ لگتا ہوا۔

اچٹا ہوا۔ اُدھورا۔ سرسری۔ جیسا چاہتے ویسا نہ ہو۔

اچٹی ہوتی باتیں۔ (معاورہ) سرسری باتیں۔ دل کو نہ لگنے والی باتیں۔

اچٹ جانا۔ (معاورہ) (اچٹ۔ جانا) [ہ۔ مص] اپنی جگہ سے ہٹ جانا۔ اچھل  
جانا۔ بچ جانا۔ بدگ جانا۔

اچٹ کر پڑنا۔ (اچٹ۔ کر۔ پڑنا) پلٹ کر لگنا۔ الٹی آ لگنا۔

اچٹنا۔ (اچٹ۔ نا) [ہ۔ مص] (۱) جھمی ہوئی چیز کا اکھڑنا (۲) بھڑکانا۔ بدکانہ (۳)  
ہلٹنا۔ برداشتہ خاطر ہونا (۴) پورا ہاتھ نہ پڑنا۔ (۶) نشانے پر نہ لگنا۔ وار  
خالی جانا۔ بھر پور وار نہ پڑنا (۷) غائب ہونا (۸) بھڑکانا۔ اکھڑنا۔

اچرج۔ (اچ۔ رج) [ہ۔ صفت] (۱) تعجب۔ حیرت۔ انوکھا۔

اچک۔ (اچک۔ چک) [ہ۔ صفت] (۱) اُبھار۔ بلندی (۲) جت۔ پھلانگ۔  
اچک پھاند۔ کود پھاند۔ جت۔

اچک جانا۔ (۱) کود جانا۔ پھاند جانا (۲) نشانہ خطا کر جانا۔

اچک لے جانا۔ اڑا لے جانا۔ چھین کر لے جانا۔

اچک لینا۔ اڑا لینا۔ چھین لینا۔

اچکا۔ (اچک۔ کا) [ہ۔ صفت] ڈور پھینکنے کی چوخی۔ مچکا۔

اچکا۔ (اچک۔ کا) [ہ۔ صف] (۱) اچک کر چیر لے بھگنے والا آدمی (۲) بد معاش  
لہجہ۔ اٹھائی گرا۔ چور۔

اچکاپن۔ بد معاشی۔ چوری۔ چوہنی۔

اچکا ہوا۔ (اچک۔ کا۔ ہوا) [ہ۔ صف] (۱) پر زور (۲) بلند عالی

اچکن۔ (اچک۔ کن) [ہ۔ صفت] ایک قسم کا مردانہ پہناؤ۔ کوٹ کی ایک شکل شیرانی۔

اچکن۔ (اچک۔ کن) [ہ۔ صفت] اینٹ پتھر وغیرہ کا وہ کڑ جسے نیچے سے کسی چیز کو اڑنا کرتے ہیں۔

اچکنا۔ (اچک۔ نا) [ہ۔ مص] (۱) اچھٹنا۔ کودنا۔ (۲) پکنا۔ بھیننا (۳) لے اڑنا۔ لے

اچکنا۔ (۳) اُپر سے اُپر لے لینا۔ (۵) اڑنا۔ بلند ہونا۔ دوڑنا۔ بھاگنا۔

اچک ہوتی تقدیر خوش قسمت۔ بلند تقدیر۔

اچل۔ (اچل۔ چل) [ہ۔ صف] ٹھہرا ہوا۔ جو اپنی جگہ سے نہ چل سکے۔

اچنیا۔ اچنیا۔ (اچن۔ یا) [ہ۔ صفت] (۱) جم۔ بھا۔ (۲) حیرت۔ تعجب۔ حیرانی۔







(Protest) مخالفانہ آواز اٹھانا۔ اظہارِ ناپسندیدگی کرنا۔

احتداد - (ع۔ مذ) حدت کی شدت۔ گرمی کی زیادتی۔  
 احتراز - (ا۔ ح۔ بت۔ راز) [ع۔ ۱۔ ۱۔ مذ] پرہیز۔ کنارہ کشی۔ بچاؤ۔ علیحدگی۔  
 احتراق - (ا۔ ح۔ ت۔ راق) [ع۔ ۱۔ ۱۔ مذ] (۱) گرمی کی شدت (۲) جلن۔ سوزش  
 جل جانے کی کیفیت (۳) بخوم کسی ستارے کا آفتاب کے ساتھ ایک برج  
 میں ہونے کے سبب اُس کی شعاعوں میں چھپ جانا۔

احترام - (ا۔ ح۔ ت۔ رام) [ع۔ ۱۔ ۱۔ مذ] حرمت۔ عزت۔ توقیر۔ اُدبگت۔  
 احتساب - (ا۔ ح۔ ت۔ ساب) [ع۔ ۱۔ ۱۔ مذ] حساب۔ جانچ۔ پڑتال۔ آزمائش۔  
 احتشام - (ا۔ ح۔ ت۔ شام) [ع۔ ۱۔ ۱۔ مذ] شان و شوکت۔ دبدبہ۔ لاؤشکر۔  
 احتضار - (ا۔ ح۔ ت۔ ضار) [ع۔ ۱۔ ۱۔ مذ] (۱) حاضر آنا (۲) موت کا آنا۔  
 احتفاظ - (ا۔ ح۔ ت۔ ظا۔ ظ) [ع۔ ۱۔ ۱۔ مذ] لذت اٹھانا۔ مزہ پانا۔  
 احتقار - (ع۔ مذ) حقیر جانا۔ تعارف۔

احتکار - (ا۔ ح۔ ت۔ کار) [ع۔ ۱۔ ۱۔ مذ] ناجائز ذخیرہ اندوزی۔ اجناس بازاری  
 کو ذخیرہ کرنا۔ انگ۔ (Hoarding)

احتمال - (ا۔ ح۔ ت۔ لام) [ع۔ ۱۔ ۱۔ مذ] خواب میں ناپاک ہونا۔ خواب میں  
 جماع کرنا۔ بدخوابی۔

احتمال - (ا۔ ح۔ ت۔ مال) [ع۔ ۱۔ ۱۔ مذ] شک و شبہ۔ دمج۔ گمان۔ جمع۔ احتمالات۔  
 احتمالی قانونی۔ قانون کی رو سے کوئی گمان یا قیاس۔

احتیاج - (ا۔ ح۔ ت۔ یاج) [ع۔ ۱۔ ۱۔ مذ] حاجت۔ ضرورت۔ خواہش۔ چاہنا۔  
 احتیاج برآنا۔ مطلب نکلنا۔ ضرورت رفع کرنا۔

احتیاج رکھنا۔ کسی چیز کی حاجت رکھنا۔ ضرورت ہونا۔

احتیاج لانا۔ کسی بات کی درخواست کرنا

احتیاط - (ا۔ ح۔ ت۔ یاط) [ع۔ ۱۔ ۱۔ مذ] (۱) بچاؤ (۲) ہوشیاری۔ چوکسی

(۳) دوراندیشی (۴) توجہ۔ محوم (۵) روک تھام۔ ضبط (۶) بصیرت  
 عاقبت اندیشی (۷) شیطان سے بچنا۔ حفاظت۔

احتیاط برتنا۔ (معاورہ) احتیاط سے کام لینا۔ دوراندیشی سے کام لینا۔

احتیاط رکھنا۔ (معاورہ) دیکھ بھال کرنا۔

احتیاطاً - (ا۔ ح۔ ت۔ یاطن) [ع۔ ۱۔ ۱۔ مذ] احتیاط کے طور پر۔ خبرداری سے۔  
 ہوشیاری سے۔ دیکھنا۔ اندیشی سے۔

احجاز - (ا۔ ح۔ جاز) [ع۔ ۱۔ ۱۔ مذ] حجر کی جمع۔ پتھر۔

أحد - (أ۔ ح۔ د) [ع۔ ۱۔ ۱۔ مذ] ایک۔ اکیلا۔ بیگانہ۔ لاشریک (۲) خدا تعالیٰ  
 کا صفاتی نام۔ جمع : احاد

أحد - (أ۔ ح۔ د) [ع۔ ۱۔ ۱۔ مذ] مدینہ منورہ کے قریب ایک پہاڑ جہاں آنحضرت  
 صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور کفار مکہ میں جنگ ہوئی تھی۔

احداث - (ا۔ ح۔ دات) [ع۔ ۱۔ ۱۔ مذ] نئی بات نکالنا۔

أحدی - (أ۔ ح۔ دی) [ع۔ ۱۔ ۱۔ مذ] (۱) یکتا (۲) جلال الدین اکبر کے وہ ملازم جو  
 مالگذاری وصول کرنے کا کام کرتے تھے۔ (۳) [صف] سست۔

کابل۔ جمع : أحدیان

أحدی سبیل۔ ٹھس۔ مٹھا۔ بہت ہی سست۔ کابلوں کا کابل۔

أحدیت - (أ۔ ح۔ دی۔ یت) [ع۔ ۱۔ ۱۔ مذ] ایک ہونا۔ یکتائی۔

أحرار - (أ۔ ح۔ رار) [ع۔ ۱۔ ۱۔ مذ] حر کی جمع۔ آزاد لوگ۔

أحرار - (ا۔ ح۔ رار) [ع۔ ۱۔ ۱۔ مذ] محفوظ رکھنا۔ بچائے رکھنا۔ نگاہ رکھنا۔

أحراق - (ا۔ ح۔ راق) [ع۔ ۱۔ ۱۔ مذ] جلانا۔ جلنا

أحرام - (ا۔ ح۔ رام) [ع۔ ۱۔ ۱۔ مذ] حج یا عمرہ کرنے والوں کے لیے مقررہ

جگہوں سے چند جائز باتوں کا اپنے اُدب حرام کر لینا (۲) بدن ڈھانکنے

کے لیے دو بے سلی چادریں استعمال کرنا۔ مطلقاً سفر کا ارادہ۔ تصدیت۔

أحرام باندھنا۔ حرم میں جانے کی شرطیں بجالانا۔ خانہ کعبہ کے قریب پہنچ کر

بعض حلال اور مباح چیزوں کو اپنے اُدب حرام کر لینا۔ بے سلاکیڑا پہننا۔

أحزاب - (ا۔ ح۔ زاب) [ع۔ ۱۔ ۱۔ مذ] حزب کی جمع (۱) گروہ جماعتیں (۲) فوجیں

أحزان - (ا۔ ح۔ زان) [ع۔ ۱۔ ۱۔ مذ] حزن کی جمع۔ غم۔ اندوہ۔ رنج۔

أحزوم - (ا۔ ح۔ زم) بہت دور اندیشی۔ نہایت محتاط۔ ہوشیار۔

أحساس - (ا۔ ح۔ ساس) [ع۔ ۱۔ ۱۔ مذ] حواس خمسہ میں سے کسی حس کے ذریعے

کچھ معلوم کرنا۔

أحساس برتری - (صف۔ مذ) (نفسیات) ایک مرض۔ اپنے آپ کو دوسروں سے بالاتر سمجھنا

أحساس کمتری - (نفسیات) ایک بیماری۔ اپنے آپ کو دوسروں سے کھٹیا سمجھنا

خود اعتمادی نہ ہونا۔

أحساس محرومی - (صف) ناکامی یا خاطر خواہ کامیابی نہ ہونے کے باعث پیدا

ہو جاتا ہے۔

أحسان - (ا۔ ح۔ سان) [ع۔ ۱۔ ۱۔ مذ] (۱) نیکی۔ اچھا سلوک۔ بھلائی مہربانی (۲)

برتاؤ (۳) اچھے سلوک کا اعتراف۔ ممنونیت (۴) عمل خیر۔

أحسان آنا۔ سلوک کے بدلے سلوک کرنا۔ بھلائی کا عوض دینا۔

أحسان اٹھانا۔ ممنون ہونا۔ احسان لینا۔ شکر گزار بننا۔ منت کش ہونا۔

أحسان جتانا۔ اپنی نیکی کا ذکر زبان پر لانا۔ اپنا سلوک یاد دلانا۔

أحسان (دھرنا) رکھنا۔ ممنون بنانا۔ شکر گزار بنانا۔

أحسان بسر پر ہونا۔ مہربانی کا بار ہونا۔

أحسان عظیم۔ بہت بڑا احسان۔

أحسان فراموش۔ احسان بھلا دینے والا۔

أحسان کا عوض احسان ہے (مثل) نیکی کا بدلہ نیکی ہے۔

أحسان کرنا۔ سلوک کرنا۔ بھلائی یا نیکی کرنا۔

أحسان کھینچنا۔ احسان لینا۔

أحسان گردن سے اُتارنا۔ احسان کا بدلہ دے دینا۔

أحسان لیجئے جہاں کا نہ احسان لیجئے شاہ جہاں کا۔ [مثل] دُنیا بھر کا

أحسان اٹھالینا چاہیے مگر کسی دولت مند کا یا امیر رشتہ دار کا احسان

نہ اٹھانا چاہئے۔

أحسان لینا۔ احسان اٹھانا۔ شکر گزار بننا۔

أحسان ماننا۔ ممنون ہونا۔ شکر گزار ہونا۔

أحسان مند۔ ممنون بشکر گزار۔ احسان ماننے والا۔

أحسان مندی۔ احسان ماننا۔

أحسان ناشناس۔ احسان فراموش۔ جو احسان نہ مانے۔ ناشکر۔

أحسان ناشناسی۔ احسان فراموشی۔ احسان نہ ماننا۔



احسان ہے۔ شکر ہے۔ کرم ہے۔

احسانات - (اح۔ سنا۔ نات) [ع۔ ا۔ مذ] احسان کی جمع۔ مہربانیاں۔ نوازشیں  
 احسن - (اح۔ سن) [ع۔ صف] بہت اچھا۔ بہت نیک۔ بہت خوبصورت۔  
 احسن تقویم - عمدہ طور سے درست کرنا۔ سب سے اچھی صورت۔ مراد انسان۔  
 احسنت - (اح۔ سذت) [ع۔ ف۔ ا۔ مٹ] مرجا۔ آفرین۔ شاباش۔ واہ واہ۔  
 (عربی میں احسنت تھا جس کے معنی "تو نے بہت اچھا کیا" ہیں۔ فارسی اور  
 نے 'ت' ساکن کر کے شاباش وغیرہ کے معنی میں استعمال کیا ہے)  
 احسنت کہنا - (کلمہ تحسین) تعریف کرنا۔ تحسین و آفرین کرنا۔ مرجا کہنا۔ شاباشی دینا۔  
 احشاشا - (اح۔ شا) [ع۔ ف۔ ا۔ مذ] حشو کی جمع۔ جو کچھ معدے اور انٹریوں کے اندر ہو۔  
 احصا - (اح۔ صا) [ع۔ ا۔ مذ] گننا۔ شمار کرنا۔ ضبط کرنا۔  
 احصار (اح۔ صا) [ع۔ ا۔ مذ] گھیرنا۔ حصار میں لانا۔  
 احضار - (اح۔ ضار) [ع۔ ا۔ مذ] (۱) حاضر کرنا۔ بلانا۔ لانا۔ موجود کر دینا (۲)  
 طلبی کا حکنامہ۔

احضار بالجبر۔ جبر سے حاضر کرنا۔ بالجبر طلب کرنا۔

احظاظ - (اح۔ ظا۔ ظ) [ع۔ مذ] لطف اندوزی۔ لذت یابی (۲) مزہ۔ حظ  
 احقاد - (اح۔ قاد) [ع۔ ا۔ مذ] حاند کی جمع۔ پونے نو اسے وغیرہ۔

أحق - (أحق) [ع۔ صف] زیادہ حق دار۔

احقاق - (اح۔ قاق) [ع۔ ا۔ مذ] کسی کا حق قائم یا ثابت کرنا۔ قائم کرنا۔ ثبوت دینا۔  
 احقاف (ع۔ مذ) حقف کی جمع۔ ریت کے ٹیلے جو دوزخ تک پھیلے ہوں۔  
 احقر - (اح۔ قر) [ع۔ صف] زیادہ حقیر۔ نہایت ذلیل۔ فدوی۔ بندہ (بعض لوگ  
 انکسار سے اپنی بابت یہ لفظ استعمال کرتے ہیں۔ جمع: احقران  
 احقر العباد۔ سب بندوں سے زیادہ حقیر یا چیز (عموماً انکسار کے طور پر منظم  
 اپنے لیے استعمال کرتا ہے)

أحكام - (أحکام) [ع۔ ا۔ مذ] حکم کی جمع۔ ارشادات۔ فرامین۔ حکمنے۔  
 احکام درمیانی۔ ضمنی یعنی بیچ کے احکام۔ اخیر فیصلے سے پہلے کے احکام۔  
 احکام مستزاد۔ مزید احکام۔ غیر ضروری احکام۔  
 احکام ناطق۔ قطعی اور یقینی احکام۔

أحكام - (أحکام) [ع۔ صف] (۱) بہت مضبوط۔ بڑا حاکم۔  
 احکم الحاکمین۔ سب حاکموں سے بڑا حاکم۔ حاکموں کا حاکم۔ خدا تعالیٰ۔

أحوال - (أحوال) [ع۔ ا۔ مذ] بوجھا ٹھانا۔ عمل کی جگہ  
 أحمد - (أحمد) [ع۔ صف] بہت تعریف اور حمد و ثنا کرنے والا۔ آنحضرت  
 صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم مبارک۔  
 أحمد ثانی - امام حسین کے صاحبزادے علی اکبر کا لقب۔ کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ  
 علیہ وسلم کے مشابہ تھے۔

أحمد کی بگڑی محمود کے سر۔ [ایشل] ایک سے لے کر دوسرے کا پورا کرنا۔ کسی  
 مواخذہ کسی اور سے کرنا۔ حق تلفی۔ نا انصافی۔

أحمد کی دارھی بڑی یا محمود کی۔ [ایشل] حصول باتیں۔ بیکار بحث۔  
 أحمدی - (أحمدی) [ع۔ صف] (۱) مرزا غلام احمد قادیانی کے پیروکار  
 (۲) سونے کا ایک سکہ جو سلطان ٹیپو کے زمانے میں جاری ہوا (۳)  
 احمد شاہ کاسکے جو اس نے دہلی میں جاری کیا۔

أحمر - (أحمر) [ع۔ صف] بہت سُرخ۔ لال  
 احمرین - (ع۔ صف) سُرخ رنگ رکھنے والا۔ سُرخ رنگ کا۔  
 أحمق - (أحمق) [ع۔ صف] مورکھ۔ بیوقوف۔ نادان۔ نا سمجھ۔ جمع: احمقان  
 احمق الذی۔ بہت بیوقوف آدمی۔ بڑا نادان۔ حماقت سے بھرا ہوا۔  
 احمق الناس۔ انسانوں میں سب سے زیادہ بیوقوف۔ بے وقوف آدمی۔  
 احمق بنانا۔ کسی کو بیوقوف بنانا۔ دھوکا دینا۔ فریب دینا۔ چالاک کرنا۔  
 احمقین۔ احمق پینا۔ بے وقوفی۔ نادانی۔ حماقت۔

أحناف - (أحناف) [ع۔ ا۔ مذ] حنفی کی جمع۔ امام ابوحنیفہ کے پیرو۔  
 أحوال - (أحوال) [ع۔ ا۔ مذ] حال کی جمع کیفیتیں۔ حالات۔ بیان عمر گزار  
 (۲) حال چال۔ خیر خیریت (اردو میں واحد بھی استعمال ہوتا ہے)  
 احوال پرسی۔ حال پوچھنا۔ خیر و عافیت دریافت کرنا۔

أحوال - (أحوال) [ع۔ صف] بھینگا جس کو ایک کے دو نظر آئیں۔  
 أحمیاء - (ع۔ مذ) جیتی کی جمع (۱) زندہ لوگ (۲) قبیلے خانوادے۔

أحمیاء - (أحمیاء) [ع۔ ا۔ مذ] (۱) زندہ کرنا۔ جان ڈالنا (۲) کسی چیز کا  
 دوبارہ راج کرنے کی کوشش کرنا۔

أحياء العلوم - (أحياء العلوم) [ع۔ ا۔ مذ] (۱) علوم کو زندہ کرنا (۲) حضرت امام غزالی کی مشہور تصنیف۔  
 أحياء - (أحياء) [ع۔ ا۔ مذ] (۱) جی کی جمع (۲) زندہ لوگ۔  
 (۳) قبیلے۔

أحيان - (أحيان) [ع۔ ا۔ مذ] عین کی جمع۔ زمانے۔ اوقات۔  
 أحياناً - (أحياناً) [ع۔ ا۔ مذ] (۱) اتفاقاً۔ اتفاق سے (۲) شاید  
 کبھی۔ بھولے سے۔ کسی وقت۔

## خ-۱

أخ - (أخ) [ع۔ ا۔ مذ] بھائی بھادر۔ جمع: اخوان  
 أخ - (أخ) [ع۔ صوت۔ مٹ] گلا صاف کرنے یا کھنکارنے کی آواز۔ نفرت  
 کا کلمہ۔ بھقو۔ لعنت (۳) (مجازاً) کف۔ تھوک۔

أخ بھقو - (أخ بھقو) [ع۔ صوت۔ مٹ] (۱) کھنکارنے کی آواز (۲) نفرت اور کراہت  
 کا اظہار (۳) لعنت ملامت۔ نفرت کرنے کی آواز۔

أخبار - (أخبار) [ع۔ ا۔ مذ] (۱) خبر کی جمع (۲) خبر کا کاغذ۔ پرچہ  
 ملک کا روزنامہ۔  
 اخبار کے فرشتے۔ کراماتیں۔

أخبار میں آنا۔ (۱) کسی بات کا حدیث شریف میں مذکور ہونا (۲) روزنامہ  
 میں لکھا ہونا۔

أخبار نکالنا۔ اخبار جاری کرنا۔ اخبار شائع کرنا۔  
 اخبار نویس۔ خبریں لکھنے والا۔ ایڈیٹر۔ نامہ نگار۔  
 اخبار نویس۔ صحافت۔ اخبار کا کام۔ ایڈیٹر۔

أخباری - (أخباری) [ع۔ ف۔ صف] (۱) اخبار سے متعلق (۲) غیر مقلد  
 أجبث - (أجبث) [ع۔ صف] سب سے بڑا جلیث۔



اختلال - (اِخ - ت - لال) [ع - ا - مذ] خلل ڈالنا۔ خلل پڑنا۔  
 اختلالِ حواس - حواس میں متور آنا۔ بدحواسی۔  
 اختناق - (اِخ - ت - نناق) [ع - مذ] دم گھٹنا۔ حلق میں درم ہو جانا۔ خناق۔  
 اختناقِ الرِّحم - (اِخ - نناق - رِحم) [ع - مذ] ایک درم جس سے بچہ دانی کا  
 منہ بند ہو جاتا ہے۔ ہسٹیریا۔  
 اختلاج - (اِخ - ت - لاج) [ع - مذ] [ا - مذ] کاٹھ کی دوپٹیاں جن کو کٹھنی  
 کا تماشہ دکھانے والے آپس میں لڑاتے ہیں۔  
 اختہ - (اِخ - تہ) [ف - صفت] (۱) وہ چوپایہ جس کے بیٹھے نکال دیے گئے ہوں  
 بدھیانہختی (۲) خواجہ سرا۔  
 اختہ بیگی - وہ شخص جس سے جانوروں کے اختہ کرنے کی خدمت لی جائے۔  
 اختی گھوڑی - [ا - مذ] [ا - مذ] بازاری لوگ بھتی کے طور پر اس عورت کو کہتے ہیں  
 جس کی چھاتیاں نہ ہوں۔ سینہ سپاٹ (عورت)  
 اختیار - (اِخ - ت - یار) [ع - ا - مذ] (۱) چھانٹنا۔ پسند کرنا (۲) قبول منظور  
 (۳) اجازت۔ روادار (۴) قابو۔ قدرت۔ قبضہ (۵) حکومت۔ خلافت  
 (۶) کسی معاملہ پر پورا اختیار (۷) اپنے ارادے سے کام کرنے کی قدرت  
 (۸) حق منصب۔ جمع : اختیارات۔  
 اختیار بدست مختار - [مثیل] حکومت حاکم کے ہاتھ ہے۔ صاحب اختیار  
 جو چاہے سو کرے۔  
 اختیار چلنا - (محاورہ) زور چلنا۔ تقابو ہونا۔  
 اختیار دینا - (محاورہ) اقتدار دینا۔ مختار بنانا۔  
 اختیار رکھنا - قدرت رکھنا۔ طاقت رکھنا۔ حکومت حاصل ہونا۔  
 اختیار سماعت - مقدمہ سننے کا اختیار۔  
 اختیار سے باہر (جانا) ہونا - (۱) بے خود ہونا۔ آپ میں ہونا (۲)  
 امکان میں نہ ہونا۔ قابو میں نہ ہونا (۳) نافرمان ہو جانا۔  
 اختیار کرنا - (محاورہ) منظور کرنا۔ پسند کرنا۔ ماننا۔ گوارا کرنا۔  
 اختیار لینا لے لینا - (محاورہ) (۱) اجازت لینا۔ منظور لینا (۲) اجازت  
 یا منظوری واپس لے لینا۔  
 اختیار ملنا - (محاورہ) اجازت ملنا۔ قبضہ ملنا۔ قانونی اجازت لینا۔ حکومت ملنا۔  
 اختیار میں ہونا۔ قابو میں ہونا۔ پس میں ہونا۔ حکومت میں ہونا۔  
 اختیار رہے - (محاورہ) آپ مختار ہیں۔ آپ جانیں اور آپ کا کام جو چاہے  
 کیجیے۔  
 اختیارات - (اِخ - ت - یار) [ع - ا - مذ] اختیار کی جمع حکومت  
 زور۔ مداخلت۔  
 اختیارات ابتدائی - ابتدائی سماعت کے اختیار۔  
 اختیارات الفکاک رہن - گرو توڑنے کے اختیار۔  
 اختیاری - (اِخ - ت - یار) [ع - ا - مذ] (۱) پس کی (۲) قابو کی (۳)  
 امکان کی (۴) جس کا کرنا اپنی مرضی پر موقوف ہو۔ لازمی کی ضد۔ غیر ضروری۔  
 اخذ - (ع - ا - مذ) لے لینا۔ پکڑنا۔ اختیار کرنا۔ استفادہ۔ استیلاء (۲) سیکھنا یا  
 دیکھا دیکھی اختیار کرنے کا عمل۔  
 اخذ بالجبر - زبردستی لینا۔ بلا رضامندی لینا۔

اُخت - [ع - ا - مذ] بہن ہمیشہ۔ جمع : اخوات  
 اختتام - (اِخ - ت - تام) [ع - ا - مذ] خاتمہ۔ آخر۔ انجام۔  
 اختتام پر (آنا) پہنچنا۔ تمام ہونے کے قریب ہونا۔  
 اختتام کو پہنچنا۔ پورا ہو جانا۔ ختم ہو جانا۔  
 اختتامیہ - (ع - مذ) وہ مختصر مضمون جو آخر میں ہوتا ہے جس میں مندرجات کے  
 تمام پہلوؤں کی جانب اشارہ کر کے بات کو انجام تک پہنچایا جاتا ہے۔  
 اختر - (اِخ - تر) [ف - ا - مذ] تارا۔ ستارا۔ سیارہ۔ جمع : اختران۔  
 اختر ونبالہ دار - دم دار ستارہ۔  
 اختر سوختہ - جلا ہوا ستارہ۔ بُری تقدیر۔ منحوس نصیبہ۔  
 اختر شماری - تارے گنا۔ انتظار میں جاگنا۔ بے چینی سے جاگ کر رات کاٹنا۔  
 اختر شناس - ستاروں کی چال کا علم جاننے والا۔ نجومی۔ منجم۔  
 اختر چلنا - (محاورہ) نصیب جاگنا۔ دن پھرنا۔  
 اختراع - (اِخ - ت - راع) [ع - ا - مذ] (۱) نئی بات نکالنا۔ ایجاد کرنا۔ طبیعت  
 سے نئی بات پیدا کرنا (۲) ایجاد۔ جمع : اختراعات۔  
 اختر بخت - اختر بخترا - (اِخ - تر - بخت - راع) [ا - مذ]  
 اور ڈھنسا پھوننا۔ استرا بستر۔ بدھنا۔ بوریل۔ بزن بھانڈا۔  
 اختصار - (اِخ - ت - صار) [ع - مذ] کوتاہی۔ کمی۔ چھوٹا پن۔ خلاصہ۔ طوالت کی ضد  
 اختصار نویس - اشارات میں لکھنے والا۔ مختصر نویس۔  
 اختصار نویسی - (صفت - ممت) اشارات اور علامات میں لکھنے کا فن۔ (انگ)  
 اختصار نویسی (Short Hand Writing)  
 اختصاص - (اِخ - ت - صاص) [ع - ا - مذ] خاص کرنا۔ خصوصیت رکھنا۔  
 خاص ہونا۔ خصوصی مہارت رکھنا۔ کسی کام میں امتیاز و برتری۔ ماہر خصوصی۔  
 (انگ) (Specialization)  
 اختصاصی - (ع - صفت) کسی فن یا شعبہ میں خاص مہارت رکھنے والا۔ ماہر خصوصی  
 (انگ) (Specialist)  
 اختصام - (ع - مذ) مخالفت۔ دشمنی۔ فساد۔  
 اختلاج - (اِخ - ت - لاج) [ع - ا - مذ] پھڑکنا۔ دھڑکنا۔ بے چین ہونا۔ بے قرار  
 ہونا (عام طور پر دل کا دھڑکنا مراد ہے)  
 اختلاج قلب - ہول دلی۔ ایک مرض جس میں دل بہت زور زور سے  
 دھڑکتا ہے۔  
 اختلاط - (اِخ - ت - لاط) [ع - ا - مذ] (۱) ربط۔ ضبط۔ میل جول۔ پیار۔ اخلاص  
 میل ملاپ (۲) محبت کی گرجوشی۔ چھبڑ چھاڑ۔  
 اختلاط کی باتیں - پیار اور محبت کی باتیں۔  
 اختلاف - (اِخ - ت - لات) [ع - ا - مذ] (۱) ناموافقت کرنا۔ خلاف ہونا  
 (۲) فرق۔ تفاوت (۳) عداوت۔ بگاڑ۔ اُن بن۔ دشمنی۔ (۴) جند۔ مہٹ  
 تعصب۔ جمع : اختلافات۔  
 اختلاف بیانی - (صفت - ممت) جھوٹ۔ غلط بیانی۔ کذب۔  
 اختلاف رائے - رائے کی ناموافقت۔  
 اختلاف طبائع - طبیعتوں کی ناموافقت۔ طبیعتوں کا فرق۔  
 اختلافی - (ع - ف) وہ بات جس میں ایک سے زیادہ اقوال اور آراء ہوں۔



مُدن پر بحث کی جاتی ہے۔ علم الاخلاق۔ اخلاقیات۔  
 اخلاقی حسنہ۔ عمدہ عادتیں۔  
 اخلاق سوز۔ شرافت کے منافی کام۔ بے حیائی اور بے شرمی کی عادتیں۔  
 اخلاق فاضلہ۔ اچھی عادتیں۔  
 اخلاقی معاشرت۔ باہم مل جل کر رہنے سونے کے آداب۔  
 اخلاقیات۔ (اُخ۔ لاتیات) (ع۔ ا۔ مذ) اصول۔ اخلاق۔ علم الاخلاق  
 تعلیم و تربیت کا وہ شعبہ جس کے ذریعے اخلاق کی تربیت دی جاتی ہے  
 اخلاقیات۔ (اُخ۔ لاتی۔ تیت) (ع۔ صفت) معیار اخلاق۔ اخلاقی اصولوں  
 کا برتاؤ۔  
 اخنوخ۔ حضرت ادریس علیہ السلام کا نام۔  
 اخنی۔ (اُخ۔ نی) (ق۔ امت) [یعنی۔  
 اخنی پختی۔ (اُخ۔ نی۔ نغ۔ نی) (اُ۔ امت) ذلیل۔ بد وضع اور بد چلن عورت۔  
 اخوان۔ (اُخ۔ وان) (ع۔ ا۔ مذ) (بکسر اول) اخ کی جمع۔ بھائی۔ برادران۔  
 بھائی۔ (بفتح اول) اخ کا تشبیہ۔ دو بھائی۔  
 اخوان الشاطین۔ شیطان کے بھائی بند۔ بہت زیادہ شریر لوگ۔  
 اخوان الصفا۔ بھلے لوگ۔ اچھے لوگ۔ پاک دل لوگ۔ ابرار۔  
 اخوت (اُخوت) (ع۔ امت) برادری۔ بھائی بندی بھائی چارہ۔  
 اخی۔ (اُخ۔ ی) (ع۔ ا۔ مذ) میرا بھائی۔  
 اخیار (اُخ۔ یار) (ع۔ ا۔ مذ) خیر کی جمع۔ نیک لوگ۔ پارسا (۲) شہ سے بچنے والے لوگ  
 اخیانی۔ (اُخ۔ یانی) (ع۔ صفت) وہ بھائی بہن جن کے باپ انگ انگلڈ  
 ماں ایک ہو۔  
 اخیر۔ (اُخیر) (ع۔ صفت) پچھلا۔ آخر کا۔ آخری۔ تمام۔ انتہا۔ حد۔  
 اخیر کو۔ انجام کار  
 اخیر وقت۔ ہر چیز کے خاتمے کا وقت۔ بڑھاپے کا زمانہ (کنایت) نزع کا وقت۔  
 اخیر ہونا۔ (محاوہ) ختم ہونا۔ تمام ہونا۔

## ا۔ د

ادا۔ (ا۔ د) (ف۔ امت) (۱) اندازہ۔ ناز (۲) اشارہ۔ رمز (۳) قرینہ۔  
 اسلوب۔ روش (۴) طریقہ۔ ڈھنگ (۵) عادت (۶) اندازہ معشوقانہ  
 حسن کی دلکشی۔  
 ادا بند۔ اس سخن گو کو کہتے ہیں جو معشوق کی ادائیں کلام میں اس طرح باندھے  
 کہ آنکھوں میں تصویر کھینچ جائے۔  
 ادا بندی۔ معشوق کی ادائیں کلام میں باندھنا۔  
 ادا دکھانا۔ معشوقانہ انداز کے ساتھ ناز کرنا۔  
 ادا شناس۔ ادا فہم۔ ایسا اشارے یا قرینے سے عنیدہ پہچاننے والا۔  
 ادا کار۔ ڈرامے یا فلم میں کام کرنے والا۔ نقال۔ سوانگیا۔ ایکٹر۔ (۲) ڈرامے  
 میں کام کرنے والی عورت۔ ایکٹرس۔  
 ادا کارانہ۔ ادا کاری سے منسوب۔ ایکٹنگ سے متعلق۔  
 ادا کاری (۱) کسی کی نقل اتارنا۔ ڈرامے میں کام کرنا (۲) ایکٹنگ

اخذ کرنا۔ لینا۔ چننا۔ اختیار کرنا۔ بات میں سے بات نکالنا۔  
 آخری۔ (اُخ۔ را) (ع۔ امت) (۱) آخری۔ (۲) پھلی  
 اخراج۔ (ع۔ مذ) خرچ کی جمع۔ خرچ اخراجات۔  
 اخراج۔ (اُخ۔ راج) (ع۔ ا۔ مذ) (۱) نکاس (۲) خرچ۔ صرف (۳)  
 شہر بدر کرنا۔ باہر کرنا۔ انگ کرنا۔  
 اخراجات۔ (اُخ۔ راجات) (ع۔ ا۔ مذ) اخراج کی جمع۔ بہت سے خرچ  
 اخروٹ۔ (اُخ۔ روٹ) (ع۔ ا۔ مذ) ایک قسم کا میوہ  
 اخروی۔ (اُخ۔ روی) (ع۔ صفت) آخرت کی بابت۔ اگلے جہان کے متعلق۔  
 اخس۔ (اُخس) (ع۔ صفت) بڑا خیس۔ بڑا کنجوس۔  
 اخص۔ (اُخص) (ع۔ صفت) (۱) نہایت خصوصیت والا خاص۔ (۲)  
 نہایت اعلیٰ۔ نہایت افضل۔  
 اخضر۔ (اُخ۔ صر) (ع۔ صفت) ہرا۔ سبز۔  
 اخضری۔ (اُخ۔ صر۔ ری) (ع۔ صفت) ہرے رنگ کا۔ اخضر سے منسوب۔  
 اخفا۔ (اُخ۔ فا) (ع۔ ا۔ مذ) پوشیدہ کرنا۔ چھپانا۔  
 اخفاف۔ (اُخ۔ فاف) (ع۔ ا۔ مذ) ہلکا کرنا۔ سبک بار ہونا۔  
 اخفش۔ (اُخ۔ فش) (ع۔ صفت) (۱) چندھا (۲) ایک بہت بڑے نحوی ابو الحسن  
 سعید کا لقب۔ کمزور نظر والا۔  
 اخگر۔ (اُخ۔ گر) (ف۔ امت) چنگاری۔ انگارا۔ جمع : اخگراں۔ اخگرنا۔  
 اخلاص۔ (اُخ۔ لاص) (ع۔ ا۔ مذ) (۱) خلوص۔ خالص۔ پاک صاف (۲) عبت  
 بے بیا۔ طاعت خالص (۳) دوستی۔ محبت۔ پیار (۴) میل ملاپ۔ ربط ضبط  
 ارتباط (۵) قرآن مجید کی ایک سورت کا نام۔ (قل ہوائتہ۔)  
 اخلاص انگیز۔ خلوص والا۔ سچا مخلص۔  
 اخلاص پڑھانا۔ (محاوہ) آپس میں پیار و محبت کو بڑھانا۔ محبت میں اضافہ کرنا۔  
 اخلاص ہو کرنا۔ دوستی کرنا۔ ربط پیدا کرنا  
 اخلاص چارگانہ۔ (صفت۔ مذ) اکبر کے دین الہی میں شامل ہونے کی چار شرائط  
 ترک مال۔ ترک جان۔ ترک ناموس اور ترک دین۔  
 اخلاص رکھنا۔ محبت رکھنا۔ دوستی رکھنا۔ خلوص برتنا۔  
 اخلاص رہنا۔ محبت اور خصوصیت رہنا۔  
 اخلاص کرنا۔ دوستی کرنا۔ محبت کرنا۔ ربط حاصل کرنا۔  
 اخلاص مند۔ مخلص۔ دوست۔ خیر خواہ۔ بار صادق۔  
 اخلاص مندی۔ خیر خواہی کے ساتھ دوستی۔ خلوص۔  
 اخلاط۔ (اُخ۔ لاط) (ع۔ ا۔ مذ) (طب) خلط کی جمع۔ چاروں خلطیں یعنی سٹوا  
 صفرا۔ بلغم۔ خون۔  
 اخلاط اربعہ (طب) چار خلطیں یعنی صفرا۔ خون۔ بلغم۔ سودا۔  
 اخلاط فاسدہ۔ بگڑے ہوئے خلط۔  
 اخلاف۔ (اُخ۔ لاف) (ع۔ ا۔ مذ) خلف کی جمع (۱) پیچھے آنے والے  
 بعد میں آنے والے (۲) اولاد  
 اخلاق۔ (اُخ۔ لاق) (ع۔ ا۔ مذ) خلق کی جمع (۱) پسندیدہ عادتیں۔ اچھی  
 محصلتیں (۲) خوش خوی۔ اچھا برتاؤ۔ ملنساری۔ کشادہ پیشانی۔ خاطر  
 مدارات۔ آؤ بھگت۔ (۳) فلسفہ وہ علم جس میں تہذیب نفس اور سہا



اداسی چھانا۔ اداسی کی حالت طاری ہونا۔

ادام۔ (ع۔ مذ) شور یا۔ سالن

ادام۔ (ا۔ دام) [ع] ہمیشہ رکھے۔ ہمیشہ زندہ رکھے۔

ادام اللہ قیوم ضمہم۔ اللہ تعالیٰ ان کے فیض کو ہمیشہ رکھے۔

ادا ہٹ۔ (ا۔ ا۔ ہٹ) [ہ۔ امٹ] ادا پن۔ بیگنی رنگ۔

ادا بیگی۔ ادائی۔ (ادا۔ اے۔ گی۔ ا۔ دلہ ای) [ا۔ امٹ] رقم محصول

یا لگان وغیرہ کا ادا ہونا۔

ادب۔ (ا۔ د۔ ب) [ع۔ ا۔ مذ] (۱) ہر چیز کی حد کو نگاہ رکھنا (۲) حفظ مراتب

کسی بزرگی یا عظمت کا پاس۔ (۳) تہذیب۔ شائستگی۔ تمیز۔ احترام۔

(۴) علم زبان جس میں نحو۔ لغت۔ عروض۔ انشاء معانی اور بیان وغیرہ

داخل ہیں (۵) پسندیدہ طریقہ (۶) زبان کا سرمایہ (لٹریچر) جمع :

آداب۔

ادب آداب۔ تہذیب۔ احترام۔ شائستگی۔ تمیز۔ لحاظ۔ حفظ مراتب۔

معاشرہ کے پسندیدہ طریقے۔

ادب آموز۔ (۱) ادب سکھانے والا (۲) وہ شخص جو ادب سیکھے ہو ہو

تعلیم و تربیت دینے والا۔

ادب آموزی۔ ادب سکھانا۔ تعلیم دینا۔

ادب برائے ادب۔ ادب کا بجائے خود کوئی مقصود نہ ہو (۲) کلام میں

محاسن معنوی و لفظی پیدا کر کے لطف اندوز ہونا۔

ادب برائے زندگی۔ ادب میں زندگی کی عکاسی اور ہر شعبہ زندگی کے

متعلق سماجی تقاضوں کے مطابق بحث کرنا۔

ادب پارہ۔ (صف۔ مذ) ادبی قدر و قیمت رکھنے والی نظم یا نثر۔

ادب (پانا) پکڑنا۔ ادب سیکھنا۔ تہذیب اختیار کرنا۔

ادب دینا (سکھانا)۔ تہذیب کی تعلیم دینا۔ شائستگی سکھانا۔

ادب سیکھنا۔ تمیز حاصل کرنا۔

ادب کرنا۔ لحاظ کرنا۔ پاس کرنا۔ حفظ مراتب کا خیال کرنا۔

ادبیا۔ (ا۔ د۔ یا) [ع۔ ا۔ مذ] ادیب کی جمع (۱) ادب سکھانے والے (۲)

نشا پرداز لوگ۔ شعرا۔ نثر۔

ادبیا۔ تعظیم و احترام سے۔ پاس مراتب سے۔

ادب بار۔ (اد۔ بار) [ع۔ ا۔ مذ] (۱) پیٹھ دکھانا (۲) دولت کا منہ موڑنا (۳)

بذیبتی۔ بد اقبالی (۴) نحوست۔ دولت (۵) ہزیمت۔ شکست (۶) تنزل

افلاس۔ مفلسی۔ ناداری۔ نلاکت۔

ادبدا (کر) کے۔ (ا۔ د۔ ب۔ د۔ کر) کے (۵۔ تابع فعل) (۱) خواہ مخواہ ضرور

(۲) ضد سے۔ شرارت سے (۳) جان بوجھ کے۔ دانستہ۔

ادبدا کے کرنا۔ جان بوجھ کر کرنا۔ ضد سے کرنا۔

ادبئی۔ (ا۔ د۔ بی) [ع۔ صف] ادب سے منسوب۔ ادب سے متعلق۔

ادبیا۔ (ع۔ امٹ) لٹریچر۔ نظم و نثر (۲) لٹریچر سے متعلق رکھنے والے

علوم یا مسائل۔

ادبیت۔ (ا۔ د۔ بی۔ بیت) [ع۔ ا۔ امٹ] (۱) ادب پن۔ تمیز۔ تہذیب۔

زبان دانی (۲) ادبی شان۔ ادب کا حسن۔

ادا کرنا۔ (معاورہ) ناز و انداز کرنا۔

ادا نکالنا۔ (معاورہ) ناز و انداز ایجا کرنا۔

ادا نکلتا۔ (معاورہ) معشوقانہ شان پیدا کرنا۔ بانگین پیدا ہونا۔

ادا۔ (ا۔ ا۔ ا) [ع۔ ا۔ امٹ] (۱) پورا کرنا (۲) بیباق (۳) دینا۔ اتارنا (۴)

بیان۔

ادا شدہ حصے۔ کسی لمبید کمپنی کے وہ حصے جن کی رقم ادا کر دی گئی ہو۔

ادا شدہ سرمایہ۔ کسی لمبید کمپنی کے اعلان شدہ سرمائے کا وہ حصہ جو

جمع ہو چکا ہو۔

ادا کرنا۔ (۱) بے باقی کرنا۔ چکانا (۲) بجالانا (۳) عمل میں لانا (۴) لکھنا

(۵) کہنا (۶) بھاؤ بنانا (۷) قاعدے سے گانا (۸) پڑھنا (۹) ناعد

اور قرأت کے مطابق پڑھنا (۱۰) معشوقانہ حرکات کرنا (فقہ)

مقررہ وقت پر عبادت کرنا۔

ادا کنندہ۔ رقم یا محصول ادا کرنے والا

اولئے ذہن۔ قرض کی ادائیگی

اولئے شہادت۔ گواہی دینا۔

اولئے لگان۔ لگان ادا کرنا۔

اولئے مال گزاری۔ لگان ادا کرنا۔

ادارات۔ (ا۔ د۔ رات) [ع۔ ا۔ مذ] ادارہ کی جمع۔ بہت سے ادارے۔

ادارات قانونی۔ کسی قانون کے تحت قائم کی ہوئی مجلسیں۔

ادارت۔ (ا۔ د۔ رت) [ع۔ ا۔ امٹ] (۱) ایڈیٹری۔ جریدہ نگاری (۲)

رسالہ۔ اخبار۔ کتاب وغیرہ مرتب کرنا۔

ادارہ۔ (ادارہ) (۱) دفتر۔ محکمہ (۲) نظام ضبط۔ سرشتہ

ادارہ بلدیہ۔ دفتر میونسپل بورڈ۔ سٹی کارپوریشن۔

اداریہ۔ (ادارہ۔ ریہ) [ع۔ ا۔ مذ] اخبار کے ایڈیٹر کا اپنا خاص مضمون۔

مقالہ۔ افتتاحیہ۔ ایڈیٹریل۔ لیڈنگ آرٹیکل (ایگ) (Editorial)

اداس۔ (ا۔ داس) [ع۔ صف] (۱) معصوم۔ غمگین۔ رنجیدہ۔ سوگوار (۲) دیران

سونا (۳) بے رونق۔ پھیکا پھیکا۔

اداس کرنا۔ افسردہ کرنا۔ رنجیدہ کرنا۔

اداس ہونا۔ (۱) رنجیدہ اور غمگین ہونا (۲) بے رونق ہونا۔

اداسا۔ (ا۔ داسا) [ع۔ صف] (۱) آزاد فقرا اپنی اصطلاح میں

انہ سے بسترے اور اوڑھنے بچھونے کو کہتے ہیں (۲) تیار (۳)

اوڑھنا بچھونا۔

اداسا کسنا۔ سامان سفر باندھنا۔ بوری یا بستر باندھنا۔ ارادہ سفر کرنا۔

اداسا کھینچنا۔ ہر طرف سے قطع تعلق کر کے ایک طرف دھیان لگانا۔

یک سو ہونا۔

اداسی۔ (ا۔ داسی) [ع۔ امٹ] (۱) غم گینی (۲) دیرانی۔ بے رونق۔

(۳) فقیروں کا ایک فرقہ جو گوردوانک صاحب کے بیٹے کا پیرو ہے

(۴) فقیر۔ جوگی۔

اداسی برشنا۔ پریشانی ظاہر ہونا۔ بے رونق معلوم ہونا۔

اداسی پھیلنا۔ سناٹا ہو جانا۔ بے رونق ہو جانا۔



**اُدخال** - (اد-خال) (ع-ا-ند) (۱) داخل کرنا (۲) داخل کرنا۔ دُج جبر کرنا (۳) شامل کرنا۔ شریک کرنا۔  
**اوراز** - (او-راز) (ع-ا-ند) (۱) ہنا۔ جاری ہونا (۲) کھل کر پیشاب آنا۔  
**اوراک** - (او-راک) (ع-ا-ند) (۱) پانا۔ دریافت کرنا (۲) عقل۔ فہم۔ رسائی۔  
**اُدرسا** - (اُد-رسا) (ع-ا-ند) (۱) ایک قسم کا سفید اور باریک سوتی کپڑا جس کی بناوٹ میں جھرجھراپن ہوتا ہے۔  
**اُدِرک** - (اُد-رک) (ف-ا-مٹ) ایک قسم کی خوشبو دار جڑ جو خشک ہوجانے پر سونٹھ کھلاتی ہے۔  
**اُدِرک کا لچھا** - باریک کتری ہوتی اُدِرک۔  
**اُدِرکی** - (اُد-رکی) (اُر-امٹ) تازے گڑ میں اُدِرک ملی ہوئی دوا۔  
**اُدِرس** - (اُد-ریس) (ع-ا-ند) ایک مشہور پتھر کا نام۔  
**اُدِرگڈر** - (اُد-رگڈر) (اُد-رگڈر) (۱) وہ شخص جس نے پھٹے پڑانے کپڑے پہن رکھے ہوں۔  
**اُدِرگڈر سووے** - مر جا دوالا رووے۔ [مثل] غریب مزے سے سوتا ہے۔ امیر کو نیند نہیں آتی۔  
**اُدِعا** - (اد-دعا) (ع-ا-ند) دعویٰ کرنا۔ بے دلیل بات کہنا۔ اپنی طرف ایسی بات منسوب کرنا جو واقعی نہ ہو۔  
**اُدِعتے ملکیت** - مالک ہونے کا دعویٰ کرنا۔  
**اُدِعیہ** - (اُد-عیہ) (ع-ا-مٹ) دُعائی جمع۔ دُعائیں۔  
**اُدِعیہ ماثورہ** - وہ دُعائیں جو سرکارِ دود عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہیں۔  
**اُدِغام** - (اُد-غام) (ع-ا-ند) (۱) شامل کر دینا۔ ملا دینا (۲) ایک جنس کے دو حروف کو آپس میں ملا دینا (۳) ادب میں ایک صنف کا نام۔  
**اُدِق** - (اُد-ق) (ع-صف) نہایت باریک۔ نہایت مشکل۔ دُوبھر کھٹن۔  
**اُدِقچہ** - (اُد-قچہ) (ت-ا-ند) کارچوبی سفید حاشیے کی چادر جو بطور آرائش تو شک کے نیچے بچھائی جاتی ہے اور اس کے حاشیے دار کنارے باہر نکلے رہتے ہیں۔  
**اُدک** - (اُدک) (ق-صف) زیادہ۔ بُہت۔  
**اُدکدرا** - (اُد-کدرا) (ع-صف) نیم پختہ۔ کچا پکھا۔ آدھا کچا۔  
**اُدلا** - (اُدلا) (اُر-ا-ند) بڑے بڑے حلال جانوروں کی ٹانگ کا بے ریش گوشت (اصل عربی عضلہ)  
**اُدلا بدل** - (اُدلا-بدا-لا-ا-دل) (ع-ا-ند) عوض  
**اُدلہ** - (اُد-دل) (ع-امٹ) دلیل کی جمع۔ دلیلیں۔  
**اُدُم** - (اُد-دُم) (ع-ا-ند) محنت۔ کوشش۔  
**اُدُم سے وکد رگھٹے** - [مثل] محنت اور کوشش سے نحوست دور ہوتی ہے۔  
**اُدنی** - (اُدنی) (ع-صف) (۱) کمینہ چھوٹے درجہ کا۔ کم قدر۔ بیچ۔ اعلیٰ کی ضد۔ (۲) خبیث۔ خنثا (۳) فقیر۔ کنگال مفلس۔ بے دولت۔  
**اُدوار** - (اُدوار) (ع-ا-ند) دور کی جمع۔ گردنیں پکڑ (۲) زمانے عرصے۔ مدتیں۔  
**اُدوان** - (اُدوان) (اُدوان) (ع-ا-مٹ) وہ رسی جو چارپائی

کی پانٹی کی طرف اس کے کنارہ جینے کے لیے ڈالتے ہیں۔  
**اُدویہ** - (اُدویہ) (ع-امٹ) دوا کی جمع۔ دوائیں۔  
**اُدھ** - (ع-صف) آدھے کا محفف۔ نصف۔  
**اُدھ بھر** - نصف فاصلہ۔ درمیان کا حصہ۔ اُدھڑ۔ اُدھ بیچ۔  
**اُدھ بیچ** - درمیان۔  
**اُدھ پتی** - ایک سیر کے آٹھویں حصے کا تول۔ دو چھینکی۔ دس بھری۔ اُدھ پتا۔  
**اُدھ پورا**۔  
**اُدھ جل لگوری چھلکت** - [مثل] کم ظرف اور کمینہ آدمی تھوڑی سی عزت مل جانے پر اترانے لگتا ہے۔  
**اُدھ سیرا** - نصف سیر کا باٹ۔ دو پاؤ کا وزن۔  
**اُدھ کچا** - جو پوری طرح پکا ہوا نہ ہو۔ آدھا کچا ہو۔  
**اُدھ کچرا** - (۱) اُدھ اور جو پورا نہ ہو۔ کدڑھیل۔ آدھا کچا اُدھ کچا پھیل (۲) آدھا کٹا اور پسا ہوا۔ در در۔ اُدھ کٹا۔  
**اُدھ کجری** - اُدھ کجرا کی تانیٹ۔  
**اُدھ کچلا** - آدھا کٹا ہوا۔ نیم کوفتہ۔  
**اُدھ کھلا** - آدھا کھلا ہوا۔ نیم شکفتہ۔  
**اُدھ کھلا** - آدھا کھلا ہوا۔  
**اُدھ گلا** - جو پوری طرح گلانا ہو۔  
**اُدھ مرا** - اُدھ مٹوا۔ آدھا مٹا ہوا۔ نیم جان۔  
**اُدھا** - (اُدھا) (ع-صف) (۱) غیر معینہ مقدار کا۔ نصف (۲) [مثل] شراب کی آدھی بوتل (۳) لڑکوں میں کھیل کے وقت ایک قسم کی شرط جس میں وہ باہمی اترار کرتے ہیں کہ جب ایک دوسرے کو کوئی چیز کھاتے دیکھیں تو آدھی بانٹ لیں گے۔  
**اُدھنا** (۱-ا-ند) اُدھ یا دو پیسے کا سکہ جو اب متروک ہے۔  
**اُدھاسیسی** - آدھے سر کا درد۔ درد شقیقہ۔  
**اُدھار** - (اُدھار) (ع-ا-ند) (۱) خوراک۔ طعام۔ کھانا (۲) سہارا۔ آسرا۔ وسیلہ۔  
**اُدھار** - (اُدھار) (ع-ا-ند) قرض۔ نقد کی ضد۔  
**اُدھار ہویا پار** - قرض سے کاروبار کرنا۔  
**اُدھار پٹہ** - (Lend Lease) وہ تجارتی سمجھوتہ جس کے تحت امریکہ نے دوسری جنگ عظیم میں اتحادی طاقتوں کو مال اور سامان جنگ فراہم کیا اور معاوضے میں عارضی طور پر ان کے بعض علاقوں پر قبضہ کر لیا۔  
**اُدھار دیجئے دشمن کیجئے** - [مثل] قرض دینا دوست کو دشمن بنانا ہے۔  
**اُدھار دینا** - (معاورہ) قرض دینا۔  
**اُدھار کھاتا** - (معاورہ) وہ کتاب یا جبر جس میں واجب اللہ ارقم کا اندراج ہو۔  
**اُدھار کھانا** - (معاورہ) قرض کھانا۔ قرض لینا (۲) دشمن ہونا۔ در پئے ہونا۔  
**اُدھار کھانا پھوس** کا تاپنا برابر ہے۔ [مثل] اُدھار کی چیز میں برکت نہیں ہوتی ہے۔  
**اُدھار کھائے ہیں** - اُدھار کھائے ہوئے ہیں اُدھار کھائے بیٹھے ہیں  
**ہمہ تن مستعد بیٹھے ہیں** - در پئے ہیں۔



ادھر کی کیا ماں مری ہے۔ قرض ملنا مشکل نہیں ہے۔ کہیں نہ کہیں سے مل جائے گا۔

ادھار لینا۔ (معاورہ) قرض لینا۔

ادھار ہونا۔ (ہوجانا) قرض ہونا۔ قرض چڑھنا۔

ادھار مکٹ۔ (ا۔ دھار۔ مکٹ) [ہ۔ صف] (۱) لاندھب (۲) پانی بچے کام نہ لانا۔

ادھر۔ (ا۔ دھر) [ہ۔ صف] (۱) متعلق۔ وہ چیز جو کسی پر لگی ہوئی نہ ہو۔ زمین سے الگ۔ (۲) ادھینج بے سہارا۔

ادھر اٹھالینا۔ (معاورہ) بے لاگ اٹھالینا۔ زمین سے اونچا کر لینا۔

ادھر کر لینا۔ متعلق کر لینا۔

ادھر میں بڑے ہیں۔ (معاورہ) بیچ میں لٹکے ہیں۔ کسی طرف کے نہیں۔

تختوں نہیں ہے۔

ادھر میں چھوڑنا۔ (معاورہ) ادھ بیچ میں چھوڑنا۔ ادھر کار کھنا نہ ادھر کا بے سہارے چھوڑ دینا۔

ادھر میں لٹکنا۔ (معاورہ) یک سوئی کی حالت نہ ہونا۔ نہ مرنا نہ جینا۔ بیچ میں لٹکا ہوا ہونا۔

ادھر۔ (ا۔ دھر) [ہ۔ صف] اس جانب۔ اس طرف۔ ورے قریب۔ پاس۔ نزدیک۔

ادھر ادھر۔ جہاں نہاں۔ ایسی دہلی جگہ۔ یہاں دیاں۔ اس پاس۔

ادھر آیا ادھر گیا۔ (معاورہ) ہتھوڑی دیر پھرنے۔ ذرا قیام کرنا۔ آتے ہی چلے جانا۔ خرچ ہو جانا۔

ادھر ادھر کی باتیں۔ لغو اور بے ہودہ باتیں معمولی باتیں۔

ادھر سے ادھر کرنا۔ (۱) کسی چیز کو غائب کر دینا۔ چرا لینا (۲) ایک جگہ سے اٹھا کر دوسری جگہ رکھ دینا۔ بے ٹھکانے کر دینا۔ بے ترتیب کر دینا۔

ادھر سے ادھر ہونا۔ (۱) کسی چیز کا بے موقع یا بے ٹھکانے ہو جانا۔ سرک جانا (۲) پلٹ جانا۔ غائب ہو جانا۔

ادھر قبیلہ ادھر قبیلہ، خدیجہ سوئے کدھر۔ [مثلاً] کوئی بات کرتے نہیں بنتی۔ یوں بھی مشکل دوں بھی مشکل۔

ادھر کا نہ ادھر کا۔ (معاورہ) کسی شمار میں نہیں کسی کی طرف نہیں۔

ادھر کی ادھر کرنا۔ (معاورہ) چنگلی کرنا۔ لگائی بھجائی کرنا۔

ادھر کٹے ادھر (الٹ) پلٹ جائے۔ [مثلاً] آپ ہی ستائے اور آپ ہی مکر جائے۔ تکلیف پہنچائے اور کانوں پر ہاتھ رکھنے لگے۔

ادھر کنواں ادھر گھائی۔ [مثلاً] ہر طرح نقصان۔ ہر صورت میں مشکل۔ کچھ کرتے بن نہیں پڑتی۔

ادھر کی دنیا ادھر ہونا (ہوجانا) (معاورہ) انقلاب عظیم ہونا۔ دنیا پلٹ جانا۔

ادھر کی نہ ادھر کی یہ بلا کدھر کی۔ [مثلاً] اس شخص کے متعلق کہتے ہیں جو کسی قابل نہ ہو۔

ادھر کے نہ ادھر کے۔ (معاورہ) دین کے نہ دنیا کے۔ دوست کے نہ دشمن کے۔ مردودِ خلاق۔

ادھر ہاتھ (دینا) لانا۔ (معاورہ) جب کسی بات کی داد لینی منظور ہوتی ہے تو خوشی کا اظہار کرنے کے لئے مصافحہ کرتے وقت کہتے ہیں۔

ادھر ہونا یا ادھر ہونا۔ (۱) ایک طرف ہوجانا۔ کسی ایک کی طرف داری کرنا۔ (۲) مرجانا یا جی جانا۔

ادھر۔ (ا۔ دھر) [ہ۔ صف] اس طرف۔ اس جانب۔ پرے۔

ادھر سے۔ (۱) اس طرف سے۔ اُن کی جانب سے (۲) غیب سے۔ خدا کی طرف سے۔

ادھراج۔ ادھیراج۔ (ا۔ دھ۔ راج۔ آ۔ دھ۔ ہی۔ راج) [س۔ ا۔ مذ] ہمارا جہ پکرو رتی راجہ۔ بادشاہ۔ شہنشاہ۔

ادھرم۔ (ا۔ دھرم) [ہ۔ صف] (۱) پاپ۔ ظلم۔ بُرا کام۔

ادھرتنا۔ (ا۔ دھرتنا) [ہ۔ صف] (۱) سیون کھنا۔ ٹانگہ لکھنا (۲) کھل جانا۔ (۳) کھال اڑنا (۴) تباہ اور زیر بار ہونا (۵) چھت یا پوشش کھنا۔ الگ ہونا۔ بہت مار کھانا۔

ادھک۔ (ا۔ دھک) [ہ۔ صف] (۱) بہت زیادہ (۲) سوا۔ فالٹو۔

ادھکار۔ (ا۔ دھکار) [س۔ ا۔ مذ] قبضہ۔ اختیار (۲) ورثہ ترکہ۔ مکان۔

ادھکاری۔ (ا۔ دھکار۔ ی) حتی دار۔ مستحسن۔

ادھل جانا۔ (ا۔ دھل۔ جانا) [ہ۔ صف] (۱) آوارہ اور خراب ہوجانا۔ جوشِ مستی میں آپسے باہر ہوجانا (۲) عورت کا غیر مرد کے ساتھ بھاگ جانا۔

ادھم۔ (ا۔ دھم) [ہ۔ صف] (۱) مشکلی کھوڑا۔ سیاہ رنگ کا کھوڑا (۲) بیخ کے ایک مشہور بادشاہ کا لقب جو تختِ سلطنت چھوڑ کر فقیر بن گئے تھے۔ ابراہیم ادھم۔

ادھم۔ (ادھ۔ دھم) [ہ۔ صف] (۱) آشوروغل۔ ہنگامہ۔ چیخ پکار۔

ادھم اٹھانا۔ اڈم جوتنا۔ ادھم مچانا۔ (معاورہ) ادھم مچانا۔ شور وغل کرنا۔ ہنگامہ کرنا۔

ادھی۔ (ادھ۔ دھ۔ ی) [ہ۔ صف] ادھم مچانے والا۔

ادھن۔ (ادھن) [ہ۔ صف] (۱) وہ پانی جو کچھڑی یا چاول پکانے کے واسطے جوش کیا جاتا ہے (۲) [صف] گرم۔ کھولنا ہوا۔

ادھوڑ۔ (ادھ۔ ڈاڑ) [ہ۔ صف] (۱) بیچوں بیچ جہاں سے کوئی چیز اڑھوں اڑھ ہو۔ درمیان۔ اوسط۔ نصف نصف (۲) (پن) ٹوٹا چاول۔

ادھوت۔ (ا۔ دھوت) [ہ۔ صف] بہادر۔ طاقت ور۔

ادھوتڑ۔ (ا۔ دھوتڑ) [ہ۔ صف] ایک قسم کا دیسی سوتی کپڑا۔ دھوتڑ۔

ادھوتی۔ (ا۔ دھوتی) [ہ۔ صف] (۱) [مثلاً] دھوتی۔

ادھورا۔ (ا۔ دھورا) [ہ۔ صف] (۱) آدھا۔ ناتمام۔ ناقص۔ نامکمل۔ پورا کی ضد۔ (۲) کچا بچہ۔ استفا کا بچہ۔

ادھورا پڑنا۔ پورا نہ پڑنا۔ پورا نہ ہونا۔

ادھوڑی۔ (ا۔ دھوڑی) [ہ۔ صف] (۱) کچا موٹا چمڑا۔ گائے بھینس کا چمڑا۔

ادھوڑی استر۔ وہ جو تاجس کے استر میں ادھوڑی اور اور نری لگی ہوتی ہے۔

ادھوڑی تاننا۔ (معاورہ) خوب پیٹ بھرنے۔ اتنا کھانا کہ پیٹ خوب تن جائے۔

ادھی۔ (ادھ۔ دھی) [ہ۔ صف] (۱) دھڑی کا نصف پیسے کا اٹھواں حصہ۔ (۲) ایک قسم کا نہایت نفیس باریک اور سفید سوتی کپڑا۔

ادھی ادھی پر جان جانی ہے۔ [مثلاً] بڑا بخیل ہے۔















آرژنگ - (آرژنگ) [ف-ا-نڈ] (۱) چین کے مشہور مصور کانگاراخانہ  
 (۲) چین کے ایک مشہور مصور کا نام۔  
 آرسلان - (آرسلان) [ع-ا-نڈ] بیجنا روانہ کرنا۔ روانگی۔  
 آرسطو - ارسطاطالیس - (ا-ر-س-ط-و) (ا-ر-س-ط-ا-لیس) (یو-ارنڈ)  
 (۱) کمال فاضل شخص (۲) یونان کا مشہور عالم جو فلسفہ کا معلم آدل کہلاتا ہے اور سکندر کا استاد و مشیر تھا۔  
 آرسلان - (ا-ر-س-ط-ا-لیس) [ع-ا-نڈ] شیر۔  
 ارشاد - (ارشاد) [ع-ا-نڈ] (۱) ہدایت (۲) حکم۔ آگیا۔ جمع : ارشادات۔  
 ارشاد بجالانا۔ حکم کی تعمیل کرنا۔  
 ارشاد (فرمانا) کرنا۔ حکم دینا۔ کہنا۔  
 آرشد - (آرشد) [ع-صفت] نہایت ہدایت یافتہ۔  
 آرض - (ع-ا-م-ث) زمین۔ دھرتی۔ جمع : اراضی۔  
 ارض مقدس - (۱) پاک زمین (۲) فلسطین۔  
 ارض و سما۔ زمین و آسمان۔  
 ارضی - (آر-ضی) [ع-صفت] زمینی۔ زمین کا۔ زمین سے متعلق۔  
 ارضیات - (آر-ضی-ات) [ع-ا-نڈ] زمین کے طبقوں کا علم طبقات الارض (Geology)  
 آرغن - آرغون - (آر-غن) [ع-ا-نڈ] (یو-ا-نڈ) آرگن باجا۔  
 ایک قسم کا باجو جو افلاطون نے ایجاد کیا تھا۔  
 آرغوان - (آر-غ-وان) [ع-ا-نڈ] سرخ اور نارنجی رنگ۔ ایک سرخ رنگ کے پھول کا نام۔  
 آرغوانی - (آر-غ-وانی) [ع-صفت] کرم کے رنگ کا۔ لال رنگ کا۔  
 نہایت سرخ۔ نارنجی رنگ کا۔  
 آرفع - (آر-ف-ع) [ع-صفت] (۱) نہایت بلند (۲) عالی مرتبہ۔  
 ارقام - (آر-قام) [ع-ا-نڈ] لکھنا۔ نخر پیکرنا (عربی رقم سے فارسی والوں نے افعال کے وزن پر بنایا ہے)  
 آرکان - (آر-کان) [ع-ا-نڈ] (۱) قلم۔ ستون (۲) مجازاً وزیر امیر جن پر امور سلطنت کا دار مدار ہو (۳) ممبر کسی جماعت کے (۴) وہ امور جن پر خاص خاص دینی یا دنیوی مسائل کا مدار ہو۔  
 ارکان ادا کرنا۔ عبادت کو قواعد و اصول کے مطابق صحیح طور پر پورا کرنا۔  
 ارکان ادا ہونا۔ کسی کام کے لوازمات پورے ہو جانا۔  
 ارکان (دولت) سلطنت۔ وزراء۔ امرا۔ سلطنت کے حکام۔  
 آرگیا - (آر-گ-جا) ایک مشہور مرکب عطر جو صندل۔ گلاب۔ مشک کا فور۔  
 عنبر اور چینی سے تیار ہوتا ہے۔  
 آرگن - (آر-گ-ن) [ع-ا-نڈ] لکڑی کی چٹینی جو کوارڈوں کو بند کرنے کے لیے لگائی جاتی ہے۔  
 آرگن - (Organ) (آر-گ-ن) [انگ-ا-نڈ] ایک باجو  
 آرل - (Earl) (انگ-ا-نڈ) نواب۔ انگلستان میں تیسرے درجے کے امیر کا خطاب۔  
 رقم - (ر-م) [ع-ا-نڈ] (۱) شہاد کی بنائی ہوئی بہشت کا نام (۲) مجازاً

بہشت۔ جنت۔

آرمان - (آر-مان) [ف-ا-نڈ] (۱) تمنا۔ آرزو۔ حسرت۔ چاہ۔ خواہش (۲) شوق۔ اشتیاق (۳) افسوس۔ تاسف۔ دریغ۔  
 ارمان بھرا۔ ارمان بھری۔ حسرت مند۔ آرزوؤں اور حسرتوں سے پُر۔  
 ارمان بھری گھونگا۔ (محاورہ) دل میں بہت سے ارمان رکھنے والی عورت۔  
 ارمان پورا ہونا۔ (محاورہ) آرزو پوری ہونا۔  
 آرمان جانا رہا۔ (محاورہ) کسی بات کی آرزو مٹ جانا۔  
 آرمان جی کے جی میں رہنا۔ (محاورہ) حسرت رہ جانا۔ آرزو پوری ہونا۔ ارمان نہ نکلنا۔  
 آرمان خاک میں ملنا۔ (محاورہ) مایوسی ہونا۔ ناامیدی ہونا۔  
 ارمان (رہ جانا) رہنا۔ (محاورہ) حسرت رہ جانا۔ جی کی جی میں رہنا۔  
 ارمان کا خون ہونا۔ (محاورہ) آرزو پوری نہ ہونا۔  
 ارمان کرنا۔ (محاورہ) تمنا کرنا۔ آرزو کرنا۔  
 ارمان نکالنا۔ (محاورہ) شوق پورا کرنا۔ حسرت نکالنا۔  
 آرمعان - (آر-م-غان) [ف-ا-نڈ] نخفہ۔ بدیہ۔ سوغات۔ نذر۔ پیشکش (بضم و بفتح ثالث دونوں صحیح ہیں)  
 آرنا - (آر-نا) [ع-صفت] جنگلی۔  
 آرنا ایلہ۔ (۱) گائے بھینس کا گوہر جو جنگل میں سوکھ جاتا ہے۔ جنگلی گند۔  
 آرنا بھینسا۔ (۱) جنگلی بھینسا (۲) مجازاً بہت موٹا اور طاقتور آدمی۔  
 آرند - (آر-نڈ) [ع-ا-نڈ] ایک درخت جس کے بیجوں سے تیل نکالا جاتا ہے۔  
 آرند خر بوزہ۔ ایک قسم کا پھل۔ پیتا۔  
 آرند کی جڑ۔ (۱) آرند کے پڑ کی جڑ (۲) نہایت ناپا مدار چیز۔  
 آرندی - (آر-نڈی) [ع-ا-نڈ] (۱) آرند کا بیج۔ رینڈی جس کا تیل نکالا جاتا ہے۔  
 آرندی کا تیل - آرند کے بیج سے نکالا جاتا ہے جو عموماً جلاب کے لیے پیا جاتا ہے۔ کسٹرا۔  
 آرنی - (آر-نی) [ع-ا-نڈ] دکھا مجھے (حضرت موسیٰ نے کوہ طور پر خدا سے دعا کی تھی۔ رَبِّ اَرِنِي۔ الہی! مجھے اپنا جلوہ دکھا۔ جواب ملا۔ لَنْ اَرِنِي۔ تو مجھے نہ دکھ سکے گا۔  
 آرنی کہنا۔ طالب دیدار ہونا۔ دیدار کی التجا کرنا۔  
 آرنی گو۔ آرنی کہنے والا۔ طالب دیدار حضرت موسیٰ کلیم اللہ سے مراد ہے۔  
 ارواح - (آر-واح) [ع-ا-نڈ] (۱) روح کی جمع (۲) ارواحیں۔ جانیں (۳) نسبت اندرنی خواہش (۴) ارواح بطور واحد بھی مستعمل ہے (۵) فرشتے (ق)  
 ارواح ادھر ہی ہے۔ عورتیں، مردے کا ذکر کرنے وقت یہ محاورہ بولتی ہیں۔  
 تاکہ اس کی روح انہیں ستانے نہ آئے۔  
 ارواح بھٹکنا۔ (محاورہ) روح کا پریشان ہونا۔ کسی چیز کی تلاش میں جان بیکل رہنا۔ کسی چیز کی حسرت کے کرم جانا۔  
 ارواح (بھڑانا) بھڑانا۔ (محاورہ) نیت بھڑانا۔ طبیعت سیر ہونا۔ جی بھڑانا۔  
 ارواح پڑی رہنا۔ (محاورہ) نیت پڑی رہنا۔ دھیان پڑا رہنا۔  
 ارواح (بھڑانا) بھڑانا۔ (محاورہ) جی بیزار ہونا۔ رغبت نہ رہنا۔ نیت بھڑانا۔  
 ارواح خبیثہ۔ بدروہیں۔ بھوت پریت۔



۱-۱

اُرٹ - [۵-۱-۵] (۱) بندہ ہٹ - بیچ (۲) سدا - ثقالت -  
 اُرٹ بیٹھنا - (معاورہ) ضد کرنا - اصرار کرنا - ہٹ کرنا -  
 اُرٹ جانا - (معاورہ) ہٹ کرنا - ضد کرنا (۲) جم جانا - خم جانا - رک جانا -  
 اُرٹ کر لینا - (معاورہ) دھرنے کے لینا بے وسول کیے نہ چھوڑنا - پکڑ کر لینا -  
 اُرٹ کھڑا ہونا - (معاورہ) ستر راہ ہونا - راستہ روک کر کھڑا ہونا -  
 اُرٹ کے بیٹھنا - (معاورہ) جم کر بیٹھنا - اس قصد سے بیٹھنا کہ جب تک کام پورا نہ ہو  
 اُنھیں گے نہیں - دھرن لینا -  
 اُرٹا - (اُرٹا - ٹا) [۵-۱-۵] (۱) مکان با دیوار کرنے کی آواز (۲) دریا کا کڑا اڑا -  
 اڑا اڑا دم - اڑا اڑا دھرم - اڑا اڑا دھول - کسی چیز کے بے سناٹا کرنے  
 کی آواز -  
 اڑا اڑا کر کے کرنا - دھماکے سے کرنا - مکان کا بلند آواز سے کرنا -  
 اڑا - (اڑا) [۵] (۱) اڑ گیا (۲) نایاب - کم باب -  
 اڑا آنا - (معاورہ) بہت جلد آنا - تیز روی سے آنا -  
 اڑا پڑ جانا - (معاورہ) ناپید ہو جانا - نایاب ہو جانا -  
 اڑا پھرنے - (معاورہ) جلد جلد گشت لگانا - ہوا میں ادھر ادھر گشت کرنا -  
 اڑا جانا (معاورہ) (۱) تیز تیز جانا (۲) اڑتے ہوئے جانا (۳) مال جانا (۴) کھائی جانا  
 اڑا دینا - (معاورہ) (۱) مشہور کر دینا (۲) موقوف کر دینا - بند کر دینا (۳) چوری کر لینا  
 غائب کر دینا (۴) خراج کر دینا (۵) ادھیڑنا -  
 اڑا لانا - (معاورہ) (۱) ہوا کی مدد سے کسی چیز کو بالا بالا لانا - چالاک سے کوئی  
 چیز حاصل کرنا -  
 اڑا لینا - (معاورہ) (۱) چرا لینا (۲) اس طرح لے جانا کہ معلوم نہ ہو (۳) بغیر  
 تسلے کوئی چیز دیکھ کر سیکھ لینا - جو بہو نقل کر لینا -  
 اڑان - (اڑان) [۵-۱-۵] (۱) تھم - ستون - وہ لکڑی جس سے کسی گرتی ہوئی  
 دیوار یا چھت کو سہارا دیتے ہیں -  
 اڑان - (اڑان) [۵-۱-۵] (۱) پرداز - اڑنا (۲) چھلانگ - جست  
 اڑان گھاتی - (معاورہ) (۱) بندھی ہوئی چوٹیں (۲) انگلیوں کی جڑ کا حصہ (۳) شعبانہ  
 چالاک - ہوشیاری - فریب دہی -  
 اڑان گھاتی تانا - (معاورہ) انٹی مارنا - دغا دینا - دھوکہ دینا - فریب دینا - بہکانا -  
 اڑانا - (اڑانا) [۵-۱-۵] (۱) اٹکانا - پھنسانا - اٹھانا (۲) روکنا - پھراننا - حائل کرنا -  
 (۳) شامل کرنا - ملانا - شریک کرنا (۴) بڑا اور موٹا اڑان - تھم - ستون -  
 وہ مضبوط لکڑی جو دیوار یا چھت کے سنبھالنے کے لیے لگائی جاتی ہے -  
 اڑانا - (اڑانا) [۵-۱-۵] (۱) دکھ یا بیماری کے باعث گلے کی طرح چلانا -  
 کراہنا - (۲) سخت آواز سے بولنا -  
 اڑانا - (اڑانا) [۵-۱-۵] (۱) پرواز میں لانا - پر راز کرنا - پرندوں یا پتنگ  
 وغیرہ کو فضا میں پہنچانا (۲) کاٹنا - تراشنا - کترنا - جدا کرنا (۳) بغیر تسلے کوئی  
 کام دیکھ کر سیکھ لینا - جو بہو نقل کرنا (۴) خیرا کر لانا - معصت حاصل کرنا -  
 پھینانا (۵) اکھاڑنا - خراب کرنا - جمنے نہ دینا - نکالنا - موقوف کرنا (۶) ٹاننا  
 آن سنی کرنا - بھلا دینا (۷) دودھ کرنا - پر سے کرنا - ہٹانا - ضائع کرنا (۸)

اُداح لگی رہنا - (معاورہ) نیت لگی رہنا -  
 اُداح نہ نہرے - (معاورہ) عورتیں کسی مرسے کی بُرائی کرتی ہیں تو یہ کلمہ زبان  
 پر لاتی ہیں -  
 اُرُوپ - (اُرُوپ) [س-۱-۱] (۱) بھداپن - بد معافی (۲) [صف] بدل  
 بھدا -  
 اُرُوپا - (اُرُوپا) [انگریزی یورپ (Europe) کا مفرس حصہ -۱-۱] اُرُوپ  
 فرنگستان - فرنگ  
 اُرُوپائی - (اُرُوپائی) [ف-صف] یورپی - یورپ والا - یورپ سے متعلق -  
 اُرُوپا - (اُرُوپا) [۵-۱-۵] (۱) پنجابی ہندوؤں کی ایک ذات -  
 اُرُوگی - (اُرُوگی) [۵-صف] جسے کوئی بیماری نہ ہو - بھلا جینگا -  
 اُرُوں - (اُرُوں) [۵-۱-۵] (۱) وہ بھونری جو گھوڑے کے کان کی جڑ میں گردن  
 کی طرف ہوتی ہے اور دونوں طرف مبارک اور ایک طرف بُری خیال  
 کی جاتی ہے -  
 اُرُوئی - (اُرُوئی) [۵-۱-۵] (۱) ایک قسم کا سفید اور موٹا کاغذ -  
 اُرُوں گھروں - (اُرُوں) [۵-۱-۵] (۱) بچوں کا ایک کھیل - چھوٹے نچھے پاؤں پھیلا کر ہاتھ پھرتے  
 جلتے ہیں اور یہ الفاظ کہتے جاتے ہیں  
 اُرُوئی - (اُرُوئی) [۵-۱-۵] (۱) ایک لیس دار ترکاری جو جڑ کی قسم سے ہوتی ہے  
 گھبیاں -  
 اُرُوہ - (اُرُوہ) [ف-۱-۵] (۱) لکڑی چیرنے کا اوزار - آرہ -  
 اُرُوکش - (اُرُوکش) [ف-۱-۵] (۱) لکڑی چیرنے والا -  
 اُرُوہر - (اُرُوہر) [۵-۱-۵] (۱) ایک غلہ جس کی داں پکا کر کھاتے ہیں -  
 اُرُوہر کی ٹیٹیا گھرائی تالا - [۵-۱-۵] (۱) نامزدوں کا م - غیر مناسب چیزوں کا میل -  
 اُرُوئی - (اُرُوئی) [۵-۱-۵] (۱) بیل یا نینے کی پھڑی جس کے سر سے پرلو ہے  
 کی نچلی کیل ہوتی ہے -  
 اُرُوئی - (اُرُوئی) [۵-۱-۵] (۱) کلمہ خطاب - کم رتبہ عورت کے لیے -  
 اُرُوئی - (اُرُوئی) [۵-۱-۵] (۱) کلمہ ندا و خطاب - ۱ سے ۱۰ (کم تر شخص کے لیے)  
 (۲) کلمہ تعجب -  
 اُرُوئی کرنا - (معاورہ) بے ادبی سے بولنا - بے تسلی کرنا - گستاخی سے  
 پیش آنا -  
 اُرُوئی سے - (کلمہ تعجب) نہایت حیرانی اور تعجب ظاہر کرنے کے  
 موقع پر بولتے ہیں -  
 اُرُوئی لوگو - اُسے آدمیو - اُسے مردو!  
 اُرُوئی - (اُرُوئی) [ف-صف] اڑا - ترچھا -  
 اُرُوئی دار پا جامہ - اڑا پا جامہ جس کی خمی اتنی تنگ ہوتی ہے کہ پنڈلی سے  
 چپک جاتی ہے -  
 اُرُوئی کی باتیں - پیچیدہ باتیں - لیسواں باتیں - فریب کی باتیں - دھوکے  
 کی گفتگو -  
 اُرُوئی کی چال - دغا و فریب کی بات - بیڑھی چال -  
 اُرُوئی - (اُرُوئی) [۵-۱-۵] (۱) اڑا - ترچھا -  
 اُرُوئی - (۵-۱-۵) [صف] عقلمند - دانا -



فضول خرچی کرنا۔ روپیہ برباد کرنا (۹) بے جا تعریف کرنا۔ بنا۔ ہنسی میں ڈالنا۔  
 رسوا و بدنام کرنا (۱۰) بھنگے جانا۔ چھیا دینا۔ غائب کر دینا (۱۱) مجامعت  
 کرنا۔ کام بنانا۔ کھیل بنانا (۱۲) رونق پڑھانا۔ زینت بخشنا۔ جان ڈالنا خوش  
 ذائقہ بنانا (۱۳) بنکانا۔ جھلکانا۔ نکالنا (۱۴) پیکانہ بھگانا۔ دوڑانا (۱۵) لگانا  
 کھڑا کرنا۔ (۱۶) برسانا۔ پھلکانا۔ صاف کرنا (۱۷) مشہور کرنا۔ شہرت دینا (۱۸)  
 پینا۔ نوش کرنا۔ مے نوشی کرنا۔ شراب پینا (۱۹) کھانا۔ چپٹ کرنا (۲۰) حاصل  
 کرنا (۲۱) چھیننا۔ کھرچنا۔ قلم پھرنا۔ مٹانا۔ خارج کرنا۔ نام و نشان نہ رکھنا  
 (۲۲) ادھیرنا (۲۳) اکھاڑ کر پھینکنا۔ کھو ڈالنا (۲۴) مارنا۔ ٹکانا۔ جانا۔  
 (۲۵) تان اڑانا۔ گانا (۲۶) پر اگندہ کرنا۔ پریشان کرنا (۲۷) پھینکنا۔ اچھانا  
 جھگانا (۲۸) بے جا تعریف کرنا (۲۹) ٹھیک نشانہ لگانا (۳۰) کسی کا انداز  
 اڑا لینا۔ گانا۔ جیسے تان اڑانا۔

اڑانی (اڑا۔ نی) (۱) مرث (۲) بڑا پنکھا (۳) کشتی کا ایک داؤ۔ اڑنگا۔  
 دوسرے کی ٹانگ میں ٹانگ اڑا کر پکڑنے کا قبیح۔  
 اڑا ہونا (محاورہ) (ا۔ اڑا۔ ہونا) (ا۔ اڑ۔ مص) ضد نریمان ہونا۔ سدراہ ہونا۔ حاصل ہونا۔  
 اڑاؤ۔ (اڑا۔ اڑ) (۱) [ہ۔ صف] اڑنے والا۔ فضول خرچ۔ کھر لٹا دینے والا۔  
 اڑاؤ کھاؤ۔ فضول خرچ۔ کھانے ٹانے والا۔

اڑاڑ (اڑ۔ اڑ) (۱) [ہ۔ صف] ناموار۔ اوجھل بچا بے محل۔ بے معنی۔  
 اڑبٹنگ۔ (اڑ۔ بٹنگ) (۱) [ہ۔ صف] اڑبٹنگ۔ اڑبٹنگ (۲) مشکل (۳) انوکھا۔  
 اڑبٹنگا۔ (اڑ۔ بن۔ گ) (۱) [ہ۔ صف] بانکا اور آڑا۔ بیڑھاڑ چھا (۲) حسدی (۳) [ہ۔ صف]  
 روک۔ آڑ۔ (۴) بھیللا۔ بھیلرا۔ رخنہ۔

اڑبھگانا۔ (اڑ۔ بھاگ۔ نا) (۱) [ہ۔ مص] تیزی سے چلا جانا۔  
 اڑبھنیری ساون آیا (ہ۔ مثل) [ہ۔ مثل] کسی کو اتفاقاً مل جائے اور وہ گلچھرے اڑانے لگے  
 تو طنز کہتے ہیں۔ یہی دن میں خوب مزے کرے۔  
 اڑتا لیس۔ (اڑتا۔ لیس) سینتالیس کے بعد کا عدد۔ چالیس اور آٹھ۔

اڑتلا۔ (اڑت۔ لا) (۱) [ہ۔ صف] (۱) نباہ۔ آسرا۔ سہانا (۲) جیلہ۔ بہانہ۔ عذر  
 اڑتلا (بیکرنا) لینا (۱) پناہ لینا۔ حمایت میں آنا۔ سہارا لینا (۲) بہانہ کرنا۔ عذر کرنا  
 اڑتلا۔ (اڑت۔ لا) (۱) [ہ۔ صف] آسرا۔ پناہ گاہ۔  
 اڑتی۔ (اڑتی) (۱) [ہ۔ صف] (۱) اڑتی بوٹی۔ (۲) تول میں کھچک۔  
 اڑتی بیٹھک۔ دونوں پاؤں کو سمیٹ کر اٹھنے بیٹھنے ہوئے آگے بڑھایا سچھے بیٹھا۔  
 بیٹھک کا ایک انداز۔

اڑتی بیماری۔ وہ بیماری جو ایک دوسرے کو لگ جائے۔ متعدی مرض۔  
 پتھوت کی بیماری۔  
 اڑتی پڑتی خبر۔ افواہ۔  
 اڑتی تول۔ کم تول۔

اڑتی چڑیا کو بھیچنا۔ اڑتی چڑیا کے پر گینا۔ کمال نظر باز ہونا۔ دل کی بات  
 سمجھ جانا۔ بھانپنا۔ ناٹنا۔ تیور پہنچانا۔ قیادہ شناس ہونا۔  
 اڑتی سی (خبر) افواہ۔ بھنگ۔ بازاری اور بے تحقیق بات۔ اڑتی پڑتی خبر۔ گپ۔  
 اڑتیس۔ (اڑتیس) (۱) [ہ۔ صف] تیس اور آٹھ۔ سینتیس کے بعد کا عدد۔  
 اڑجانا۔ (اڑ۔ جانا) (۱) [ہ۔ مص] (۱) پرندے کا اڑ جانا۔ پرواز کر جانا (۲)  
 بھاگ جانا۔ کافر ہو جانا (۳) غائب ہو جانا (۴) دور ہو جانا (۵)

کسی چیز کا رنگ جاتا رہنا یا پھیکا پڑ جانا (۶) کٹ جانا۔ قلم ہو جانا۔ جید  
 ہو جانا (۷) مٹ جانا (۸) غارت ہو جانا۔

اڑ جائے۔ (اڑ۔ جا۔ اے) مٹ جائے۔ غارت ہو (بدوکھا)  
 اڑ چلنا۔ (اڑ۔ چل۔ نا) (۱) [ہ۔ مص] (۱) اترانا۔ مغرور ہونا (۲) اذات سے با  
 قدم رکھنا (۳) بدراہ بننا۔ جلدی اختیار کرنا۔ آوارہ ہو جانا۔

اڑ بچن۔ (اڑ۔ بچن) (۱) [ہ۔ مص] رکاوٹ۔ وقت۔ تعطل۔ بجران  
 اڑس۔ (اڑ۔ س) (۱) [ہ۔ صف] کھٹل۔ (۲) اڑسنا کا امر۔ گھسیڑ  
 اڑس لینا۔ (محاورہ) (اڑ۔ س۔ لے۔ نا) (۱) [ہ۔ مص] اڑس لینا۔ کھونس لینا۔ دخل کر لینا  
 اڑسٹھ۔ (اڑ۔ سٹھ) (۱) [ہ۔ صف] ساٹھ ادا کھ۔ سرسٹھ کے بعد کا عدد۔

اڑتسا۔ (اڑ۔ تسا۔ نا) (۱) [ہ۔ مص] (۱) گھسیڑنا۔ دخل کرنا (۲) چھیننا (۳) کھبونا۔  
 چھوونا (۴) تہہ کرنا (۵) بھر دینا۔ (۶) منہ بند کر دینا۔  
 اڑکے۔ (اڑکے) (۱) [ہ۔ تصایع لعل] (۱) پرواز کر کے۔ اچھل کے (۲) زیادہ سے  
 زیادہ۔ بہت سے بہت۔ (۳) تیزی سے۔

اڑکے (کر) کہاں جاؤ گے۔ (محاورہ) کہاں بھاگ کر جا سکتے ہو پوچھ کر کہاں جاؤ گے  
 اڑکے لگنا۔ (محاورہ) ایک کی بیماری دوسرے کو لگ جانا۔  
 اڑکے ملنا۔ (۱) از خود پہنچ جانا (۲) بغیر دیلے کے پہنچ جانا (۳) بڑے اشتیاق سے ملنا  
 اڑکے منہ میں کھیل نہیں گئی ہے۔ [لائٹل] کچھ نہیں کھایا ہے۔ ذرا بھی غذا  
 نہیں کھائی۔

اڑگڑا۔ (اڑگ۔ گڑا) (۱) [ہ۔ صف] (۱) گھوڑوں کے دوڑانے اور سدھانے کی جگہ۔  
 (۲) گاڑیوں کا اڈا۔

اڑ گیا۔ (اڑگ۔ گیا) (۱) [ہ۔ صف] اڑ گیا۔ خاز خراب۔ غارت شدہ۔ ناپید۔  
 اڑم۔ (اڑم) (۱) [ہ۔ صف] انبار۔ ڈھیر۔  
 اڑن۔ (اڑن) (۱) [ہ۔ صف] (۱) اڑنے والا۔ پرواز کرنے والا۔ جو اڑکے (۲)  
 غائب ہو جانے والا۔ ناپید ہو جانے والا۔

اڑن پھل۔ وہ فرضی پھل جس کے کھانے سے اڑنے کی طاقت پیدا ہو جاتی ہے۔  
 اڑن جوگا۔ مٹ جانے کے قابل۔ مرنے جوگا۔  
 اڑن چھو ہونا۔ چل دینا۔ ناپید ہونا۔ غائب ہو جانا۔  
 اڑن فاتحہ۔ سیدھا سادا۔ مورکھ۔  
 اڑن کھٹولا۔ اڑنے والا تخت تخت رواں۔ پرووں کے بیر کرنے کا تخت۔  
 اڑن گھائی۔ دیکھے اڑان گھائی۔

اڑنا۔ (اڑنا) (۱) [ہ۔ مص] (۱) سدراہ ہونا۔ مزاحم ہونا (۲) ڈسنا۔ جھنا (۳) بھرننا۔  
 اڑنا۔ جھکنا (۴) ضد کرنا (۵) داؤں پر لگانا یا رکھنا (۶) دخل دینا (۷)  
 آمادہ ہونا (۸) ٹس سے مس نہ ہونا۔ سرکنا۔ جنبش نہ کرنا۔

اڑنا۔ (اڑنا) (۱) [ہ۔ مص] (۱) پرواز کرنا۔ بلند ہونا (۲) ترشنا۔ کٹ کر علیحدہ ہونا  
 تہ اڑ جانا (۳) نقل اڑنا (۴) غائب ہونا۔ چوری ہونا (۵) بہت جلدی  
 ہو جانا (۶) اترانا۔ مغرور کرنا (۷) بھاگ جانا۔ چل دینا (۸) گھوڑے کا  
 طارے بھرنا (۹) کھایا پیا جانا (۱۰) حاصل ہونا (۱۱) مٹنا (۱۲) اُدھرنا۔  
 (۱۳) ہلاک ہو جانا (۱۴) گانا (۱۵) نابود ہو جانا (۱۶) اچھٹنا (۱۷) نشانے  
 پر لگنا۔ نشانہ ہونا (۱۸) نوچنا (۱۹) بے ٹکی ہانک لگانا (۲۰) پھٹنا۔ پرنے  
 پرنے ہونا (۲۱) مٹنا ہونا۔ دیرانی ہونا (۲۲) تباہ و برباد ہونا (۲۳) پھرنے



بڑھا ہوا ہے۔

اڑھنا۔ [ق۔ مص] اڑنا۔ رگنا۔ بھڑ جانا۔

اڑھتیا۔ (ا۔ ٹھی۔ یا) [ہ۔ ا۔ مٹ] (۱) ڈھائی سیر کا وزن (۲) اڑھائی گنے کا پہاڑ۔

(۳) نجومیوں کی اصطلاح میں سینچ (زحل ستارے) کا ایک مقام۔

اڑھی۔ (ا۔ ٹھی) [ہ۔ ا۔ مٹ] (۱) مشکل۔ سختی۔ مصیبت۔ تنگی۔ (۲) ضرورت جتنا

(۳) تمار بازوں کی اصطلاح میں مشکل داؤں۔

اڑی مار۔ (۱) بار بار (۲) فریبی۔ رغاباز

اڑی مشکل۔ مشکل میں مشکل۔

اڑی اڑی طاق پرٹھی۔ [مثل] رفتہ رفتہ مشہور ہو گئی

اڑی پڑی بات۔ [ہ۔ ا۔ مٹ] افواہ۔ گپ ناقابل اعتبار خبر۔

اڑی ڈالی قاضی کے سر ٹپی۔ [مثل] پٹائی بلا اپنے سر آدے۔ دوسرے کی

مصیبت اپنے سر چڑنا۔

اڑے تھڑے میں۔ (ا۔ اڑے۔ تھڑے۔ میں) [ہ] ضرورت کے وقت۔

مصیبت کے وقت۔

اڑے وقت۔ (محاورہ) (ا۔ اڑے۔ وقت) [ہ۔ ا۔ مٹ] مصیبت کے وقت

اڑے وقت کا گنا [مثل] اس چیز کے متعلق کہتے ہیں جو سخت ضرورت

سے وقت کام آنے کے قابل ہو۔

اڑے ہم بھجائے (ا۔ اڑے۔ اڑ۔ جائے) [ہ] تباہ ہو۔ برباد ہو جائے۔

پید ہو جائے۔ (بددعا)

اڑے اڑے پھرتے ہو۔ [ہ] (محاورہ) دکھائی نہیں دیتے ملتے نہیں

قابو میں نہیں آتے۔

اڑیل۔ (ا۔ اڑیل) [ہ۔ صف] اڑھلنے والا۔ ضدی۔ ہیٹلا۔ سرکش۔

اڑینچ۔ (ا۔ اڑینچ) [ہ۔ مٹ] کیٹ۔ بیر۔ عداوت۔ دشمنی

اڑینچ رکھنا۔ دشمنی رکھنا۔ بغض رکھنا۔

اڑینچ لگانا۔ دشمنی کا بدلہ لینا۔

## ۱۔ ز

از۔ [ف۔ حرف جر] سے

از ابتدا تا انتہا۔ (ف) شروع سے آخر تک۔

ازاں۔ (از۔ آں) [ف] س سے۔

ازاں بعد۔ [ف] اس کے بعد۔ اس وقت تک۔

ازاں جملہ۔ سب میں سے۔ ان میں سے۔

ازبر۔ نوک زبان۔ زبانی یاد کر لینا۔ حفظ کر لینا۔

ازبر کر لینا۔ زبانی یاد کر لینا۔ حفظ کر لینا۔

ازبرائے خدا۔ خدا کے لیے۔ خدا کے واسطے۔

ازبس۔ (۱) بہت زیادہ۔ نہایت۔ (۲) نتیجہ۔ غرض۔ غایت۔

ازبس کہ۔ [ف۔ حرف شرط] چونکہ۔

ازحد۔ نہایت۔ بے حد۔ حد سے زیادہ۔

ازخرداں خطا و ازبزرگاں عطا۔ [مثل] چھوٹوں سے غلطی ہوتی ہے بڑوں

(۲۳) چلنا۔ شغلہ دینا (۲۵) پھیلنا۔ مشہور ہونا (۲۶) رنگ بھیکا پڑنا

(۲۷) پریشان و پرانگندہ ہونا (۲۸) عیش و عشرت کرنا (۲۹) نیز چلنا۔

(۳۰) تنہی مذاق ہونا۔

اڑ (ناگن) ناگنی۔ (اڑ۔ نا۔ گن) ناگ۔ (نی) [ہ۔ ا۔ مٹ] (۱) ساپنی جو اڑکے

کانتی ہے (۲) (مجازاً) غصے والی عورت۔ جھگڑا لڑنے والی عورت

اڑتکو۔ (ا۔ اڑن۔ کو) [ہ۔ صف] اڑنے والا۔ اڑنے کی صلاحیت رکھنے والا

جو اڑ سکے۔

اڑنگ۔ (ا۔ اڑنگ) [ہ۔ ا۔ مٹ] ڈھیر۔ انبار۔

اڑنگ بڑنگ۔ (۱) مہل اور بے سرو پا باتیں بے تکی باتیں (۲) پیچ دار خم دار

بڑھا (۳) لوگوں کا کھیل۔

اڑنگ بڑنگ ہو جانا۔ (محاورہ) جگہ سے ہٹ جانا بے ترتیب ہو جانا۔

اڑنگا۔ (ا۔ اڑن۔ گان) [ہ۔ ا۔ مٹ] (۱) کشتی کا ایک پیچ جس سے حرفیہ کو اس کی

ٹانگ میں اپنی اڑی ٹانگ آنسی کی طرح مار کر گرا دیتے ہیں (۲) روک۔ اڑ۔

مزاحمت۔ دقت۔ رخنہ۔

اڑنگا لگانا۔ (محاورہ) ہونے ہوئے کام کو روک دینا۔ رخنہ ڈالنا۔ خارج ہونا۔

اڑنگا مارنا۔ (محاورہ) (۱) اڑنگے کا بیج کرنا (۲) خارج ہونا۔ سدراہ ہونا

رخنہ انداز ہونا۔

اڑنگے پر (چڑھانا) مارنا۔ اڑنگے پر چڑھا کر مارنا۔ (محاورہ) داؤں پر

چڑھانا۔ فریب دے کر قابو میں لانا۔

اڑواڑ۔ (اڑ۔ واڑ) [ہ۔ ا۔ مٹ] ٹیکن۔ ٹیک۔ رضونی۔ ستون۔ کھم۔ اڑان۔ اڑانا

وہ لکڑی جو چھپت وغیرہ کے نیچے لگادیتے ہیں تاکہ وہ گرے نہیں۔

اڑوس پڑوس۔ (ا۔ اڑوس۔ پ۔ اڑوس) [ہ۔ ا۔ مٹ] قرب و حوار۔ آس پاس۔

اڑوسی پڑوسی۔ (ا۔ اڑوسی۔ پ۔ اڑوسی) [ہ۔ ا۔ مٹ] آس پاس کا رہنے والا

ہم سایہ۔

اڑھانا۔ (ا۔ اڑھانا) [ہ۔ مص] اڑھنا کا متعدی متعدی۔

اڑھائی۔ (ا۔ اڑھائی) [ہ۔ صف] دو اور آدھا۔ ڈھائی۔

اڑھائی اچھر۔ مختصر مگر نہایت پرتاثر باتیں۔

اڑھائی اینٹ کی مسجد الگ بنانا۔ اڑھائی چاول الگ گلانا۔ (محاورہ)

سب سے الگ رہنے رکھنا۔

اڑھائی بکائن میاں پانغ میں کانی حرم محل خانہ میں۔ [مثل] جب کوئی

بے حقیقت آدمی سچی مارتا ہے تو یہی کہتے ہیں۔ کم ظرف ہے۔ اچھا ہے۔

اڑھائی چلو لہو (پینا) پی لینا۔ مار ڈالنا۔ (عورتیں نہایت غصہ کی حالت میں

کہتی ہیں)

اڑھائی دن سقے نے بھی بادشاہت کی ہے [امثال] انقلاب زمانہ

سے کبھی اونے بھی اعلیٰ مرتبے پر پہنچ جاتا ہے (نظام سقے کی طرف اشارہ

ہے جس نے ہمایوں کی جان بچائی تھی اور اس کے عوض ہمایوں نے اسے

ڈھائی دن کے لیے بادشاہ بنا یا تھا)

اڑھائی دن کی بادشاہت۔ [امثال] ناپائدار یا تھوڑے دنوں کی حکومت۔

اڑھائی گھڑی کی موت آئے۔ (بددعا) فوراً مر جائے۔

اڑھائی ہاتھ کی لکڑی نو ہاتھ کا بیج۔ [مثل] بچہ شرارت میں ماں سے بھی







اس کے دل گڑھے کو دکھو اس کے جگر کو دکھو۔ [مثل] اس کی جرات و  
دیوری۔ ہمت اور حوصلہ کی داد دیکھئے۔  
اس گھر کا باوا آدم نرالہ ہے۔ [مثل] یہاں کا دستور سب سے جدا ہے یہاں  
کا طریقہ سب سے الگ ہے۔  
اس مرض کا تو تائیں نہیں پاتا۔ میں اس بکھیرے میں نہیں پڑتا۔  
اس میں کچھنی ہے۔ اس میں کوئی چال ہے۔ دال میں کچھ کالا ہے۔  
اس وقت تم کہاں ہو۔ (محاورہ) تم کس سوچ میں ہو۔ اس وقت ہوش  
میں نہیں ہو۔

اس ہاتھ سے اس ہاتھ لے۔ ہر کام کا بدلہ فوراً ملتا ہے

اس۔ [اشارہ بعید] اڑہ۔ ڈہی

اس پار۔ (۱) دریا کے دوسرے کنارے پر

اس پر بھی۔ اس کے باوجود۔

اس کا طبی منہ ٹھلس دو۔ اس کو بھی کچھ سے دلا کر پالو۔

اس کا منہ کالا۔ (محاورہ) بد دعا۔ رز سیاہ۔ منہ کالا۔

اس کا منہ کالا ہو گیا۔ (محاورہ) سخت جھوٹا ثابت ہوا ہے۔ اب وہ منہ بھی نہ کھائے گا

اس کی جان کو صبر۔ (محاورہ) کسی کے ہاتھوں تکلیف پہنچنے پر۔

اس کی جوتی کو۔ (محاورہ) اس کو کیا غرض پڑی ہے۔

اس ہاتھ سے اس ہاتھ لے۔ [مثل] ہر کام کا فوراً بدلہ ملتا ہے جو جیسا

کرے گا دیا جائے گا۔

اس کی قدرت کے (کارخانے) ٹھیل ہیں۔ خدا کی شان کے جلوے ہیں [اسی

تعجب اور حیرت کی بات پر کہتے ہیں جو خلات قباس و امید ہو]

اس کی لاٹھی میں آواز نہیں۔ خدا کا ترنا گمانی ہوتا ہے۔

اس کے چھپر تو پھوس بھی نہیں [مثل] انداز سے تلاش ہے۔ کنگال ہے۔

اس کے دینے کے ہزاروں ہاتھ ہیں۔ بندوں کو دینے کے لیے خدا کے

پاس بے شمار ذرائع ہیں۔

اس کے منہ کی۔ کسی کی زبان سے نکلی ہوئی بات۔

اس کے نام کا تو کتابھی نہیں پالتے۔ [مثل] کسی سے انتہائی نفرت کے

اظہار کے لیے کہتے ہیں

اس نے رکھا اس نے اٹھایا۔ [مثل] جب در آدمیوں میں ایک جیسا

ہو تو کہتے ہیں۔

اسی کی جوتی اسی کے سر پر۔ [مثل] جب کسی کے ہاں سے کچھ ملے اور اسے

اس کی کسی ضرورت یا کام پر صرف کر دیا جائے تو کہتے ہیں۔

اسی اتنا میں۔ اسی وقت۔ اسی اتنا میں

اسی برتنے پر۔ اسی حوصلے پر۔ اسی توت پر۔ جب کوئی کسی کام کا دعویٰ کرے

لیکن دکر پائے تو کہتے ہیں۔

اسی دن کو پال لاکھا۔ پال کر بڑا آیا تھا۔ [مثل] اپنی اولاد یا پروردہ سے رنج

اور تکلیف پہنچے تو کہتے ہیں۔

اسی میں بہتری ہے (خیریت ہے) [مثل] سمجھاتے ہوئے یا دھمکانے

ہوئے کہتے ہیں۔

اسی وقت۔ ابھی۔ فوراً۔ اب۔

## اس

اس۔ [اشارہ قریب اور ضمیر حاضر] یہ۔ یہی

اس باغ کی اور سی ہوا ہے۔ [مثل] یہاں کے طور طریقے الگ ہیں۔

یہاں صورت حال مختلف ہے۔

اس برتنے پر تپا پانی۔ [مثل] انانائیت پر یافت کا دعویٰ۔ نامردی پر

مردمی کا اظہار۔

اس بھول کا خدا حافظ۔ [مثل] اس بھول کا کوئی علاج نہیں (بہت بھولنے

والے سے کہتے ہیں)

اس بار۔ دریا کا قریبی کنارہ۔

اس پر بھی۔ باوجود اس کے۔ اتنا کچھ ہو لینے کے بعد۔

اس پر نہ بھولو۔ بھولو۔ اس بات پر گھمنڈ نہ کرو۔ اس پر نہ بھولو۔

اس پر نہ جاؤ۔ یہ خیال نہ کرو۔ اس پر نہ جہنہ کرو۔

اس پھیر میں نہ پڑو۔ (محاورہ) اس چکر میں نہ پھینسو۔ دھوکا نہ کھاؤ۔

اس جا۔ اس موقع پر۔ اس مقام پر۔

اس دم۔ اس وقت۔ فوراً۔

اس سوا۔ بجز اس کے۔ اس کو چھوڑ کے۔

اس سے۔ اس سبب سے۔ اس وجہ سے۔

اس سے اچھا تو خدا کا نام ہے۔ [مثل] بہت اچھی چیز ہے۔ اس سے

بڑھ کر کوئی اچھی چیز نہیں

اس سے تو نیکے کی ناک بھی نہیں کٹتی۔ [مثل] بہت گندے چھری

یا چاقو کے متعلق کہتے ہیں۔

اس سے کیا پورا پڑے گا۔ یہ کافی نہیں۔ یہ شخص اچھی طرح کام نہ کر سکے گا

اس سے ہاتھ دھولو۔ (محاورہ) اس کا خیال چھوڑ دو۔ اس سے صبر کرو

اس طرح۔ اس طریقہ سے۔ یوں۔

اس قدر۔ اس قدر میں۔

اس قدر کا۔ اتنا زیادہ۔ بہت زیادہ۔

اس کا ندھے چڑھ اس کا ندھے اتر۔ [مثل] اہم کسی بات میں غدر نہیں ہے

آپ کی خاطر اور رعایت ہر طرح منظور ہے۔

اس کان سن کے اس کان اڑا دینا۔ بات خیال میں نہ رکھنا۔ بات پر کوئی

توجہ نہ کرنا۔ کہنا نہ ماننا۔

اس کوٹھی کے دھان اس کوٹھی میں کرنا۔ [مثل] بیکاری میں چیزوں کی

انت پھیر کرتے رہنا۔ بے فائدہ کام کرنا۔

اس کو چیل کوڑوں کو دوں۔ (محاورہ) بوٹی بوٹی چیل کوڑوں کو دے دوں غصے

میں عورتیں کو سننے کے طور پر کہتی ہیں۔

اس کو کیا کہتے ہیں تعجب اور حیرت کے موقع پر بطور سوال کے مستعمل ہے۔

اس کو وہاں ماریں جہاں پانی نہ ہو۔ [مثل] بد دعا۔ اس پر ہرگز نرس نہ

کیا جانا چاہیے۔ یہ تو اس سزا کا مستحق ہے کہ مر جائے تو اس کے منہ میں

پانی شکرانے والا کوئی نہ ہو۔

اس کی چھاتی دیکھ کر سراہیے۔ [مثل] اس کے حوصلے اور جرات کی تعریف کیجیے







اسپیشلسٹ - (Specialist) (اس۔ پی۔ ٹی۔ ایسٹ) [انگ  
صف ۱۔ مذ] ماہر خصوصی متخصّص۔  
اسپیئر - (Speaker) (اس۔ پی۔ کر) [انگ۔ ا۔ مذ] تقریر کرنے  
والا۔ مقرر (۲) اسمبلی کا صدر۔  
اسپینل - (Spaniel) (اس۔ پی۔ ن۔ یل) [انگ۔ ا۔ مذ] ایک  
قسم کا شکاری کتا۔ (۲) خوشامدی۔  
اسٹا۔ (اس۔ ا۔ تا) [ف۔ ا۔ مٹ] آتش پرستیوں کے پیشوا زرتشت کی تصنیف  
زند کی شرح۔  
اسٹاڈ۔ (اس۔ تاد) [ف۔ ا۔ مذ] (۱) جیمے کا کھڑا ہونا (۲) جیمے اور شامیانے  
کی چوب۔ ستون (۳) کھڑا۔ استادہ۔  
اسٹاڈ۔ (اس۔ تاد) [ف۔ ا۔ مذ] (۱) کھانے والا معلم۔ گرد۔ ماسٹر (۲) تجربہ کار  
مشاق۔ کامل فن (۳) چالاک۔ پتے باز۔ جمع: استادان۔  
اسٹاڈ بیچھے پاس۔ کام آنے راس [اسٹیل] اسٹاڈ کے پاس بیٹھنے سے  
کا درست ہونا ہے۔ اسٹاڈ کے پاس بیٹھنے والا کامیاب ہوتا ہے۔  
اسٹاڈگی۔ (اس۔ تا۔ دگی) [ف۔ ا۔ مٹ] (۱) کھڑے ہونے کی حالت۔ کھڑا ہونا  
قیام۔ (۲) مضبوطی۔ پائنداری  
اسٹاڈہ۔ (اس۔ تا۔ دہ) [ف۔ صغ] کھڑا ہونا۔ جمع: اسٹاڈگان۔  
اسٹاڈمی۔ (اس۔ تا۔ دی) [ف۔ ا۔ مٹ] (۱) اسٹاڈ ہونا۔ کمال ہنرمندی۔ مشاقی  
(۲) چالاک۔ ہوشیاری۔  
اسٹاڈ۔ (اس۔ تا۔ ڈ) [ع۔ ا۔ مذ] مدرس۔ معلم۔ اسٹاڈ۔ جمع: اسٹاڈہ  
اسٹاڈ الانام۔ دنیا بھر کا اسٹاڈ۔ اسٹاڈ روزگار۔  
اسٹاڈی۔ (اس۔ تا۔ ڈی) [ع۔ ا۔ مذ] میرا اسٹاڈ میرے اسٹاڈ۔  
اسٹاڈکار۔ (ف۔ مذ) اسٹاڈ۔ ماہر فن۔ چالاک۔  
اسٹانی۔ (اس۔ تا۔ فی) [ا۔ ا۔ مٹ] (۱) معلم۔ آنوں۔ وہ عورت جو کھنڈا پڑھنا  
یا کوئی کام کھائے (۲) اسٹاڈ کی بیوی۔  
اسٹنڈاڈ۔ (اس۔ تب۔ دا۔ د) [ع۔ ا۔ مذ] ظلم و جور سے حکومت کرنا مطلق العنانی  
خود مختاری۔ خود رانی (۲) ضد۔ مٹ۔ استقلال۔  
اسٹنڈاڈی۔ (اس۔ تب۔ دا۔ دی) [ع۔ صغ] مطلق العنان حکومت سے  
متعلق۔ نظام اسٹنڈاڈ کا حامی۔ رجعت پسند۔  
اسٹنڈاڈیٹ۔ (اس۔ تب۔ دا۔ دی۔ یٹ) [ع۔ ا۔ مٹ] خود رانی پن۔  
مطلق العنانی۔ نظام حکومت (۲) ظلم و جور۔  
اسٹنبرق۔ (اس۔ تب۔ رقی) [ع۔ ا۔ مذ] سبز اظہر کی قسم کا ایک ریشمی کپڑا۔  
اسٹنشنار۔ (اس۔ تب۔ ثار) [ع۔ مذ] بشارت۔ خوشخبری مانا۔  
اسٹنبصار۔ (اس۔ تب۔ سار) [ع۔ ا۔ مذ] دانائی۔ بینائی۔ سوجھ بوجھ ہونا۔  
اسٹنبعاد۔ (اس۔ تب۔ عاد) [ع۔ ا۔ مذ] دوری۔ علیحدگی۔ چاہنا۔  
اسٹنٹنا۔ (اس۔ تب۔ تا) [ع۔ ا۔ مذ] (۱) علیحدہ کرنا۔ جدا کرنا۔ الگ کرنا (کسی عام  
حکم سے کسی شخص یا چیز کو علیحدہ کرنا۔  
اسٹیجیٹ۔ (اس۔ تب۔ جیٹ) [ع۔ ا۔ مٹ] قبولیت۔ انجا کونٹنا اور قبول کرنا۔  
اسٹیجیضہ۔ (اس۔ تب۔ جیضہ) [ع۔ ا۔ مٹ] حیض کثرت سے آنا۔ وہ خون جو  
بیماری کے سبب حیض کے آنا کے سوا دوسرے دنوں میں بھی آتا ہے۔

استخالہ۔ (اس۔ تب۔ حالہ) [ع۔ ا۔ مذ] حالت تبدیل ہونا۔ ایک حالت سے  
دوسری حالت پر ہونا۔ شکل و صورت اور خاصیت کا بدل جانا۔  
استخالہ کیمیائی۔ (ع۔ ف) مختلف چیزوں کا مل کر کیمیائی ترکیب سے ایک ہونا  
جیسے تانبا اور گندھک کے مل جانے سے نیلا تختہ تھان جاتا ہے۔  
استحسان۔ (اس۔ تخ۔ سان) [ع۔ ا۔ مذ] پسندیدگی۔ اچھا جاننا۔ پسند کرنا۔  
استحصال۔ (اس۔ تخ۔ صال) [ع۔ ا۔ مذ] طلب حصول۔ حاصل کرنا (۲) چھین لینا  
(انگ) (Exploitation)  
استحصال بالجبر۔ زبردستی حاصل کرنا۔ ڈرا دھمکا کر کوئی چیز لے لینا۔  
استحصال ناجائز۔ خلاف قانون طریق پر حاصل کرنا۔  
استحضار۔ (اس۔ تخ۔ ضار) [ع۔ مذ] حاضری چاہنا (۲) یاد۔ یادداشت  
استحقار۔ (اس۔ تخ۔ فار) [ع۔ ا۔ مذ] ذیل جانا۔ حقارت سے دیکھنا (۲) نفرت کرنا۔  
استحقاق۔ (اس۔ تخ۔ ناق) [ع۔ ا۔ مذ] (۱) حق طلب کرنا۔ سزا دار ہونا۔ حق  
دعویٰ۔ قابلیت۔ جمع: استحقاقات۔  
استحقاق ترکہ۔ ورثے کا حق۔  
استحقاق تشخیص۔ جمع بندی کی جانچ پڑتال۔  
استحقاق شفع۔ حق شفع۔ ہمسائی کا حق۔ ہمسائی کی بنا پر زرعی حق داری۔  
استحقاق شفع بر بنائے جار و خلیط۔ ہمسائی اور شرکت کی بنا پر خریداری  
کا حق۔  
استحقاق نالش۔ قانوناً نالش کرنے کا حق۔  
استحکام۔ (اس۔ تخ۔ کام) [ع۔ ا۔ مذ] (۱) مضبوطی۔ استواری۔ سنجگی (۲)  
استقلال۔ قیام۔ جمع: استحکامات۔  
استخارہ۔ (اس۔ تب۔ خارہ) [ع۔ ا۔ مذ] طلب خیر۔ نیکی کی توفیق مانگنا۔  
اصطلاح شرع میں کسی بات کے کرنے نہ کرنے میں ایک خاص  
طریق پر خدا تعالیٰ سے اشارہ چاہنا۔  
استخارہ آنا۔ استخارہ کا راہ دینا۔ فال کا حسب مراد نکلنا۔ استخارے کا  
جواب اثبات میں آنا۔  
استخارہ کرنا۔ کوئی کام کرنے کے لیے غیبی اشارہ چاہنا۔  
استخراج۔ (اس۔ تخ۔ راج) [ع۔ ا۔ مذ] (۱) نکالنا۔ برآمد کرنا۔ چھانڈنا۔  
(۲) علیحدہ کرنا۔ جدا کرنا (۳) اصطلاح حساب میں بڑی رقموں میں سے  
چھوٹی رقموں کو تفریق کرنا۔ جمع: استخراجات۔ (انگ) (Deduction)  
استخفاف۔ (اس۔ تخ۔ فاف) [ع۔ ا۔ مذ] ہفت۔ سبکی۔ ہلکا۔ بھٹنا۔  
استخلاص۔ (اس۔ تخ۔ لاص) [ع۔ ا۔ مذ] (۱) آزاد کرنا۔ آزادی چاہنا (۲)  
خلاصی بچھٹکارا۔ رہائی۔ آزادی۔  
استخوال۔ (اس۔ تب۔ خوال) [ف۔ ا۔ مذ] (۱) ہار۔ ہڈی۔ (۲) گھٹلی۔  
استخوال فروشی۔ مرے ہوئے باپ دادا کے نام پر عزت چاہنا۔  
استدراج۔ (اس۔ تب۔ راج) [ع۔ ا۔ مذ] (۱) خلاف معمول کام کرنا۔ خارق  
عادت عمل (۲) غیر مسلم سے خرق عادات افعال کا ظاہر ہونا۔  
استدراک۔ (اس۔ تب۔ ساک) [ع۔ ا۔ مذ] (۱) پانا۔ سمجھ حاصل کرنا۔ جا بگرہنا۔  
پہنچنا۔ سمجھنا۔ ذہن نشین کرنا (۲) کسی امر کی تلافی کرنا۔  
استدعا۔ (اس۔ تب۔ عا) [ع۔ ا۔ مٹ] خواہش۔ درخواست۔ دعوے۔



چاہنا۔ طلب۔

استدلال۔ (اس۔ تہ۔ لال) [ع۔ ا۔ ند] دلیل۔ برہان۔ ثبوت (۲) دلیل چاہنا۔ دلیل لانا۔

استر۔ (اس۔ تر) [ف۔ ا۔ ند] (۱) دوہرے کپڑے کی نیچے کی تہ۔ ابرہ کے خلاف مطلق تہ جیسے چونے وغیرہ کا استر (۲) پتھر۔ استرکاری۔ چونے کی پائی۔

استراحت۔ (اس۔ ت۔ را۔ حت) [ع۔ ا۔ مٹ] آرام چاہنا۔ راحت طلب کرنا۔ سکھ۔ چین۔

استرخا۔ (اس۔ تر۔ خا) [ع۔ ا۔ ند] ڈھیلا ہو کر ٹک پڑنا۔ ڈھیلا پن۔

استرداد۔ (اس۔ تر۔ داد) [ع۔ ا۔ ند] رد کرنا۔ واپس لینا۔ واپسی چاہنا۔ استرداد نیلام۔ نیلام کا توڑ دینا۔

استرضا۔ (اس۔ تر۔ ضا) [ع۔ ا۔ ند] (۱) خوشنودی (۲) رضامندی پوچھنا۔

استرہ۔ (اس۔ ت۔ رہ) [ف۔ ا۔ ند] بال ہونڈنے کا اوزار۔ استرہ لینا۔ ناف کے نیچے کے بالوں کا ہونڈنا۔ پاک لینا۔

استری۔ (اس۔ ت۔ ری) [ہ۔ ا۔ مٹ] (۱) لوسے یا پتیل کا اوزار جسے گرم کر کے کپڑوں کی سلو میں مٹاتے یا سیون بھٹاتے ہیں (۲) عورت زوجہ۔ بیوی۔

استری دھن۔ غیر منقولہ جائداد جو عورت کو ماں باپ سے ملے۔ زیور وغیرہ جو شادی کے وقت خاوند سے ملے۔ بیوی کا مال۔

استسقا۔ (اس۔ تس۔ قا) [ع۔ ا۔ ند] (۱) پانی مانگنا۔ تشنگی (۲) ایک بیماری جس سے پیٹ بڑھ جاتا ہے اور پیاس بہت لگتی ہے۔ جلد رکاروگ۔

استشہاد۔ (اس۔ تش۔ ہاد) [ع۔ ا۔ ند] طلب شہادت۔ گواہی چاہنا۔ شہادت طلب کرنا۔

استشہاد نامہ۔ سند۔ ڈپلوما۔

استصلاح۔ [ع۔ مٹ] اصلاح پوچھنا۔ مشورہ لینا۔

استصواب۔ (اس۔ تص۔ اب) [ع۔ ا۔ ند] مشورہ لینا۔ رائے پوچھنا۔ تجویز چاہنا۔ جمع : استصوابات

استصواب رائے (عامہ) شورائے عام۔ کسی خاص مسئلے کے بارے میں عوام سے بلا واسطہ رائے لینا۔ (Referendum Plebiscite)

استطاعت۔ (اس۔ ت۔ طا۔ عت) [ع۔ ا۔ مٹ] قدرت۔ طاقت۔ بقدرت۔ بساط۔ دسترس۔ جمع : استطاعات۔

استعارات۔ (اس۔ ت۔ عا۔ مات) [ع۔ ا۔ ند] استعارہ کی جمع۔

استعارہ۔ (اس۔ ت۔ عا۔ رہ) [ع۔ ا۔ ند] (۱) مانگ لینا (۲) علم بیان کی اصطلاح میں مجاز کی ایک قسم جس میں کسی لفظ کے مجازی اور حقیقی معنی کے درمیان تشبیہ کا علاقہ ہوتا ہے اور بغیر حروف تشبیہ کے حقیقی معنی کو مجازی معنی میں استعمال کیا جاتا ہے۔

استعارہ بالتصريح۔ اگر مشبہ بہ کا ذکر کریں اور مشبہ کو چھوڑ دیں یا مضاف مشبہ بہ موجود ہو اور مضاف الیہ غیر موجود تو اس صورت میں استعارہ بالتصريح ہوگا۔

استعارہ بالکنایہ۔ اگر مشبہ بہ کو چھوڑ کر مشبہ کا ذکر کریں تو اس کو استعارہ بالکنایہ کہتے ہیں۔

استعارہ بالکنایہ۔ اگر مشبہ بہ کو چھوڑ کر مشبہ کا ذکر کریں تو اس کو استعارہ بالکنایہ کہتے ہیں۔

استعارہ بالکنایہ۔ اگر مشبہ بہ کو چھوڑ کر مشبہ کا ذکر کریں تو اس کو استعارہ بالکنایہ کہتے ہیں۔

استعارہ بالکنایہ۔ اگر مشبہ بہ کو چھوڑ کر مشبہ کا ذکر کریں تو اس کو استعارہ بالکنایہ کہتے ہیں۔

استعانت۔ (اس۔ ت۔ عانت) [ع۔ ا۔ مٹ] (۱) مدد۔ معاذت (۲) مدد مانگنا۔

استعجاب۔ (اس۔ تع۔ جاب) [ع۔ ا۔ ند] تعجب۔ حیرانی۔ اچرج۔

استعجال۔ (اس۔ تع۔ جال) [ع۔ ا۔ ند] جلدی کرنا۔ جلدی چاہنا۔ عجلت۔

استعداد۔ (اس۔ تع۔ داد) [ع۔ ا۔ مٹ] (۱) لیاقت۔ قابلیت۔ فطری صلاحیت۔ (۲) آمادگی۔ آمادہ ہونا۔

استعفا۔ (اس۔ تع۔ فا) [ع۔ ا۔ ند] (۱) عضو چاہنا۔ معافی مانگنا (۲) نوکری کرنے سے معافی مانگنا۔ نوکری چھوڑنے کی درخواست دینا۔ جمع : استعفاجات

استعفا دینا۔ نوکری چھوڑ دینا۔ ترک ملازمت کرنا۔ نوکری چھوڑنے کی درخواست کرنا۔

استعلاء۔ (اس۔ ت۔ لا) [ع۔ ا۔ ند] بلندی طلب کرنا۔ برتری چاہنا۔

استعلاج۔ (ع۔ ند) علاج چاہنا۔ مداوا ہونی۔

استعلام۔ (اس۔ تع۔ لام) [ع۔ ا۔ ند] دریافت حال۔ آگاہی چاہنا۔ خبر کرنا۔ جتانا۔ جاننے کی خواہش کرنا۔

استعمار۔ (اس۔ تع۔ مار) [ع۔ ا۔ ند] نوآبادی قائم کرنا۔ کسی مقام پر قابض ہو کر اس کی آبادی بڑھانا (۲) کسی آزاد ملک کو غلام بنا لینا۔

استعماریت۔ (ع۔ مٹ) زبردستی کسی قریبی ملک کو اپنے ساتھ ملا لینا یا دوسری مکمل آبادیوں پر قابض ہو جانا۔ (انگ) (Imperialism)

استعمال۔ (اس۔ تع۔ مال) [ع۔ ا۔ ند] کام میں لانا۔ برتنا۔

استعمالی۔ (اس۔ تع۔ ملی) [ف۔ صفت] (۱) برتنا ہوا۔ کام میں آیا ہوا۔ مستعمل۔ پرانا۔ (۲) کام میں لانے کی چیز (۳) ایک قسم کا عمدہ اور باریک چاول۔

استغاثہ۔ (اس۔ ت۔ غاثہ) [ع۔ ا۔ ند] (۱) داد۔ فریاد۔ دعویٰ (۲) انصاف چاہنا۔ دعویٰ کرنا۔ جمع : استغاثات۔ استغاثے۔

استغراق۔ (اس۔ تغ۔ راق) [ع۔ ا۔ ند] محویت۔ کسی خیال میں ڈوب جانا (۲) خدا کی یاد میں محو ہو جانا (۳) جائداد کو ادائے قرض کے لیے ذمہ دار کر دینا۔

استغراقِ فصل۔ فصل کا قرض وغیرہ میں صرف ہو جانا۔

استغفار۔ (اس۔ تغ۔ فار) [ع۔ ا۔ ند] (۱) بخشش چاہنا۔ توبہ۔

استغفار کرنا۔ توبہ کرنا۔ بخشش چاہنا۔

استغفر اللہ۔ (اس۔ تغ۔ لہ) [ع۔ ا۔ مٹ] (۱) میں اللہ سے مغفرت چاہتا ہوں (۲) توبہ۔ نفرت یا کسی فعل سے انکار کی جگہ بولتے ہیں۔

استغناء۔ (اس۔ تغ۔ نا) [ع۔ ا۔ ند] بے پروائی۔ بے نیازی۔ بے فکری۔

استفادہ۔ (اس۔ ت۔ فا۔ دہ) [ع۔ ا۔ ند] فائدہ حاصل کرنا۔ نفع اٹھانا۔

استفاضہ۔ (اس۔ ت۔ فا۔ ضہ) [ع۔ ا۔ ند] فیض پانا۔ فائدہ اٹھانا۔

استفقا۔ (اس۔ تف۔ قا) [ع۔ ا۔ ند] مسئلہ پوچھنا۔ شرعی حکم دریافت کرنا۔ فتویٰ چاہنا۔

استفراغ۔ (اس۔ تف۔ راغ) [ع۔ ا۔ ند] فراغت چاہنا۔ ہٹانے۔ الٹی۔

استفسار۔ (اس۔ تف۔ سار) [ع۔ ا۔ ند] دریافت کرنا۔ پوچھنا۔ پوچھ گچھ۔ جمع : استفسارات

استفہام۔ (اس۔ تف۔ هام) [ع۔ ا۔ ند] دریافت کرنا۔ سمجھنے کی خواہش کرنا۔ پوچھنا۔

استفہامیہ۔ (ع۔ صف) سوالیہ جس میں سوال پایا جائے (۹) علامت

استقامت۔ (اس۔ ت۔ قا۔ مت) [ع۔ ا۔ مٹ] استقدال۔ تیام۔







**اِٹال** - (Stall) (اس ٹال) [انگ۔ ا۔ مذ] (۱) میلے یا بازار میں عارضی دوکان (۲) سودا بیچنے کی میز (۳) تھیٹر میں سامنے کی نشستیں۔ سینا میں سب سے پھٹی نشستیں۔

**اِٹام** - اِٹامپ - (اس۔ ٹام۔ اس۔ ٹامپ) انگریزی سٹیپ (Stamp) کا موزوں۔ ا۔ مذ] (۱) مہر چھاپ (۲) دستاویز لکھنے کا سرکاری کاغذ جس پر سکہ مع قیمت چھپا ہوتا ہے۔

**اِٹائل** - (Style) (اس۔ ٹا۔ ال) [انگ۔ ا۔ مذ] (۱) طرز۔ اسلوب (۲) اسلوب بیان۔ طرزِ ادا (۳) وضع۔ انداز۔ قسم (۴) شکل۔ ساخت۔ نمونہ۔

**اِٹپیل** - (Stipple) (اس۔ ٹپ۔ پیل) [انگ۔ ا۔ مذ] لفظوں سے تصویر بنانا۔ لفظوں کی نقاشی یا کندہ کاری۔

**اِسٹرنگ** - (Sterling) (اس۔ ٹر۔ لنگ) [انگ۔ ا۔ مذ] برطانوی کرنسی (سکہ)

**اِسٹریٹ** (Street) (اس۔ ٹریٹ) [انگ۔ ا۔ مذ] کھربخے کی سڑک۔ گلی۔ سڑک۔

**اِسٹنٹ** - (Stunt) (اس۔ ٹنٹ) [انگ۔ ا۔ مذ] کمال۔ کارنمایاں وہ کام جس سے اپنا کام دکھانا مقصود ہو۔

**اِسٹو** - (Stew) (اس۔ ٹو) [انگ۔ ا۔ مذ] گوشت۔ آٹو اور پیاز وغیرہ کا دم پخت سالن۔

**اِسٹوو** - (Stove) (اس۔ ٹوو) [انگ۔ ا۔ مذ] دلائی چوٹھا۔

**اِسٹوڈینٹ** - (Student) (اس۔ ٹو۔ ڈینٹ) [انگ۔ ا۔ مذ] طالب علم۔

**اِسٹوڈیو** - (Studio) (اس۔ ٹو۔ ڈیو) [انگ۔ ا۔ مذ] (۱) فولوگرافی کا تھرہ یا دکان (۲) فلم کمپنی کا کارخانہ (۳) ریڈیو اسٹیشن کا کوئی کمرہ جہاں سے تقریریں۔ گلے وغیرہ نشر کیے جاتے ہیں۔

**اِسٹور** - (Store) (اس۔ ٹور) [انگ۔ ا۔ مذ] (۱) ذخیرہ (۲) بڑی دکان جس میں ہر قسم کی چیزیں ملتی ہیں۔

**اِسٹوری** - (Story) (اس۔ ٹو۔ ری) [انگ۔ ا۔ مذ] قصہ۔ کہانی۔ افسانہ۔ داستان۔ حکایت۔

**اِسٹیٹ** - (State) (اس۔ ٹیٹ) [انگ۔ ا۔ مذ] ریاست۔ ملک۔ سلطنت۔

**اِسٹیج** - (Stage) (اس۔ بیج) [انگ۔ ا۔ مذ] (۱) چوڑا۔ نمایاں جگہ۔ ممتاز جگہ۔ (۲) تماشا گاہ کا وہ چوڑا جہاں ڈرامہ کھیلا جاتا ہے (۳) مرحلہ۔ دور۔ نوبت۔

**اِسٹیجیو** - (Statue) (اس۔ ٹے۔ جو) [انگ۔ ا۔ مذ] مجسمہ۔ بت۔ مورت۔

**اِسٹیڈیم** - (Stadium) (اس۔ ٹے۔ ڈیم) [انگ۔ ا۔ مذ] ورزشی۔ کھیلوں کا میدان۔

**اِٹیشن** - (Station) (اس۔ ٹے۔ رشن) [انگ۔ ا۔ مذ] مستقر۔ مقام۔ قیام گاہ۔ ٹھہرنے کی جگہ۔ ٹھکانا۔ چوکی۔ اڈا۔

**اِٹیشنر** - (Stationer) (اس۔ ٹیشن۔ نر) [انگ۔ ا۔ مذ] تاجر۔ سامان تحریر۔ قلم۔ کاغذ۔ دوات وغیرہ بیچنے والا۔

**اِٹیشنری** - (Stationery) (اس۔ ٹیشن۔ نر) [انگ۔ ا۔ مذ] سامان تحریر۔ کاغذ۔ قلم۔ دوات وغیرہ۔

**اِسٹیل** - (Steel) (اس۔ ٹیل) [انگ۔ ا۔ مذ] اسپات۔ فولاد۔

**اِسٹیم** - (Steam) (اس۔ ٹیم) [انگ۔ ا۔ مذ] بھاپ۔ دھان۔

**اِسٹیم انجن** - (Steam Engine) [انگ۔ ا۔ مذ] دھانی انجن۔

**اِسٹیمر** - (Steamer) (اس۔ ٹی۔ مر) [انگ۔ ا۔ مذ] دھانی کشتی یا چھوٹا جہاز۔

**اِسٹیمیٹ** - (Estimate) (اس۔ ٹی۔ میٹ) [انگ۔ ا۔ مذ] (۱) تخمینہ۔ تخمینی مقدار۔ اندازہ۔ جانچ۔

**اِسٹینڈ** - (Stand) (اس۔ ٹینڈ) [انگ۔ ا۔ مذ] (۱) مقام۔ محل۔ جگہ۔ (۲) میز۔ چوکی۔ کھڑکی (۳) گاڑیوں کا اڈا۔

**اِسٹینسل** - (Stencil) (اس۔ ٹین۔ سل) [انگ۔ ا۔ مذ] دھات کی پتلی سی تختی جس میں کاٹ کر حروف یا نقش وغیرہ بنائے جاتے ہیں اور اس کے ذریعے کسی سطح پر نقاشی کی جاتی ہے۔ نقش ساز تختی۔

**اِسٹنوگرافر** - (Stenographer) (اس۔ ٹے۔ نوگ۔ رافرا) [انگ۔ ا۔ مذ] مختصر نویس۔

**اِسٹنوگرافی** - (Stenography) (اس۔ ٹے۔ نوگ۔ رافرا) [انگ۔ ا۔ مذ] مختصر نویسی۔

**اِسحاق** - (اس۔ حاق) [انگ۔ ا۔ مذ] ایک پیغمبر کا نام جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے تھے۔

**اِسجبا** - (اس۔ خ۔ یا) [انگ۔ ا۔ مذ] صحیح کی جمع۔ فیاض لوگ۔

**اِسد** - (اس۔ د) [انگ۔ ا۔ مذ] (۱) شیر۔ (۲) ایک آسمانی بُرج کا نام۔

**اِسد اللہ** - خدا کا شیر۔ امیر المؤمنین حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا لقب۔ ارسو کے مشہور شاعر مرزا غالب کا اصلی نام۔

**اِسرار** - (اس۔ لار) [انگ۔ ا۔ مذ] (۱) امر کی جمع (۲) بھید۔ پوشیدہ باتیں۔

**اِسراف** - (اس۔ راف) [انگ۔ ا۔ مذ] فضول خرچی۔ بے جا خرچ۔

**اِسرافیل** - (اس۔ رافیل) [انگ۔ ا۔ مذ] ایک مقرب فرشتے کا نام جس کو قیامت کے دن صبر پھونکنے کی خدمت سپرد کی گئی ہے۔

**اِسرائیل** - (اس۔ سدا۔ ییل) [انگ۔ ا۔ مذ] (۱) رات کو آنے والا (۲) حضرت یعقوب علیہ السلام کا دوسرا نام کیونکہ آپ رات کو پیدا ہوئے تھے۔

**اِسرائیلی** - (اس۔ را۔ ای۔ لی) [انگ۔ ا۔ مذ] اسرائیل سے منسوب حضرت اسرائیل کی اولاد۔ فرقہ بنی اسرائیل۔ یہودی۔

**اِسٹنٹ** - (Assistant) (ا۔ اس۔ ٹنٹ) [انگ۔ ا۔ مذ] مددگار۔ معاون۔

**اِسطیل** - (اس۔ ط۔ یل) [انگ۔ ا۔ مذ] دیکھیے اِسطیل۔

**اِسطرلاب** - (اس۔ طر۔ لاب) [انگ۔ ا۔ مذ] دیکھیے اِسطرلاب۔

**اِسطوانہ** - (اس۔ طوانہ) [انگ۔ ا۔ مذ] ستون۔ قلم۔ کھمبا۔ لائٹ۔ پایہ۔

**اِسطونخوردوس** - (اس۔ طونخو۔ دوس) [انگ۔ ا۔ مذ] ایک دوا کا نام۔

**اِسطورا** - [انگ۔ ا۔ مذ] قصہ۔ کہانی۔ افسانہ۔ بات۔

**اِشعد** - (اس۔ عد) [انگ۔ ا۔ مذ] نہایت خوش نصیب۔ بُت مبارک۔



اسکندریدہ - بحیرہ روم کے کنارے مہر کی مشہور بندرگاہ۔  
اسکوائر - (Esquire) (اس - کٹ - وا - بر) [انگ - ا - مذ] صاحب۔  
عموماً شرفا کے نام کے ساتھ آتا ہے۔

اسکور - (Score) (اس - کور) [انگ - ا - مذ] (۱) وہ نمبر جو کوئی  
کھلاڑی کسی ٹیم میں حاصل کرے (۲) بیسی - کوڑی۔

اسکول - (School) (اس - کول) [انگ - ا - مذ] مدرسہ - مکتب۔  
پاٹھ شالا۔

اسکول ٹیچر - (School Teacher) اُستاد یا اُستانی مُعلم یا مُعلمہ۔  
اسکول ماسٹر - (School Master) اُستاد - مُعلم

اسکول مِسٹرس - (School Mistress) اُستانی مُعلمہ  
اسکواش - (Squash) (اس - ک - ویش) [انگ - ا - مذ] (۱) حرق شہرت  
(۲) ایک کھیل جو ریکیٹ اور نرم گیند سے محصور کورٹ میں کھیلا جاتا ہے۔

اسکیچ - (Sketch) (اس - کیچ) [انگ - ا - مذ] (۱) تصویر کا خاکہ  
(۲) ڈھانچہ - خاکہ (۳) خلاصہ - مسودہ - مختصر مضمون۔

اسکیم - (Scheme) (اس - کیم) [انگ - ا - مذ] (۱) تجویز - ترکیب  
منصوبہ (۲) چال - خفیہ ریشہ - دوائی - سازش۔

اسکیئنڈل - (Scandal) (اس - کین - ڈل) [انگ - ا - مذ] رسوائی - تہمت - فضیلت  
بدنامی - شرمناک واقعہ۔

اسگندہ - (Sag) (اس - گ - ہ) [انگ - ا - مذ] (آشوب معنی گھوٹا - گند معنی بوا) ایک سفید جڑ  
جس سے گھوڑے کے سینے کی بو آتی ہے اور دواؤں میں استعمال ہوتی ہے۔

اسلاف - (Suff) (اس - لاف) [انگ - ا - مذ] سلف کی جمع - اگلے وقتوں کے لوگ۔  
بزرگ - پُرکھے۔

اسلام - (Islam) (اس - لام) [انگ - ا - مذ] (۱) گردن جھکانا - اطاعت کرنا (۲) مسلمانوں کا دین۔  
اسلام قبول کرنا - اسلام لانا - دین محمدی میں آنا۔

اسلامی - (Islamic) (اس - لامی) [انگ - ا - مذ] (۱) اسلام سے متعلق (مذکر) مسلم مسلمان۔  
اسلحہ - (Arm) (اس - ل - ح) [انگ - ا - مذ] (۱) سلاح کی جمع - لڑائی کے ہتھیار - آلات جنگ۔  
اسلحہ خانہ - ہتھیار خانہ - سلاح خانہ۔

اسٹیم - (Steam) (اس - ٹم) [انگ - ا - مذ] (۱) نہایت محفوظ جگہ (۲) مار گزیدہ۔  
اسٹوب - (Stub) (اس - ٹوب) [انگ - ا - مذ] طریقہ - طرز - روش - جمع : اسالیب

اسم - (Name) (اس - م) [انگ - ا - مذ] وہ کلمہ جس سے کسی شخص - جانور - جگہ یا چیز کو پہچانا جائے  
جمع : اسماء

اسم آلہ - وہ اسم جو اوزار یا ہتھیار کے معنی دے (قلم - چاقو - بندوق وغیرہ)  
اسم استفہام - وہ اسم جس کے ذریعہ کوئی بات پوچھی جائے جیسے کیا - کون - کہاں؟

اسم اشارہ - وہ اسم جس سے کسی کی طرف اشارہ کیا جائے جیسے وہ - یہ - ان  
اسم عظم - خداوند تعالیٰ کے ناموں میں سے ایک بزرگ تر نام۔

اسم باسٹی - جیسا نام ویسا کن - وہ شخص جس کا نام اس کے اوصاف کو ٹھیک  
ٹھیک ثابت کرے۔

اسم تصغیر - وہ اسم جس میں چھٹائی کے معنی پائے جائیں جیسے پہاڑی - ٹڈیا۔  
کھولا گھڑیلہ - چمچی وغیرہ۔

اسم جامد - وہ اسم جو نہ خود کسی سے بنا ہو نہ اس سے کچھ بنے جیسے کٹورا - گوبھی

اسفانج - (Asph) (اس - فا - ناج) [انگ - ا - مذ] پالک۔  
اسفل - (Asph) (اس - فل) [انگ - ا - مذ] (۱) نہایت نیچا - انتہا کا ذیل - ادنیٰ - نیچ - کمین  
جمع : اسفلین - اسافل۔

اسفل السافلین - دوزخ کا سب سے نیچا یعنی ساتواں طبقہ - ہادیہ۔  
اسفنج - (Sponge) (اس - فنج) [انگ - ا - مذ] ابر مردہ - ایک سمندری مخلوق - اس کی بناؤ  
ایسی جوف دار ہوتی ہے کہ اس میں پانی جذب ہو جاتا ہے اور پھر نلے پر

فوراً خشک ہو جاتا ہے۔  
اسفند - (Asph) (اس - فن - د) [انگ - ا - مذ] فارسی کا  
ساتواں لہینہ۔

اسفندیار - (Asph) (اس - فن - د - یار) [انگ - ا - مذ] (۱) قدرت حق - لطف خدا (۲)  
ایران کے ایک بادشاہ کا نام۔

استفاط - (Asph) (اس - فا - ط) [انگ - ا - مذ] (۱) حل گرانا۔  
استفاط عمل - حل کا ضائع ہونا - حل کا گر جانا۔

استقام - (Asph) (اس - قام) [انگ - ا - مذ] سقم کی جمع - عیوب - بُرائیاں - نقائص  
استقربوط - (Asph) (اس - ق - ر - ب - و - ط) [انگ - ا - مذ] ایک مرض جو فساد خون سے پیدا  
ہوتا ہے - فساد خون۔

استقف - (Asph) (اس - ق - ف) [انگ - ا - مذ] لاث پادری - پادریوں کا سردار۔  
لارڈ بشپ۔

اسکاٹ - (Scot) (اس - کاٹ) [انگ - ا - مذ] اسکچ - اسکاٹ  
لینڈ کا باشندہ۔

اسکاٹ لینڈ یارڈ - (Scotland Yard) لندن کی خفیہ پولیس۔  
خفیہ پولیس کا صدر مقام۔

اسکاچ - (Scotch) (اس - ک - اچ) [انگ - ا - مذ] (۱) اسکاٹ لینڈ  
یا وہاں کے باشندوں کے متعلق (۲) اسکاٹ لینڈ کی انگریزی  
بولی (۳) اسکاٹ لینڈ کا باشندہ۔

اسکالر - (Scholar) (اس - ک - ل - ر) [انگ - ا - مذ] (۱) متعلم - تلمیذ - طالب علم (۲) عالم - فاضل - ادیب۔  
اسکاؤٹ - (Scout) (اس - ک - ا - و - ٹ) [انگ - ا - مذ] (۱) ایک

عالمگیر جماعت جس کا مقصد لڑکوں میں خدمتِ خلق کا جذبہ پیدا کرنا ہے۔ اس  
جماعت کے رکن لڑکے ایک خاص وردی پہنتے ہیں (۲) وہ سپاہی  
جو دشمن کی سرگرمیوں کے بارے میں معلومات مہیا کرنے کی خاطر بھیجے  
جاتے ہیں۔

اسکرپٹ - (Script) (اس - ک - ر - پٹ) [انگ - ا - مذ] (۱) تخریر مسودہ  
اسکرٹ - (Skirt) (اس - ک - رٹ) [انگ - ا - مذ] (۱) لنگا - سایا  
(یورپی عورتوں کا)

اسکرو - (Screw) [انگ - ا - مذ] (۱) فوٹل کا کارک کھولنے کا بیج۔  
بیج جو لکڑی وغیرہ میں کسا جاتا ہے۔

اسکرین - (Screen) (اس - ک - رین) [انگ - ا - مذ] (۱) پردہ  
(۲) آڑ - اوٹ۔

اسکندر - (Asph) (اس - کن - در) [انگ - ا - مذ] یونان کے مشہور بادشاہ کا نام







سننے کے بعد سیشن جج کو رائے دیتے ہیں۔ یہ لوگ عوام میں سے مقرر کئے جاتے ہیں (۲) بلدیات میں ٹیکس لگانے کے لئے لوگوں کی ملکیت اور جائیداد کا اندازہ کرنے والے حکام۔

## ۱-ش

اش - [ق] اُن -

اشا - (۱-شا) [س-۱-مٹ] (۱) طلوعِ صبح صبح صادق کی روشنی - صبح - پو پھٹنے کا وقت (۲) کام دیو کے بیٹے انیردھ کی بیوی۔

اشارات - (۱-شا-رات) [ع-۱-مڈ] اشارہ کی جمع (۱) رزمیں - کنائے (۲) بوعلی سینا کی کتاب کا نام۔

اشارت - (۱-شا-رت) [ف-۱-مٹ] ایما - رمز - اشارہ (اصل عربی اشارۃ) اشارہ - (۱-شا-رہ) [ع-۱-مڈ] رمز - کنایہ - ایما۔

اشارہ یانا - منشا معلوم کرنا - عندیہ بھانپ جانا۔ اشارہ چلنا - آنکھ سے اشارہ ہونا - رمز و کنایہ ہونا۔ اشارہ فہم - اشارے سے مطلب سمجھنے والا - قرینے سے بات سمجھ جانے والا۔

اشارہ کرنا - (۱) ایما کرنا - آنکھ بھبھووں یا کسی اور عضو کے وسیلے سے دل کی بات ظاہر کرنا (۲) مجملاً یا کنایتہ کسی بات کو تحریر یا تقریر میں ظاہر کرنا (۳) بھڑکانا - بہکانا۔ اشاروں میں پورا ہونا - اس طرح اقرار ہو جانا کہ دوسرا نہ سمجھ سکے۔

اشارے پر چلنا - کسی کے حسب منشا کام کرنا - کسی کے ایما پر چلنا۔ اشارے پر لگانا - ایسی تربیت دینا کہ اشارہ پا کر حکم سجا لائے۔

اشاریہ - (۱-شا-ریہ) [ع-۱-مڈ] کسی کتاب کے مضامین کی تفصیلی فہرست حروفِ تہجی کے اعتبار سے (کتاب میں کوئی مضمون موضوع یا نام ایک سے زیادہ مقام پر آئے تو تمام متعلقہ صفحات کے نمبر ایک ہی عنوان کے تحت دے دیئے جاتے ہیں)

اشاعت - (۱-شا-عت) [ع-۱-مٹ] (۱) شائع کرنا - پھیلانا - شہرت دینا (۲) طبع ایڈیشن (Edition)

اشاعرہ - دیکھیے اشعریہ۔ اشباع - (۱-اش-باع) [ع-۱-مڈ] (۱) حرکت کو اس طرح کھینچنا کہ زبر سے الف زیر سے ی اور پیش سے داؤ کی آواز پیدا ہو جائے (۲) علم عروض میں حرفِ ذخیل کی حرکت کا نام۔

اشباہ - (ع-۱-مڈ) شبہ کی جمع شبہیں - شکلیں - صورتیں۔ اشباہ - (ع-۱-مڈ) مشابہ ہونا - کسی کی مانند ہونا۔ اشتباہ - (۱-اش-ت-باہ) [ع-۱-مڈ] (۱) مشابہ ہونا - دو چیزوں کا اس طرح ہم شکل ہونا کہ دھوکا ہو جائے (۲) گمان - شبہ - شک۔

اشداد - (۱-اش-ت-داد) [ع-۱-مڈ] شدت - زیادتی۔ اشد - (۱-اش-ت) [ف-۱-مٹ] (۱) اُدنٹ۔ اشتراک - (۱-اش-ت-راک) [ع-۱-مڈ] شرکت - ساجھا - حصہ داری۔ اشتراکی - (۱-اش-ت-راکی) [ع-۱-مڈ] اشتراکیت سے منسوب۔

اشتراکیت کا حامی (Communist) سوشلزم سے متعلق

(۲) [۱-مڈ] اشتراکیت کا پرور و سوشلسٹ (Socialist)

اشتراکیت - (۱-اش-ت-راک) [ع-۱-مٹ] (۱) اجتماعیت (۲) ساجھا - شرکت (۲) ایک اعتدال پسند فلسفہ یا نظریہ حیات جس کے مطابق ذرائع پیداوار پر عوام کی مشترکہ ملکیت ہونی چاہیے۔ (انگ)

(Communism)

اشتعال - (۱-اش-ت-عال) [ع-۱-مڈ] (۱) شعلہ اٹھانا - آگ لہکانا - بھڑکانا۔ (۲) رگنایتہ - جوش - غصہ۔

اشتعال دینا - دلانا - بھڑکانا - جوش دلانا - غصہ دلانا۔ اشتعال طبع - طبیعت میں جوش اور غصے کی بھڑک۔

اشتعالک - (۱-اش-ت-عالک) [ف-۱-مٹ] (۱) ننھا سا شعلہ - جھگڑا (۲) جوش غصہ (۳) تحریک - کاسہٹ (۴) چراغ کی بتی اگنے کا ننگا۔ اشتعالک دینا - بھڑکانا - اگنانا - جوش دلانا۔

اشتغال - (۱-اش-ت-غال) [ع-۱-مڈ] مشغول ہونا - مصروف ہونا۔ مصروفیت۔

اشتقاق - (۱-اش-ت-قاق) [ع-۱-مڈ] (۱) کسی شے کو بھاڑ کر کچھ نکالنا (۲) اصطلاح - علم صرف میں ایک کلمے سے دوسرا کلمہ بنانا۔

اشتمال - (۱-اش-ت-مال) [ع-۱-مڈ] شامل کرنا یا ملانا - جمع - اضمالات اشتمال اراضی - زمین کے بکھرے ہوئے ٹکڑوں کو یکجا کرنا تاکہ کاشت میں آسانی ہو۔

اشتمالی - (۱-اش-ت-مالی) [ع-۱-مڈ] (۱) اشتمالیت سے منسوب (مذ) اشتمالیت کا پرور - کمیونسٹ۔

اشتمالیت - (۱-اش-ت-مالی) [ع-۱-مڈ] (۱) مساوی ہونا - برابر ہونا (۲) ایک انقلابی نظریہ حیات جو نجی ملکیت اور جسمانی امتیاز کے خلاف ہے۔ اسی کی رو سے ملک کے تمام وسائل پیداوار پر ریاست (عوام) کا قبضہ ہونا چاہیے۔ اور ان میں سے ہر فرد کو اس کی ضرورت کے مطابق حصہ دیا جائے۔ کمیونزم (Communism)

اشتمالیت - (۱-اش-ت-مالی) [ع-۱-مڈ] (۱) خواہش - (۲) بھوک۔ اشتہار - (۱-اش-ت-ہار) [ع-۱-مڈ] (۱) مشہور کرنا - شہرت دینا (۲) نوٹس - اعلان (۲) وہ چھپا ہوا کاغذ جس کے ذریعے کسی چیز کی شہرت کی جائے۔ جمع: اشتہارات۔

اشتمالیت - (۱-اش-ت-مالی) [ع-۱-مڈ] (۱) مساوی ہونا - برابر ہونا (۲) ایک انقلابی نظریہ حیات جو نجی ملکیت اور جسمانی امتیاز کے خلاف ہے۔ اسی کی رو سے ملک کے تمام وسائل پیداوار پر ریاست (عوام) کا قبضہ ہونا چاہیے۔ اور ان میں سے ہر فرد کو اس کی ضرورت کے مطابق حصہ دیا جائے۔ کمیونزم (Communism)

اشتمالیت - (۱-اش-ت-مالی) [ع-۱-مڈ] (۱) خواہش - (۲) بھوک۔ اشتہار - (۱-اش-ت-ہار) [ع-۱-مڈ] (۱) مشہور کرنا - شہرت دینا (۲) نوٹس - اعلان (۲) وہ چھپا ہوا کاغذ جس کے ذریعے کسی چیز کی شہرت کی جائے۔ جمع: اشتہارات۔

اشتمالیت - (۱-اش-ت-مالی) [ع-۱-مڈ] (۱) خواہش - (۲) بھوک۔ اشتہار - (۱-اش-ت-ہار) [ع-۱-مڈ] (۱) مشہور کرنا - شہرت دینا (۲) نوٹس - اعلان (۲) وہ چھپا ہوا کاغذ جس کے ذریعے کسی چیز کی شہرت کی جائے۔ جمع: اشتہارات۔

اشتمالیت - (۱-اش-ت-مالی) [ع-۱-مڈ] (۱) خواہش - (۲) بھوک۔ اشتہار - (۱-اش-ت-ہار) [ع-۱-مڈ] (۱) مشہور کرنا - شہرت دینا (۲) نوٹس - اعلان (۲) وہ چھپا ہوا کاغذ جس کے ذریعے کسی چیز کی شہرت کی جائے۔ جمع: اشتہارات۔

اشتمالیت - (۱-اش-ت-مالی) [ع-۱-مڈ] (۱) خواہش - (۲) بھوک۔ اشتہار - (۱-اش-ت-ہار) [ع-۱-مڈ] (۱) مشہور کرنا - شہرت دینا (۲) نوٹس - اعلان (۲) وہ چھپا ہوا کاغذ جس کے ذریعے کسی چیز کی شہرت کی جائے۔ جمع: اشتہارات۔

اشتمالیت - (۱-اش-ت-مالی) [ع-۱-مڈ] (۱) خواہش - (۲) بھوک۔ اشتہار - (۱-اش-ت-ہار) [ع-۱-مڈ] (۱) مشہور کرنا - شہرت دینا (۲) نوٹس - اعلان (۲) وہ چھپا ہوا کاغذ جس کے ذریعے کسی چیز کی شہرت کی جائے۔ جمع: اشتہارات۔

اشتمالیت - (۱-اش-ت-مالی) [ع-۱-مڈ] (۱) خواہش - (۲) بھوک۔ اشتہار - (۱-اش-ت-ہار) [ع-۱-مڈ] (۱) مشہور کرنا - شہرت دینا (۲) نوٹس - اعلان (۲) وہ چھپا ہوا کاغذ جس کے ذریعے کسی چیز کی شہرت کی جائے۔ جمع: اشتہارات۔



اشدھ - (ا۔ شُدھ) [س۔ صف] (۱) ناپاک (۲) غلیظ۔

اشتر - (ا۔ شتر) [ع۔ صف] بہت شہیر۔

اشترار - (اش۔ رار) [ع۔ ۱۔ مذ] شہیر کی جمع۔ بڑے لوگ۔ شرارتی لوگ۔

اشتراف - (اش۔ راف) [ع۔ ۱۔ مذ] (۱) شریف کی جمع۔ بھلے مانس لوگ (۲)

عالی خاندان۔ عالی نسب۔ ذی رتبہ۔ ذی عزت لوگ (۳) ہندب اور شائستہ

لوگ (اردو میں واحد ہی مستعمل ہے)

اشتراف پاؤں پڑے کیلئے سر چڑھے۔ [ایشل] شریف تو اپنی شرافت کی وجہ سے

نرمی کرتا ہے اور کیلئے سر چڑھتا ہے۔

اشتراف وہ ہے جس کے پاس اشرفی ہے۔ اس زمانے میں اشتراف مالدار

کو ہی سمجھا جاتا ہے۔

اشترافیر - (اش۔ راف۔ نی) [ع۔ ۱۔ مٹ] حکومت امر جس میں چند مخصوص اور

با اثر لوگ ہی اقتدار اعلیٰ کے مالک ہوتے ہیں۔ خواص کی حکومت۔

اشراق - (اش۔ راق) [ع۔ ۱۔ مذ] آفتاب طلوع ہونا۔ آفتاب نکلنے کا وقت یا

اس وقت کی نماز (۳) حکمت۔ روشن ضمیری۔ تصفیہ باطنی۔

اشراقیبین - (اش۔ راق۔ بین) [ع۔ ۱۔ مذ] حکماء کا وہ مقررہ گروہ جو تصفیہ

قلب اور کشف کے ذریعے شاگردوں کو دُرر بیٹھے ہوئے تعلیم دیا کرتا ہے۔

اشرف - (اش۔ رف) [ع۔ صف] بہت شریف۔ بزرگ ترین۔

اشرف الاشراف - شریفوں کا شریف۔ تہا بیت شریف۔

اشرف المخلوقات - (۱) ساری مخلوق سے بزرگ تر (۲) آدمی۔ انسان۔

اشرف الناس - سب سے شریف۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم۔

اشرفی - (اش۔ رفی) [ع۔ ۱۔ مٹ] (۱) سونے کا ایک سکہ۔ ہیر۔ دینار۔ پونڈر سلورن

گنی (۲) ایک بوٹی کا نام جس کا پھول گول اور زرد ہوتا ہے۔

اشرفی بوٹی - اشرفی کی تدقیق نامت کی بوٹیاں جو کھواب باد و سری قسم کے پھینٹ کے پڑے پر پتی

ہیں (۲) ایک بوٹی کا نام جس کا پھول اشرفی کی مانند زرد اور گول ہوتا ہے۔

اشرفیاں لٹیں کوسلوں پر گھر۔ [ایشل] فضول مصارف پر تو لاکھوں اڑیں مگر

صنوری اخراجات میں بخل کیا جائے۔

اشعار - (اش۔ عار) شعر کی جمع۔ ابیات۔

اشعر - (اش۔ ع) [ع۔ صف] (۱) زیادہ شعر کہنے والا (۲) بہت اور لمبے بالوں والا۔

اشعری - (اش۔ ع۔ ری) [ع۔ صف] بہت لمبے بالوں والا (۱) ایک آدمی

تھا۔ جب پیدا ہوا تو اس کے سارے جسم پر لمبے لمبے بال تھے۔

اشعریہ - (اش۔ ع۔ ری۔ ی) [ع۔ ۱۔ مذ] حکمائے اسلام کا ایک طبقہ۔ جمع:

اشعریین۔ ابو الحسن اشعری کے پیروکار۔

اشغال - (اش۔ غال) [ع۔ ۱۔ مذ] شغل کی جمع۔ مشغلے۔ کام۔

اشغلا - (اش۔ غ۔ لا) [ع۔ ۱۔ مذ] فتنہ و فساد کی بات۔

اشغلا اٹھانا۔ طوفان اٹھانا۔ فتنہ برپا کرنا۔ بہتان لگانا۔

اشغلا چھوڑنا۔ انوکھی بات کرنا۔ چٹکلا چھوڑنا۔ کوئی بات بنا کر دوا دمیوں کو

لڑوا دینا۔

اشفاق - (اش۔ فاق) [ع۔ ۱۔ مذ] شفقت کی جمع۔ مہربانیاں۔ عنایتیں۔

اشفافی - (اش۔ فاق) [ع۔ ۱۔ مذ] نرمی کرنا۔ مہربانی کرنا۔

اشقیاء - (اش۔ ق۔ یا) [ع۔ ۱۔ مذ] شقی کی جمع۔ بدبخت۔ سنگدل۔ بے رحم عالم۔ بگ

اشک - [ف۔ ۱۔ مذ] آنسو۔ ٹسو۔

اشکبار - اشک فشاں۔ آنسو برسنے والا۔ رسنے والا۔

اشکباری - آنسو برسانا۔ رونا۔

اشک بھرانا۔ آنکھوں میں آنسو آجانا۔

اشک جگر سوز۔ جگر کو جلانے والا آنسو۔ گرم آنسو۔

اشک سحر گاہی۔ صبح کا رونا۔

اشک شادی۔ وہ آنسو جو فطرت سے آنکھوں میں آجائیں۔

اشک شفق گوں۔ خون کے آنسو۔ شام کی سُرخ جیسے سُرخ آنسو۔

اشک شمع - [ف۔ صف] جلنی ہوئی موم تہی کے گرنے ہوئے مومی قطرے۔

اشک شونی (۱) آنسو پونچھنا۔ رسنے کی آنکھ پونچھنا (۲) تسلی دینا۔ دلاسا دینا۔

اشک فشانی۔ آنسو بہانا۔ رونا۔

اشک کباب۔ وہ پانی جو آگ پر رکھنے سے کباب میں سے نکلتا ہے۔

اشک ندامت - [ف۔ صف] شرمندگی اور پشیمانی کے باعث نکلنے والا آنسو۔

اشکال - (اش۔ کال) [ع۔ ۱۔ مٹ] شکل کی جمع۔ شکلیں۔ صورتیں۔

اشکال - (اش۔ کال) [ع۔ ۱۔ مذ] مشکل۔ دشواری۔

اشکال پیش آنا۔ دشواری پیش آنا۔

اشک - (اش۔ لک) [ت۔ ۱۔ مٹ] تہمت۔ بہتان۔

اشک لگانا۔ تہمت لگانا۔ بہتان لگانا۔

اشلوک - (اش۔ لوک) [ع۔ ۱۔ ۵۔ مذ] (۱) نظم شعر۔ بیت۔ دوہا (۲) حمد۔ نعت

اشنان - (اش۔ نان) [ع۔ ۱۔ ۵۔ مذ] غسل۔ نہانا۔

اشوک - (اشوک) [س۔ ۱۔ مذ] (۱) ایک درخت کا نام (۲) قدیم ہندوستان

کے ایک مشہور راجہ کا نام۔

اشوک منجری۔ ساگ کا ایک سُرجل میں ۲۸ حروف ہوتے ہیں۔

اشہاد - (اش۔ ہاد) [ع۔ ۱۔ مذ] شاہد کی جمع۔ گواہ۔

اشہاد - (اش۔ ہاد) [ع۔ ۱۔ مذ] شہادت دینا۔ ثبوت پیش کرنا۔

اشہب - (اش۔ ہب) [ع۔ ۱۔ مذ] (۱) سیاہ رنگ کا گھوڑا۔ جس میں سفیدی

فالب ہو۔ سبز گھوڑا (۲) مطلق گھوڑا۔

اشہر - (اش۔ ہر) [ع۔ صف] زیادہ مشہور و معروف۔

اشیا - (اش۔ یا) [ع۔ ۱۔ مٹ] شے کی جمع۔ چیزیں۔

اشیائے صرف۔ روزمرہ استعمال کی چیزیں (Consumer Goods)

اشیر باد (س۔ مٹ) دعائے خیر۔ آئیس۔ دعائے برکت۔

## ا۔ ص

اصابت - (ا۔ صاب۔ بت) [ع۔ ۱۔ مٹ] (۱) رسائی۔ پہنچ (۲) ٹھیک بات کہنا

صیح نتیجے پر پہنچنا۔

اصابع - (ع۔ مٹ) ہاتھ کی انگلیاں۔

اصانع - (ع۔ تصنیف) اصغر کی جمع۔ چھوٹے۔ سب سے چھوٹے۔

اصالت - (ا۔ ص۔ لت) [ع۔ ۱۔ مٹ] اصلیت۔ اصل پن۔ پیدائشی حالت۔

پچھلی عادت۔ قومی اثر۔ لطفہ کا اثر۔



اصطباغ دینا۔ (۱) رنگنا (۲) عیسائی مذہب میں لانا۔ بپتسمہ دینا۔  
 اصطباغ لینا۔ عیسائی مذہب اختیار کرنا۔ بپتسمہ لینا۔  
 اصطلب۔ (اص۔ طبل) (ع۔ ا۔ س) گھڑوں کے باندھنے کی جگہ۔ طویل۔  
 اصطرلاب۔ (اص۔ طر۔ لاب) (ع۔ یو۔ ا۔ ن) ایک آلہ جس سے ستاروں کی  
 بلندی و مقام اور رفتار و ریاضت کرنے میں۔  
 اصطفیٰ۔ (ع۔ ص۔ ط۔ ل) برگزینی۔ انتخاب (۲) چھیننا۔ منتخب کرنا۔  
 اصطلاح۔ (اص۔ ل۔ ح) (ع۔ ا۔ م) کسی علمی یا فنی گروہ کا کسی لفظ کے  
 عام معنوں کے علاوہ کوئی خاص معنوم مقرر کر لینا۔ مرادی معنی۔  
 اصطلاحات۔ (اص۔ ط۔ ل۔ ح) (ع۔ ا۔ م) اصطلاح کی جمع۔  
 اصطلاحی۔ (اص۔ ط۔ ل۔ ح) (ع۔ ص۔ ف) منسوب بہ اصطلاح کسی خاص مفہوم  
 اور محاورے کے متعلق۔  
 اصغر۔ (اص۔ غ) (ع۔ ص۔ ف) نہایت چھوٹا۔ جمع: اصاغر  
 اصغمان نصف جہان۔ (ن۔ م۔ ل) ایران کا شہر اصغمان آدھی دنیا کے  
 برابر ہے۔ کسی زمانے میں یہ شہر بہت آباد تھا۔  
 اصفیاء۔ (اص۔ ف۔ ی) (ع۔ ا۔ ن) صفی کی جگہ۔ بزرگ لوگ۔ چنے ہوئے  
 لوگ۔ پاک باطن لوگ۔  
 اصل۔ (ع۔ ا۔ م) (۱) بنیاد۔ جڑ (۲) منبع۔ سرچشمہ۔ نکاس۔ مادہ (۳)  
 تخم۔ بیج (۴) سنت۔ عطر۔ خلاصہ (۵) سرشت۔ طہینت۔ جبلت (۶) حقیقت  
 ماہیت۔ کائنات (۷) نسب۔ لفظ کا اثر۔ خاندانی اثر (۸) سبب (۹)  
 سرمایہ۔ پونجی۔ مول۔ خلاف سود۔ مال (۱۰) ذات (۱۱) شریف۔ خاندانی  
 (۱۲) کتاب کی عبارت۔ متن۔ قول (۱۳) اول۔ مقدم (۱۴) ٹھیک۔ قلمی  
 (۱۵) خالص۔ جو کھا بے کھوٹ۔ کھرا۔ جمع: اصول۔  
 اصلُ الاصول۔ (ع۔ ن) خلاصہ۔ لب لباب۔ علت غائی۔  
 اصلُ الشئ۔ ایک قسم کی جڑ جو دو میں کام آتی ہے۔ ملتھی۔  
 اصل اصل ہے نقل نقل۔ (امثال) جو عمل کی اصل میں ہو سکتی ہے نقل میں  
 نہیں ہو سکتی۔  
 اصل اصول۔ جڑوں کی جڑ۔ اصلی بات۔ جڑ کی بات۔ حقیقی اور بنیادی  
 شے۔ علت غائی۔  
 اصل بد از بدی خطا نہ کند۔ (مثلاً) بد ضرور بدی کرتا ہے۔ کیسے بدی  
 کو چھوڑ نہیں سکتا۔  
 اصل پر آجانا۔ (معاذہ) اپنے کاموں سے نسل یا فطری سستی میں آجانا۔  
 اصل خیر سے۔ خیریت سے۔ بخیر۔ سلامتی سے۔  
 اصل سے خطا نہیں کم اصل سے وفا نہیں۔ (امثال) شریف بڑائی  
 نہیں کر سکتا اور ذلیل سے بھلائی نہیں ہوتی۔  
 اصلاً۔ (اص۔ لا) (ع۔ م) مطلقاً۔ ہرگز کبھی کسی حالت میں۔ بالکل۔ مطلق۔  
 اصلاً۔ (اص۔ ن) (ع۔ ت) تابع فعل (اصل کے اعتبار سے)۔  
 اصلاح۔ (اص۔ ل۔ ح) (ع۔ ا۔ م) (۱) صحت۔ درستی۔ برست (۲) ترمیم  
 تصحیح۔ نظر ثانی (۳) طب کی اصطلاح اور یہ کو مناسب مزاج پر لانا (۴)  
 (۱)۔ (مثلاً) حجامت۔ درستی۔ خط۔ جمع: اصلاحات۔  
 اصلاح بنوانا۔ حجامت بنوانا۔ خط بنوانا۔

اصالت پر آجانا، جانا، نڈتی یا نڈانی اثر دکھانا (۲) شہرت پر آنا (۳) کھینچنی پر آنا  
 اصالتاً۔ (اص۔ ل۔ ن) (ع۔ ت) تابع مہل (بذات خود۔ بلا وسیلہ خود آپ  
 بہ نفس نفیس) (وکالت کی ضد)  
 اصالتاً حاضر می۔ (کسی دہل کے بغیر) خود حاضر ہونا۔  
 اصباح۔ (ع۔ ص۔ ح) صبح کی جمع۔  
 اصباح۔ (اص۔ باح) (ع۔ ا۔ م) سویرا۔ صبح کرنا۔  
 اصح۔ (ع۔ ن) (ع۔ ن) درست ترین۔ بہت صحیح۔  
 اصحاب۔ (ع۔ ص) صحو۔ ہوشیاری۔ مستی سے ہوشیاری میں آنا۔  
 اصحاب۔ (اص۔ ح) (ع۔ ا۔ ن) صاحب کی جمع (۱) ہم نشین۔ دوست۔  
 (۲) وہ بزرگ جنہوں نے بحالت ایمان آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا  
 اور ایمان پر فوت ہوئے۔  
 اصحاب الاخدود۔ خندق والے عین کا بادشاہ ذونواس اور اس کے پیروکار جنہوں  
 نے اپنے ملک کے عیسائیوں کو خندق میں زندہ دفن کر دیا تھا۔  
 اصحاب الرائے۔ (ع۔ ن) وہ فقہاء جو مسائل کے استنباط میں قیاس اور  
 رائے سے کام لیں۔  
 اصحاب الشمال۔ بائیں طرف والے جن کی صفیں تخت رب العالمین کے بائیں  
 طرف ہوں گی۔ دوزخی لوگ۔  
 اصحاب الفرائض۔ اصحاب الفروض۔ (فقہ) میں وہ وارث جن کے  
 حصے قرآن مجید نے متعین کر دیئے ہیں۔ ان کی تفصیل سورۃ النساء میں  
 درج ہے۔  
 اصحاب المیراث۔ حنفی فقہ کی رو سے وہ وارث جن کو اصحاب الفرائض  
 کے بعد حصہ ملتا ہے۔  
 اصحاب الیمین۔ دہنی طرف والے لوگ۔ بہشت والے لوگ۔  
 اصحاب صفہ۔ صحابہ کرام کا ایک گروہ جو ہر وقت عبادت الہی میں مصروف  
 رہتا تھا حضرت بلالؓ حضرت سلمانؓ حضرت ابوذر غفاریؓ اور حضرت  
 زید ابن الخطابؓ اسی گروہ میں سے تھے۔  
 اصحاب ظاہر (ظواہر) وہ لوگ جو قرآن و حدیث کے ظاہری یا لفظی پر بھروسہ  
 کرتے ہیں اور ان کے خلاف کوئی معنی سننے درست نہیں سمجھتے۔  
 اصحاب قیل۔ باطنی والے۔ ابرہہ شاہ یمین اور اس کا لشکر جو باطنیوں پر چڑھ کر  
 خانہ کعبہ ڈھانے آیا تھا اور جن کو خدا کے حکم سے پرندوں نے کنکر مار مار کر  
 نباہ دیا تھا۔  
 اصحاب کف۔ (۱) صحابہ غار (۲) مسلمانوں کے عقیدے میں پانچ راست  
 یا نو آدمی جو ہزاروں سال کف یعنی غار میں سو رہے ہیں اور قیامت کے دن  
 اٹھائے جائیں گے۔ ان کے ساتھ ایک کتاب بھی ہے۔  
 اصرار۔ (اص۔ ر) (ع۔ ا۔ ن) (۱) ہٹ۔ ضد۔ اڑ۔ (۲) تاکید۔  
 اصراف۔ (اص۔ ر) (ع۔ ا۔ ن) صرف کی جمع۔ بہت سے خرچ۔  
 اصراف۔ (اص۔ ر) (ع۔ ا۔ ن) صرف۔ خرچ۔ خرچ کرنا۔  
 اصطبغ۔ (اص۔ ط۔ باغ) (ع۔ ا۔ ن) (۱) رنگ۔ چڑھانا۔ رنگنا۔ مذہب  
 میں ملانا (۲) عیسائی مذہب اختیار کرتے وقت سر پر پانی چھڑکنے کی  
 رسم اور کرنا۔ بپتسمہ۔







اضمحلال - (اض - مح - لال) [ع - ۱ - مذ] پژمردگی - کسل - سستی - کاہلی - انسر دگی -

اظہار - (اظ - ہار) [ع - ۱ - مذ] ظاہر کی جمع - پاک لوگ -  
 اظہر - (اظ - ہر) [ع - صف] بہت پاک -  
 اظیب - (اظ - یب) [ع - صف] نہایت پاک - نہایت خوشبودار - بہت اچھا -

ا - ط

اطاعت - (ا - ط - عت) [ع - ۱ - مث] تابع داری - بندگی - فرماں برداری -  
 تعمیل حکم - جمع - اطاعات -

ا - ظ

اظلال - (اظ - لال) [ع - ۱ - مذ] نفل کی جمع - سلائے -  
 اظلال - (اظ - لال) [ع - ۱ - مذ] سایہ ڈالنا -  
 اظلام - [ع - مذ] تاریک کرنا -

اطاعت گزار - اطاعت کرنے والا - فرماں بردار -  
 اطاق - (ا - ط - اق) [ت - ۱ - مذ] کمرہ - حجرہ - دالان -  
 اطلال - (ا - ط - ال) [ع - فعل ماضی] لمبا کرے - بڑھائے -

اظلم - [اظ - لم] [ع - صف] بہت بڑا ظالم - نہایت تکلیف دینے والا -  
 اظہار - (اظ - ہار) [ع - ۱ - مذ] (۱) کھولنا - ظاہر کرنا - ظاہر ہونا (۲) بیان شہادت  
 کیفیت حقیقت (۳) وہ بیان جو عدالت میں دیا جائے -

اطال السنۃ - خدا اس کی عمر بڑھاتے - دعائیہ القاب جو چھوٹوں کو  
 لکھا جاتا ہے -

اظہار حلفی - تسمیہ گواہی -  
 اظہار دینا - عدالت میں گواہی دینا - بیان لکھوانا -  
 اظہار قانونی - قانون کی رو سے درست گواہی -

اطالیہ - (ا - ط - الی) [ع - صف] اطالیہ (اطلی) سے منسوب - اطلی کا باشندہ -  
 اطالیہ - یورپ کا ایک مشہور ملک (اطلی)

اظہار کرنا - (محاورہ) بیان کرنا - ظاہر کرنا -  
 اظہار لینا - (محاورہ) بیان لینا - گواہی لینا - اہل مقدمہ سے مقدمہ کے حالات سننا -  
 اظہار نامہ - عدالت کا سمن - اطلاع نامہ -

اطبیا - (ا - ط - بیا) [ع - ۱ - مذ] طبیب کی جمع - وید - حکیم - ڈاکٹر - دوا دار  
 کرنے والے -

اظہار نویس - وہ محرر جو بیان اور شہادت لکھتا ہے -  
 اظہر - (اظ - ہر) [ع - صف] خوب ظاہر - نہایت صریح اور واضح -  
 اظہر من الشمس - سورج سے زیادہ ظاہر - شوبج کی طرح ظاہر اور عیاں -

اطراف - (ا - ط - راف) [ع - ۱ - مث] طرف کی جمع - سمتیں - طرفیں - کنارے -  
 اطر فیض - (ا - ط - ری - فیض) [ع - ۱ - مذ] اتری پھل کا معرب - دیکھیے اتری پھل -

ا - ع

اعادہ - (ا - ع - ادہ) [ع - ۱ - مذ] لوٹانا - پھیر کر لوٹانا - دوہرانا - بار بار کرنا -  
 اعادۃ شباب - [ع - مذ] بڑھاپے میں جوانی کی دوبارہ طاقت - امانگ پیدا کرنا -  
 اعظام - (ا - ع - ظم) [ع - ۱ - مذ] اعظم کی جمع - بہت بڑے لوگ -

اطعمہ - (ا - ط - ع - مہ) [ع - ۱ - مذ] طعام کی جمع - کھانے - غذا - بھو جن -  
 اطفا - (ا - ط - فا) [ع - ۱ - مذ] آگ بجھانا -

اعانت - (ا - ع - انت) [ع - ۱ - مث] مدد - سہارا - جمع : اعانات -  
 اعانت مجرمانہ - جرم میں مدد دینا -  
 اعتناق - (ا - ع - تاق) [ع - ۱ - مذ] غلام یا باندی کو آزاد کرنا -

اطفال - (ا - ط - فال) [ع - ۱ - مذ] طفل کی جمع - لڑکے - بالے - بال بچے -  
 اطلاع - (ا - ط - ل - ع) [ع - ۱ - مث] (۱) آگاہی - خبر - رپورٹ (۲) نوٹس  
 اعلان - اشتہار - جمع : اطلاعات -

اعتبار - (ا - ع - بار) [ع - ۱ - مذ] (۱) نیکہ - بھروسا - ساکھ - اعتماد (۲) یقین  
 (۳) لحاظ (اس اعتبار سے وہ تم سے اچھا ہے) جمع : اعتبارات -  
 اعتبار آنا - یقین آنا -

اطلاع نامہ - وہ چٹھی جو خبر دینے کے لیے بھیجی جائے - سمن - نوٹس - پڑانہ  
 حکم نامہ -

اعتبار اٹھانا - اعتبار جانا رہنا - اعتماد میں رہنا - ساکھ نہ رہنا -  
 اعتبار کرنا - بھروسہ کرنا - یقین کرنا -  
 اعتبار نامہ - سند - سرٹیفکیٹ -

اطلاعاً - (ا - ط - ل - ع) [ع - تابع فعل] برائے اطلاع - آگاہی کے لیے  
 باخبر کرنے کے لیے -

اعتباری - (ا - ع - ی) [ع - صف] قابل اعتبار - معتبر - بھروسے کے لائق -  
 اعتدال - (ا - ع - ت - ال) [ع - ۱ - مذ] نہ کی نہ زیادتی - درمیانی درجہ - میانہ روی -  
 اعتدال پر رہنا - (محاورہ) میانہ روی رکھنا - ہر کام مناسب طریق پر کا -  
 اعتدال پسند - میانہ روی پسند کرنے والا -

اطلاع یابی - [ع - ن - مث] خبر پانا - آگاہ ہونا - باخبری -  
 اطلاع - (ا - ط - ل - ع) [ع - ن - صف] خبر دینے والی - آگاہ کرنے والے  
 (چٹھی - نوٹس یا خبر وغیرہ) وہ چیز جو کسی کے متعلق اطلاع دے -

اعتدال پر رہنا - (محاورہ) میانہ روی رکھنا - ہر کام مناسب طریق پر کا -  
 اعتدال پسند - میانہ روی پسند کرنے والا -

اطلاق - (ا - ط - لاق) [ع - ۱ - مذ] رواں کرنا - جاری کرنا - بولاجانا - استعمال ہونا  
 منطبق ہونا - غائب ہونا - کسی چیز کا دوسری پر محمول کرنا -

اطلاق نویسی - سمن کے اجراء اور خرچ کا حساب کتاب رکھنے والا انسر -  
 اطلس - (ا - ط - لس) [ع - ۱ - مذ] ایک قسم کا ریشمی کپڑا -

اطمینان - (ا - ط - م - انان) [ع - ۱ - مذ] دل جمعی - ڈھارس - خاطر جمع - تسلی  
 دلاسا - صبر - طمانیت -

اطناب - (ا - ط - ناب) [ع - ۱ - مذ] مٹ [ع - ۱ - مذ] مٹا ہونے کی سی بات  
 اطناب - (ا - ط - ناب) [ع - ۱ - مذ] بات کو طویل لینا -

اطوار - (ا - ط - وار) [ع - ۱ - مذ] طور کی جمع - وضع - ڈھنگ - طریقے - چال چلن  
 روش -  
 اطول - (ا - ط - ول) [ع - صف] بہت طویل - بہت لمبا -







# ا-ف

**اَف** [ع] (۱) آہ - اودہ (حیرت) دردیاریج کے اظہار کے لیے (۲) افسوس (تاسف کے لیے) (۳) کسی چیز کی زیادتی ظاہر کرنے کے لیے بھی بولا جاتا ہے۔  
**اَف اَف** کرنا - کراہنا - آہ کرنا۔

**اَف تیرا** کاٹنا جسے - سخت ظالم - مردم آزاری فریبی و مفسدہ پروردگی نسبت کہتے ہیں۔

**اَف رے** - (کلمہ حیرت) آہ سے - اودہ سے - اللہ سے - ہائے سے۔

**اَف کر دینا** - (مجاددہ) جلا کر خاکستر کر دینا (۲) اجاڑ دینا - تباہ کر دینا۔

**اَف نہ کرنا** - (مجاددہ) (۱) سانس نہ نکالنا - صدمہ کے باوجود منہ سے آہ نہ نکالنا (۲) کچھ نہ بولنا - شکایت زبان پر نہ لانا (۳) ضبط کرنا۔

**اَف ہو جانا** - (مجاددہ) خاک اُڑ جانا - کچھ باقی نہ رہنا - صفایا ہو جانا - جل کر راکھ ہو جانا - مٹ جانا - فنا ہو جانا۔

**اَفادہ** - (افا - وہ) [ف - ا - ہ] فائدہ پہنچانا (۲) نفع - یافت (۳) تعلیم تلمیق تربیت - جمع : افادات

افادہ عام - سب کو فائدہ پہنچانا۔

**اَفاضل** - (ا - فا - فضل) [ع - ا - ہ] افضل کی جمع - عالم و فاضل لوگ - بزرگ لوگ۔

**اَفاضلہ** - (ا - فا - ضلہ) [ع - ا - ہ] فیض پہنچانا - فائدہ پہنچانا - جمع : افاضات

**اَفاعیل** - (ا - فا - عیل) [ع - ا - ہ] علم عرذض کے ارکان جن سے بھری بنائی جاتی ہیں

**اَفاعنہ** - (ا - فا - عنہ) [ع - ا - ہ] افغان کی جمع - افغانستان کے لوگ - پٹھان -

**اَفاقہ** - (ا - فا - قہ) [ع - ا - ہ] (۱) ہوش میں آنا (۲) قد سے آرام - مرض میں کمی

صحت - آرام - شفا۔

**اَفیاء** - (ا - فا - یاء) [ع - ا - ہ] فتویٰ دینا۔

**اَفیاد** - (ا - فا - یاد) [ع - ا - ہ] (۱) دکھ مصیبت (۲) اتفاقیہ اور اچا

ساختہ (۳) بنیاد - ابتدا - شروع (۴) فطرت طبیعت -

اَفیاد پڑنا - حادثہ پیش آنا - مصیبت آنا۔

**اَفیادگی** - (ا - فا - یادگی) [ع - ا - ہ] عاجزی - انکسار - خاکساری۔

تنگدستی - افلاس۔

**اَفیادہ** - (ا - فا - یادہ) [ع - ا - ہ] (۱) گرا پڑا - در ماندہ (۲) بغیر جوتی ہوئی

ناکارہ زمین غیر مزدور زمین - جمع : اَفیادگان

**اَفان و خیزاں** - (ا - فا - ن و خیزاں) [ع - ا - ہ] (۱) گرتے پڑتے

بدحواسی کی حالت میں (۲) بہت مشکل سے۔

**اَفتتاح** - (ا - فا - تتاح) [ع - ا - ہ] شروع کرنا - کھولنا - ظاہر کرنا۔

بے نقاب کرنا۔

**اَفتتاحیہ** - (ا - فا - تتاحیہ) [ع - ا - ہ] (۱) اخبار کا ادارہ - ایڈیٹوریل

(۲) کتاب کا دیباچہ [صف] افتتاح سے منسوب۔

**اَفتخار** - (ا - فا - ت - خار) [ع - ا - ہ] فخر - بزرگی - عزت - ناز - گھمنڈ۔

**اَفترا** - (ا - فا - ترا) [ع - ا - ہ] تہمت - بہتان - جھوٹا الزام۔

اَفترا باندھنا - تہمت لگانا - بہتان باندھنا۔

اَفترا پرداز - تہمت لگانے والا - الزام لگانے والا۔

**اَعلیٰ علیین** - بند بہشت - بہشت کا سب سے بڑا درجہ۔

**اَعماق** - (ا - ع - ما - ق) [ع - ا - ہ] عمق کی جمع - گہرائیاں۔

**اَعمال** - (ا - ع - مال) [ع - ا - ہ] عمل کی جمع (۱) کام - افعال - کرتی (۲)

ورد - وظائف۔

**اَعمال نامہ** - (۱) وہ رجسٹر جس میں کرنا کا تبین انسان کے برے بھلے

کام لکھتے ہیں - (۲) وہ رجسٹر جس میں سرکاری ملازموں کی کارکردگی

لکھی جاتی ہیں - (انگ) (Service Book)

**اَعمام** - (ا - ع - مام) [ع - ا - ہ] عم کی جگہ - چچا اور چھوپھا۔

**اَعلیٰ** - (ا - ع - ما) [ع - ص - ف] اندھا - نابینا - جمع : عیمان۔

**اَعنی** - (ا - ع - نی) [ع - ا - ہ] میں مراد رکھتا ہوں - میری مراد ہے (مشکل کا صیغہ)

**اَعوان** - (ا - ع - وان) [ع - ا - ہ] عون کی جمع - بہت سے حامی اور مددگار۔

**اَعیان** - (ا - ع - یان) [ع - ا - ہ] عین کی جمع (۱) آنکھیں (۲) چشمے (۳)

اُمراد و ذرا سر کردہ لوگ۔

# ا-غ

**اَعذیہ** - (ا - ع - ذیہ) [ع - ا - ہ] (۱) مٹا کر جمع - غذائیں - خوراکیں - کھانے

**اَعراض** - (ا - ع - راض) [ع - ا - ہ] مٹا کر جمع - مطالب - مفاسد - تبتیں

ارادے - حاجتیں۔

**اَعراق** - (ا - ع - راق) [ع - ا - ہ] بہت مبالغہ کرنا - بہت بڑھا چڑھا کر

بیان کرنا (۲) ڈبو دینا۔

**اَعلاط** - (ا - ع - لاط) [ع - ا - ہ] مٹا کر جمع - بھول چوک - خطائیں۔

**اَعلاق** - (ا - ع - لاق) [ع - ا - ہ] کلام کو مشکل کرنا - پیچیدہ کرنا۔

**اَعلام** - (ا - ع - لام) [ع - ا - ہ] لوگوں کے ساتھ بد فعلی کرنا - لوٹنے - لوٹنے بلوی

خلاف وضع فطری۔

**اَعلامی** - (ا - ع - لامی) [ع - ا - ہ] (۱) لوٹنے سے باز - اَعلام کرنے والا۔

(۲) اَعلام کرانے والا۔

**اَعلب** - (ا - ع - لب) [ع - ص - ف] غالب تر - زیادہ غالب یقین کے تریب۔

ضرور یقینی۔

**اَعْل** - (ا - ع - ل) [ع - ا - ہ] (۱) اِدھر اُدھر - آس پاس۔

**اَعْلط** - (ا - ع - لط) [ع - ص - ف] بہت نلٹ۔

**اَعماز** - (ا - ع - ما - ز) [ع - ا - ہ] (۱) ناز کرنا - غمزہ - ناز و ادا (۲) غور۔

گھنڈ - اترانا۔

**اَعماض** - (ا - ع - ما - ض) [ع - ا - ہ] روگردانی کرنا - درگزر - چشم پوشی۔

**اَعنبا** - (ا - ع - ن - با) [ع - ا - ہ] غنی کی جمع - دولت مند لوگ۔

**اَعوا** - (ا - ع - وا) [ع - ا - ہ] (۱) درغلانہ - بھکانا (۲) بھکا کر بھگالے جانا۔

لے بھگانا (۳) اُبھارنا - اُکھیرنا - اُکسانا۔

**اَعوا کرنا** - (۱) بھکانا - درغلانہ (۲) کسی کو بھکا کر لے بھگانا۔

**اَعیار** - (ا - ع - یار) [ع - ا - ہ] غیر کی جمع (۱) اجنبی - بیگانے جن سے رشتہ داری

نہ ہو (۲) عدد و دشمن - رقیب۔



